

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرُحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

# رسائل عشره

المعروف

## کلده ترمضابین

(از تصانیف)

حضرت العلامة مولانا قاضی محمد سلیمان صاحب سکنان منصور پوری

سشن حج پیالہ و مصنف رحمۃ اللعالمین


(بাহتمام)

المکتبۃ الاشریۃ جامع الحدیث باغ والی

سانگلہ ہل ضلع شیخوپورہ

المکتبۃ الاشریۃ

شعبہ اولیٰ لاہور



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِیْنَ

# سُئِلَ عَشْرَةٌ

المعروف

## كليلة من فضائل

(از تصانیف)

حضرت العلامة مولانا قاضی محمد سلیمان صاحب سبستان منصور پوری

سشن حج بیجاہ و مصنف رحمۃ اللعالمین

(بہتمام)

المکتبۃ الاشرفیہ ماچان مع الحدیث پبلیشرز والی

سانگھہ ہل ضلع ٹینیس پورہ

**DATA ENTERED**

✓  
۲۹۲۳-۲  
۱۲۵۲  
۱۲۹۸۷

## DATA ENTERED

رسائل عشرہ المعروفہ مکتبہ مصلحین (یعنی خطبات تیسما)	نام کتاب
حضرت العلامة مولانا قاضی محمد سلیمان صاحب سلیج	نام مصنف
منصور پوری مصنف رحمۃ اللعالمین	
المکتبۃ الاسلامیۃ جامعہ الجمدین باغوالی	ناشر
سانگلہ ہل ————— ضلع شیخوپورہ	
مارچ ۱۹۶۲ء	تاریخ اشاعت
پانچ صد ————— ۵۰۰	تعداد اشاعت
ریاض احمد شعیب (حضرت کیلیانوالہ)	نام کاتب
دین محمدی پریس لاہور	مطبع
نور روپے	قیمت مجلد
اسلامی اکیڈمی لاہور (اردو بازار)	لاہور میں منیجمنٹ کاپینر

## فہرست مضامین رسائل عشرہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۴	تبلیغ اسلام	۳	از مذہب الحدیث
۶۷	قبائل جن میں تبلیغ نبویہ کی گئی		توحید
۶۸	میدان میں تبلیغ		توحید فی العلم
۷۰	فیوض اسلام اور ادیان متعددہ		توحید فی التدبیر
۷۲	بالمگیر مذہب میں ہمہ گیری کی کیفیت		توحید فی الملک
۷۶	مارٹن لوتھر اور یورپ	۱۲	مذہب الحدیث
۷۷	مسیح اور تلوار	۱۷	حیات مسیح، نبوت قادریانی، تناسخ
"	۱۸۱۸ء کا جنگ یورپ	۱۹	اعتراضات سنیارتھ و قرآن شریف
۷۸	صراط مستقیم کے قیام میں سلام کی مساعی	"	حالات حجاز، حالات حاضرہ
۸۰	رگ وید	۲۵	۲۔ فرائض الحدیث
۸۱	اسلام کا فیصلہ	۴۱	۳۔ اصول تبلیغ
"	خصوصیات ملکی کے اختلاف	۵۷	۴۔ تبلیغ اسلام
۸۲	بلال و باقوم، ابو جہل و ابولہب	"	تبلیغی مذہب کے دو اصول
۸۴	اچارح، دیانند اور سندھیا	"	مذہب دنیا کی تقسیم
۸۵	اسلام کے امتیازی اصول	۵۸	سنسکرت تہ پڑھنے کا حکم
۹۰	یورپ اور اس کے ماتحت افسر کی تنگ نظری	۵۹	عیسائیت
۹۳	اسلام پر اعتراضات	۶۳	اختلافات پولوس اور برنباس، شدھی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۶	عہد ایکسٹیمیکر عہد انگلشیہ تک مسلمانوں	۹۲	اسلام اور تعدد زوجات
	کی مردم شماری	۹۵	اسلام کا حکم و حید
۱۲۹	اسلامی اشاعت کی وجوہات	۹۶	اسلام اور غلامی
۱۵۱	قابل خورد و مسئلے	۱۰۰	اسلام اور پردہ
۱۵۵	۶۔ الاسلام فی البند	۱۰۲	اسلام اور جنگ
	۷۔ پیغام اسلام	۱۰۵	مسلمان اور صلاحیت حکمرانی
۱۶۲	پیغام اسلام	۱۰۶	ایکیت الناس جملہ ادیان کی خدمت میں
۱۶۶	پیغام کاملنا	۱۱۱	۵۔ کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا یا گیا
"	پیغام سنانے کی دشواریاں	۱۱۲	بالنص انگریزوں کی راہیں
۱۶۹	حضور کے خلاف کبیٹیاں	۱۱۵	۸۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی درگذر کے نمونے
۱۸۰	مبلغین کی جماعت	۱۲۵	اسلامی تعلیم کا دیگر مذاہب کی تعلیم سے
۱۸۳	دین الہی اسلام ہے		مقابلہ
"	اسلام اور سلم کے معنی	۱۲۶	عیسائیوں پر عیسائیوں کے ظلم
۱۸۵	دین القنطرت اور دین الہی	۱۲۲	نور مسلموں اور نور مسیحوں کا موازنہ
"	دعوت اسلام جملہ ادیان کے اصول	۱۳۳	اسلامی جہاد کی غرض و غایت
	پر ہے	۱۳۸	بادشاہان اسلام کے تعصبات
۱۸۶	چار سیوں سے خطاب	۱۳۹	مغول ناتار کا مسلمان ہونا
"	کو نسائوں کی اصلاحات	۱۴۲	تاج برطانیہ کے سائے میں سلامتی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۹	اصول اول	۱۸۷	یہودیوں سے خطاب
۲۱۲	اصول دوم	۱۸۸	ساتھ دھرمیوں سے خطاب
۲۱۷	اصول سوم	۱۸۹	الوایا نشد
۲۱۹	اصول چہارم	۱۹۰	بودھ ازم سے خطاب
۲۲۲	اصول پنجم	۱۹۱	رسالت عامہ و تمامہ
۲۲۲	اصول ششم	۱۹۲	انکار اسلام انکار انسانیت ہے
۲۳۷	اصول ہفتم	۱۹۳	افراط و تفریط میں اعتدال
۲۴۰	۹۔ خطبہ صدارت	۱۹۵	حضرت سلطان الہند
۲۴۱	آل انڈیا اہلحدیث کانفرنس کے مقاصد	۱۹۶	سید تاپیر عبدالقادر جیلانی ؒ
"	مقصد اول	"	سید نابلال رضی اللہ عنہ
۲۴۲	مقصد دوم	۱۹۷	ابو جنید رضی اللہ عنہ
۲۵۳	مقصد سوم	۱۹۸	اچھوت نہیں آدھندو
۲۵۴	مقصد چہارم	۱۹۹	پیروز گاری و بے ہنری
۲۷۱	مقصد پنجم	۲۰۰	اللہ کے ساتھ معاملہ کی درستی
۲۷۲	مقصد ششم		۸۔ فضائل اسلام
۲۷۷	۱۰۔ تعریفِ مسلم	۲۰۸	اسلام زندہ اصولوں کو لے کر آیا ہے



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پیش لفظ

حضرت العلامة مولانا قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ  
سیشن جج پٹیالہ، رحمۃ للعالمین کے شہرہ آفاق مصنف مختار تعارف نہیں۔ ان کے  
متعلق مجھ ایسے پچھدان کے لیے کچھ عرض کرنا سورتج کو چراغ دکھانا ہے۔  
آپ نادر روزگار ہستیوں میں سے ایک گوہر نایاب تھے۔

آپ کے علم حدیث میں سلف امت، قرآن مجید کی تفسیری نکتہ آفرینی میں امام ازی  
جملہ مذاہب پر عبور میں امام ابن حزم، علم تاریخ میں امام طبری وغیرہ اور تبلیغ حق میں  
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی جھلک نظر آتی ہے۔

آپ کی ساری زندگی خدمت خلق اور تبلیغ حق میں گزری ہے۔

آپ عدالت میں مظلومین کی داورسی بھی کرنے اور طالبان علم کو اپنی نصیحت  
لطیفہ سے بہرہ ور بھی کرنے، ملک کے اطراف و اکناف میں جہاں کہیں تبلیغ اسلام کے  
لیے اجتماعات ہوتے آپ کو نہایت اعزاز سے مدعو کیا جاتا تھا۔ آپ اپنی گونا گوں مصروفیات  
کے باوصف وہاں شرکت فرماتے اور مختلف موضوعات پر خالص علمی روشنی میں ایسی  
نقارہ پرارشا فرماتے کہ دنیا عش عش کو اکھٹی۔

آپ کی تقریروں اور خطبوں میں، اسلام، اسلام کے فضائل، اسلام کی عالمگیریت  
اسلام اور دیگر مذاہب باطلہ کا مقابلہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ  
ایسے اہم موضوعات ہوتے تھے جب بیان فرماتے تو بحرِ بے کنار بہتا نظر آتا، عوام و خواص

برابر مخطوطہ نظر ہوتے تھے۔

مرکز قاضی صاحب کے بعض خطبات کو اقاوہ عام کے پیش نظر بعض تبلیغی اداروں نے علیحدہ علیحدہ بھی طبع کیے۔ اور آپ کی حیات مبارکہ میں بھی طبع ہوئے۔

زیر نظر کتاب رسائل عشرہ وہی خطبات ہیں جن کے عنواناً مذہب الحدیث، الحدیث کے فرائض، تبلیغ اسلام، اصول تبلیغ، کیا اسلام بزرگ شمشیر پھیلایا گیا، الاسلام فی الهند، ان خطبات میں قاضی صاحب نے تاریخی معلومات کے وہ دریابہائے ہیں کہ بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں ملنے مشکل ہیں۔

۱۷) پیام اسلام (۸)، فضائل اسلام (۹)، خطبہ صدارت (۱۰) خطبہ آپ کے آل انڈیا انجمنیہ کا انفرس کے پندرہویں سالانہ جلسہ آگہ ۳۵ جون ۱۹۲۵ء کو پڑھا، اس خطبہ کو حاضرین نے نہایت توجہ سے سنا اور جماعت میں بہت پسند کیا گیا۔

۱۰۔ تعریف مسلم

یہ خطبات پہلے علیحدہ علیحدہ طبع ہوئے تھے۔ بعد ازاں مولانا عبدالمجید سوہدروی نے رسائل عشرہ کی صورت میں طبع کرائے اور ختم ہو گئے۔ چونکہ یہ رسائل بے بہا علمی حقائق و معارف کا ایک گنجینہ ہیں اس لیے ضرورت تھی کہ انہیں طبع کرایا جائے۔

اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہے کہ اب کی بار ان رسائل کی طباعت کی سعادت اہل کتبہ الاثریہ کو حاصل ہو رہی ہے۔ ضرورت تھی کہ ایسی ماہر ناز کتاب کی طباعت عام ہوتی لیکن کاغذ کی ہنگامی کمی کے پیش نظر بہت قلیل تعداد میں طبع کی جاسکی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

طالب دعا

سجد الشکر و شکر الی اللہ العزیز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
وَاصَلِّ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

## مذہب اہل حدیث

یہ علامہ قاضی محمد سلیمان صاحب مرحوم کا وہ خطبہ صدارت ہے جو آپ نے انجمن خادم المسلمین  
اہل حدیث بٹالہ کے دوسرے سالانہ جلسہ پر ۲۹ نومبر ۱۹۲۹ء کو پڑھا تھا۔ اس میں آپ نے  
اہل حدیث کے اُصولی مسائل نہایت وضاحت سے بیان فرمائے ہیں اس لیے ناظرین کو  
یہ خاص توجہ سے پڑھنا چاہیے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، أَحْمَدُهُ وَهُوَ الْحَمْدُ أَيْدًا أَبَدًا، وَأَسْتَعِينُهُ وَ  
هُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ مَوْيِدًا، لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَهًا قَائِمًا أَحَدًا،  
فَرْدًا صَدَدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ نَبِيٌّ مَّا ضَلَّ وَمَا غَوَى،  
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، فَصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَارِكْ وَسَلِّمْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآذَانِهِ وَذُرِّيَّتِهِ  
وَأَخْلَافِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَوةً دَائِمًا سَرْمَدًا۔

آمَّا بَعْدُ! معشر المسلمین و بزرگان بٹالہ! آپ کے پریذیڈنٹ انجمن جناب شیخ  
دین محمد صاحب کا خط مجھے ملا۔ جس میں انہوں نے بسبیل تذکرہ مجھے اطلاع دی تھی کہ وہ  
فلاں فلاں مضامین کو اپنی انجمن کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ اور علماء، سیمہ درخواست کرنے

والے ہیں کہ انہی مضامین پر ان کے مواعظ اور تقریریں ہوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اصولی مسائل کو بھی لیا ہے اور ان مسائل کو بھی جن کے متعلق اہل حدیث کو مناظرات کرتے پڑتے ہیں یا اہل حدیث سے مناظرات ہوتے ہیں۔  
میں انہی مضامین کے متعلق اپنے خطبہ میں مختصراً عرض کروں گا۔

## اول توحید

اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے۔ اور جب سے اسلام نے مسئلہ توحید کو دلائل و براہین بینہ کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے تب سے دنیا کے تمام ادیان و مذاہب نے اسے قبول کرتے ہوئے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ بھی اپنے مذاہب کے اندر توحید کا موجود ہونا ثابت کریں۔

ایک مورتی پوجنے والا اور ایشر کو کبھی انسان، کبھی شیر، کبھی کچھو اور غیرہ کی شکل میں مجسم ماننے والا بھی اب اپنی مورتیوں کو صرف ابتدائی تصور قائم کرنے کا ذریعہ بتانے لگا ہے۔ اور ان مورتیوں کو خود ایشر بتانے سے انجن عالم کے سامنے رک جاتا ہے۔ وہ عیسائی جو باپ قدیم، بیٹا قدیم، روح القدس قدیم۔ خدا قادر مطلق، اور روح قادر مطلق ہونے کا راگ کینیس میں الاپتا ہے، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسیح نے اپنی رات نماز اور دعائیں پوری کر دی تھی۔ اور مسیح نے عییب پر چڑھائے جانے کے وقت بھی "ایلی ایلی لہما سبقتنی" کو باواز بند کس تھا۔  
"اے اللہ! اے اللہ! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا!"

آج پرائسٹنٹ اس عقیدہ سے اپنی برأت ظاہر کرتے ہیں جو رومن کیتھولک

کا ہے۔ اور آج یونیٹیزن اس اعتقاد سے اپنے آپ کو بری ظاہر کرتے ہیں جو پراکٹسٹ  
کا ہے۔ یہ تغیر توحید اسلام کے فیضان کا نتیجہ ہے۔

مہاتما گوتم کو ارم کھنہ والے بھی رک گئے ہیں۔ اور اسے بودھ (بیداریاروشن  
رواں) کھنہ پر اکتفا کرنے لگے ہیں۔

تثویہ کے نزدیک اگرچہ یزدان و اہرمن کی جنگ ہنوز جاری ہے تاہم یزدان  
کے درجہ کی برتری ان میں بھی مسلم ہو گئی ہے۔

دہریہ اگرچہ خدا کے نام کا منکر ہے لیکن وہ علت العلل کے نام سے ان صفات  
الہیہ کا انکار نہیں کر سکتا جو اس کے حی القیوم ہونے کے لیے ضروری ہیں۔

برہمن سماج، کبیر پنٹھی، دادو پنٹھی بھی توحید کے راگ گایا کرتے ہیں۔ آریہ بھی

تینیس کرور دیوتاؤں کو مختصر کرتے کرتے تین کو قدیم بالذات کہتے تاک پہنچ گئے ہیں۔

اور معہذا سب شکتی مان وغیرہ الفاظ کا مصداق صرف ایک ہی کو بیان کرتے ہیں۔ اقوام

ادیان کا توحید کی طرف یہ شوق، یہ ارتقا یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک روز ضرور "اسلامی توحید"

کی نعمت تک بفضلہ تعالیٰ فائز ہو جائیں گے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان قوموں نے توحیدِ قائلین تک پہنچنے کے لیے ایک بانٹ

ٹھکے کرنا ہے۔

اسلام کی توحید صرف وحدتِ عددی ہی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اسلام توحید

فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت، توحید فی الاستعانت، توحید

ربوبیت، توحید خالقیت، توحید مالکیت، توحید فی العلم، توحید فی القدرت کے

اسباق بھی سکھلاتا ہے۔ اور جب تک اس سارے نصابِ تعلیم کو ختم نہ کر لیا جائے

اس وقت تک مسئلہ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی۔

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا**۔ یقین کرو کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں اور کوئی معبود نہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ہر ایک نبی و مرسل کی تعلیم اللہ تعالیٰ ہی کی الوہیت اور استحقاق عبادت کا یقین دلانا تھا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء)

آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو ہم نے یہی وحی بھیجی کہ میں ہی معبود ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں لہذا تم میری ہی عبادت کرو

(۳) فرمایا:

هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْكَرَمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

وہی اللہ ہے وہی معبود ہے اور کوئی نہیں۔ کمال اور جمال اور جلال کے صفات کا مالک ازل سے اب تک وہی ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی جانب سب کچھ لوٹ کر جانا ہے (تقصیر)

(۴) فرمایا:

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (ص)

اللہ واحد کے سوا جو سب پر حکمران ہے اور کوئی معبود نہیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں اور ان کی درمیانی مخلوق کا پروردگار ہے وہی قدرت اور غلبہ والا ہے اور وہی گناہوں

کو معاف کرنے والا ہے۔

(۵) اس سورہ مبارکہ میں جسے نماز پڑھنے والا ہر روز کم از کم چالیس بار ضرور پڑھ

لیتا ہے، بندہ کو یہ عرض کرنے کی تعلیم دی گئی ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

ہم سب خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور

نَسْتَعِينُ ۝

ہم سب خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

سورہ یوسف میں ہے: وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔ اسی کی مدد کی آرزو رہتی ہے،

اور وہی مدد دیتا ہے۔

عبادت اور استعانت ہی کی ذیل میں مندرجہ ذیل امور آجاتے ہیں: استغاثہ،

دُعَا، تَسْمُ، ذَرْع، تَذَرُّوْغِيْرَه غایت احتقار، سجدہ، رکوع، یا قیام، شکل نماز، یہ سب

الشرعی کے لیے خاص ہیں۔ اس کے سوا اور کسی کو یہ مستحقان نہیں۔

توجیہ فی العلم کی آیات پر غور کرو:

(۱) وَعِنْدَكَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْْبِ غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، ان کو اللہ

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا

فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ

مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَّةَ

فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ

وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ۝ (انعام)

(۲) اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ

وَمَا يَفِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

اللہ کو علم ہے کہ ہر ایک مادہ کا حمل کیا ہے،

ارحام کا سکرنا بڑھنا اس کے علم میں ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ ۝ اس کے ہاں ہر شے کی مقدار معلوم ہے  
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ ۝ چھپی کھلی کو جانتا ہے۔ وہی برتر و بلندتر  
الْمُتَعَالَى ۝ (رعد - ۲۷) ہے۔

### توحید فی التدریر کی آیات:

(۱) يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ۝ (سجده)  
آسمان سے زمین تک کے معاملات کی تدریر کرتا ہے۔

(۲) يُدِيرُ الْأَمْرَ وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ ۝ (رعد)  
ہر معاملہ کی تدریر کرتا ہے اور اپنی آیات کو کھول کھول کر بتاتا ہے۔

### توحید فی الملک کی آیات:

(۱) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ (بقرہ)  
اے انسان! کیا تجھے خبر نہیں ہوئی کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔

(۲) مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۝ (آل عمران)  
ساری سلطنت کا مالک تو ہے۔ جسے تو چاہے ملک دے جس سے تو چاہے ملک چھین لے۔ جسے چاہے عزت بخشے جسے چاہے ذلیل۔ یہودی کی سب اقسام تیرے ہاتھ میں ہیں۔

(۳) تُولِيهِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِيهِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۝  
رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اور زندہ سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے زندہ کو نکالتا ہے اور



مِنَ الْحَيِّ وَتَزُوقُ مِنْ تَشَاءُ جیسے چاہے بے حساب رزق دیتا  
بِغَيْرِ حِسَابٍ ہ

## دوم، شرک اور روثک

جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی مخلوق میں ثابت کیا جاتا ہے، یا کسی مخلوق کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بتایا جاتا ہے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ جب کسی اور کو خالقیت یا رازقیت یا تدبیرارض و سما میں اللہ تعالیٰ کا ساتھی بنایا جائے۔ یا جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، یا اسے استعانت دہندہ سمجھا جائے یا اس کے نام کی ندا سے حاضر ناظر سمجھ کر کی جائے، یا اس کے علم و قدرت اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت و اختیار کے برابر سمجھا جائے یا اس سے دعا مانگی جائے یا اس کی نذر مانی جائے، تو یہ سب شرک کے اقسام ہیں۔ روثک کے متعلق آیات ذیل پر غور کرو:

(۱) اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذَبَابًا

وَلَوْ اَجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ

الذُّبَابُ لَا يَسْتَنْفِذُوْهُ مِنْهُ

صَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ

مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۙ

اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (ج-۱۰ع)

جو لوگ اللہ کے سوا ادروں کو پکارتے ہیں وہ  
تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ خواہ  
سب کے سب مل کر ایسا کرنا چاہیں۔ اور اگر  
مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اسے  
چھڑا بھی نہ سکیں گے۔ طالب بھی ضعیف  
اور مطلوب بھی ضعیف۔ ان لوگوں نے  
اللہ کی قدر کو اس کی قدر کے موافق سمجھا ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور غلبہ والا ہے۔

(۲) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو

مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

اس پھلکے کے بھی مالک نہیں جو چھوہا لے

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا

کی گٹھلی پر ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ ان کو پکاریں

دُعَاءَكُمْ وَلَا يَسْمَعُوا مَا

تو وہ اس دعا و پکار کو نہ سنیں گے۔ اگر سن

اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے

يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ

اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار

مِثْلُ خَبِيرٍ

کریں گے۔ اے انسان! تجھے خبیر (اشرف نعل)

(سورہ فاطر آیت ۱۴)

کے برابر کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔

(۳) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِعًا نُفًّا

جس روز ہم ساری مخلوق کو جمع کریں گے تو

نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ

شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم بھی اور

أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَزَيْنَا بَيْنَهُمْ

وہ بھی جن کو شرک بنا یا گیا یہاں ٹھہرو پھر

وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ

دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا۔ اس وقت

إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكُفِيَ بِاللَّهِ

وہ جن کو شرک بنا یا گیا تھا اپنے شرک کرنے

شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا

والوں سے کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت

عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ

نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے

تمہارے درمیان شہادت کے لیے کافی ہے۔ کہ ہم کو تمہاری عبادت کی کچھ خبر نہیں۔

قرآن پاک میں اثبات توحید اور رد شرک کی آیات سینکڑوں ہیں۔ اس لیے

میں مندرجہ بالا آیات ہی پر اقتصار کرتا ہوں۔

## سوم، سنت و بدعت

سنت وہ طریق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بہ تھا، یا جس پر حضورؐ کے سامنے عمل کیا جاتا تھا۔ یا جس کے کرنے کا حکم حضورؐ نے کسی کو دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا معمول بہ بھی اسی لفظ سنت میں داخل ہے۔

بدعت کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا جَوْكُوْنِي شَخْصٍ مِمَّا سِوِي كَامٍ فِي كُوْنِي بَات  
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ نَكَاتَا هِي جَوَا سِوِي كَامٍ فِي پِلے سے مَوْجُوْد

نہیں وہ نئی بات مردود ہے۔

صاحبان! لوگوں نے بدعت کی تعریف میں بھی تازہ بدعت کی ہے اور اس کی تقسیم بدعت حسنہ اور بدعت سنیئہ کہہ کر اور پھر کسی بدعت کو حسنہ جان کر اس پر عملدرآمد جائز سمجھ لیا گیا ہے۔ اس بارہ میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد لکھ دینا کافی ہوگا:

”سنت مرفعی رحمان است و بدعت مرفعی شیطان است۔ مرفعی شیطان  
را با حسنہ چہ کار۔“

بدعت کے متعلق شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”الصباح الحق الصریح“

قابل دید ہے اور التماس ہے کہ اس کا مطالعہ ضرور کیا جائے۔

## چہارم، اتباع و تقلید

لفظ اتباع اور اس کے مشتقات کا قرآن مجید میں ۹۲ مقامات پر استعمال فرمایا گیا ہے۔ تبع کے معنی پیروی ہیں۔ تبع بکری کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہو۔ جس شفقت سے ماں بچہ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے، اور جس محبت سے بچہ ماں کے ساتھ لگا رہتا ہے پیروی رسول صلعم میں بھی وہی شفقت، وہی محبت، وہی خلوص مقصود ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا مِنَّا نَزْلَتٌ وَأَتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (ترجمہ) اے ہمارے رب! ہم ایمان رکھتے ہیں تیرے نازل کردہ کلام پر، اور ہم نے پیروی اختیار کر لی ہے تیرے رسول پاک صلعم کی، لہذا ہمارا نام سچی شہادت دینے والوں کی فہرست میں لکھ لیا جائے۔

لفظ تقلید اور اس کے مشتقات میں سے کسی مشتق کا ذکر قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اس لفظ کا استعمال سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر نہیں ہوا۔ یہی فرق ہر دو الفاظ کی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔

تقلید کے لغوی معنی کسی حیوان گھوڑے، اونٹ وغیرہ کی گردن میں پٹہ پٹنا دینا ہے، انہی معنی میں ہے قَلْدٌ وَالْحَيْلُ وَلَا تُقَلَّدُ وَهَآءِ الْاَوْتَارُ۔

## پنجم، مذہب اہل حدیث

اہل حدیث کا مذہب وہی ہے جو خلفائے راشدین کا تھا۔ اہل حدیث کا مذہب

وہی ہے جو انصارِ اخیار کا تھا۔ اہل حدیث کا مذہب وہی ہے جو اصحابِ بدر و اُحد کا تھا۔ اہل حدیث کا مذہب وہی ہے جو بائعینِ بیعتِ رضوان کا تھا۔ اہل حدیث کا مذہب وہی ہے جو تابعین و تبع تابعین کا تھا۔ اہل حدیث کا مذہب وہی ہے جو ائمہٴ عین کا تھا۔ اہل حدیث کا مذہب وہی ہے جو محدثینِ کرام کا تھا۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا  
 اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور  
 اللہ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 رسولِ صلعم کی اطاعت کرو اور اپنے صاحبان  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  
 حکم کی پیروی کرو تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے  
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ  
 تب جھگڑے کو اللہ اور رسولِ صلعم کی طرف  
 رَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
 لے جاؤ اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
 رکھتے ہو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
 اور اچھی حقیقت (یا انجام) ہے۔

(نساء، ع ۸)

اولیٰ جمع ہے ولی کی، اور اس کے ترجمہ میں "صاحبان" حکم لکھا گیا ہے، ائمہٴ تفسیر میں سے بعض نے اولی الامر اسلامی حکام کو بتلایا اور بعض نے مسلمانوں کے اماموں کو ترجیح قول آخر کو ہے۔ یہ لفظ ثابت کرتا ہے کہ اہل اسلام میں ایسے بزرگ بھی ہوں گے جن کی اطاعت تحت اطاعت رسولِ صلعم کی جائے۔ یہ لفظ ثابت کرتا ہے کہ مومنین کا ایسے بزرگوں کے ساتھ کسی مسئلہ پر تنازع کرنا صحیح ہوگا۔ یہ لفظ ثابت کرتا ہے کہ اُس تنازعہ کے فیصلہ کی صورت یہی ایک ہے کہ امام و ماموم دونوں اپنے دلائل کو رسولِ صلعم اور اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرائیں۔

کیونکہ اطاعت مستقل اللہ کے لیے ہے یا رسول صلعم کے لیے۔ اور اسی لیے آیت میں اسم پاک اللہ سے پیشتر اطیعوا موجود ہے اور اسم پاک رسول سے پیشتر بھی لفظ اطیعوا موجود ہے۔ لیکن اولی الامر سے پیشتر بار سوم لفظ اطیعوا کو نہیں دہرایا گیا۔ بلکہ صرف واؤ عطف موجود ہے۔

بس یہی مذہب اہل حدیث ہے۔ اسی آیت کے تمسک سے بڑھیا عورتیں اور اعرابی اور بدوی بھی ایک خلیفہ راشد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اس فعل کو نہ تو خود امیر المؤمنین اور نہ دیگر مجمع مسلمین چشم منکر سے دیکھتا تھا۔

(۲) فَلَا وَرَيْكَ لَا يُوْصِتُونَ حَتَّىٰ

نہیں، نہیں۔ تیرے رب کو اپنی ذات کی قسم ہے کہ یہ لوگ مومن نہ بنیں گے جب تک کہ اپنے

تجھ سے کھٹاؤ اور انہیں انفسہم حرجاً

باہمی اختلافات میں تجھے حکم نہ بتالیں گے۔

مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا سَلِيمًا

(ب) اور پھر تیرے فیصلہ سے دل میں ذرا

تنگ نہ ہوں گے (ج) اور جب تک کہ اسے

(نساء۔ ۹۴)

پوری طرح سے تسلیم نہ کر لیں گے۔

آیت اول میں صاحبان امر اور مومنین کے باہم اختلاف کا ذکر ہے۔ آیت دوم میں عام اختلاف مومنین کا ذکر ہے۔ اس دوسری آیت میں تین امور کو بطور شرط ایمان بیان فرمایا گیا ہے۔ اور پھر ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں ان لوگوں کے ایمان ہی کی نفی کر دی گئی ہے۔

شرط اول اختلافی مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور حاکم تسلیم کرنا ہے۔

شرط دوم حضور کے فیصلہ سے دل میں ذرا سی بھی کدورت کا پیدا نہ ہونا ہے۔

شروط سوم اس فیصلہ کو کمال رضا جوئی کے ساتھ انتشارح صدر سے مان لینا ہے  
یہی مذہب اہلحدیث ہے۔

(۳) یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا  
ان کی دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو  
لَاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا  
بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی  
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي  
بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت والے ہیں  
مُؤَلَّبِينَ غَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا  
اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے  
إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  
کوئی کینہ کپٹ باقی نہ رہتے پائے۔ اے رب

تو بڑی شفقت اور رحم والا ہے۔

اسی آیت پر عمل کرنا اہلحدیث کا مذہب ہے۔

## ششم، ضرورت حدیث الرسول ﷺ

ابتداءً عہد نبوت سے لے کر آج تک جملہ فرق و مذاہب اسلامیہ کا اس پر  
اتفاق ہے کہ حدیث الرسول صلعم کی ضرورت مسلمہ ہے۔ ضرورت حدیث سے خوارج وغیرہ  
نے بھی کبھی نہیں انکار کیا۔ رہا فرقہ اہل سنت والجماعت (جو اہل ظواہر و اہل حدیث  
و حنفیہ، مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ کا جامع ہے) وہ ضرورت حدیث کو دل و جان سے تسلیم  
کرتا ہے۔

ان مسائل میں بھی جن پر ابواب فقہیہ مشتمل ہیں حدیث کی ضرورت ہے اور ان  
جملہ علوم شرعیہ میں بھی جو ابواب فقہ کے علاوہ ہیں حدیث کی ضرورت ہے۔ معجزات،  
غزوات و سیرت الرسول، مکارم اخلاق، محاسن اعمال اور اوزاد و اذعیہ۔

اور اثبات توحید، اثبات نبوت، دلائل حشر و نشر، جنت و نار کا بیان، موازین اعمال اور فضائل اعمال کا ذکر، جملہ علوم مابعد الطبیعیہ، تزکیہ باطن، تصفیہ قلب، تنویر روح کے وسائل سب کے سب علم الحدیث کے محتاج ہیں۔ امراض قلوب اور ان کی شناخت اور ان کے معالجات روحانی کا مدار حدیث پر ہے۔ مراتب اخلاص و صدق اور منازل قرب و رضوان کا بیان علم الحدیث ہی پر موقوف ہے۔ الغرض سمرہ بصارت ایمان حدیث ہے اور فیما دیدہ ایقان حدیث ہے۔

ہندوستان کی کسی اسلامی درس گاہ میں چلے جاؤ نصاب تعلیم میں کتب حدیث کا درس ضرور شامل ہوگا۔ دیوبند، سہارن پور، ندوۃ العلماء، لکھنؤ، جامعہ ملیہ دہلی وغیرہ سب جگہ درس حدیث کا جدا ہونا پایا جائے گا۔

ہاں حدیث کی اس لیے ضرورت ہے کہ حدیث کے بغیر قَرَدُوۃً اِلٰی اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ پْر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں حدیث کی اس لیے ضرورت ہے کہ مِتْمًا قَضَيْتَ کی کیفیت حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہاں حدیث کی اس لیے ضرورت ہے کہ ”تحکیم رسول پاک“ کا حال حدیث کے بغیر منکشف نہیں ہوتا۔ ہاں حدیث کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ (نساء، ۱۵۴) کی تحت میں کیا فیصلہ فرمایا اور آیتِ لِّتَسِيْنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُنزِلُ اَيْضًا کی تحت میں کلام منزل کی تیسری کیا فرمائی۔

یہ حدیث پاک ہی ہے جس کے اسماء الرجال نے دنیا کے جملہ مذاہب کو نظیر پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہی ہے جس نے ہر ایک مبتدع کی ہوا و ہوس کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہی ہے جو اہل علم کی وسعت یا کمئی معلومات کا فیصلہ



کرتی ہے۔

## حیاتِ مسیح - نبوتِ قادیانی - الہاماتِ مرزا

ان ہر سہ مسائل پر مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ان مسائل پر اور ان سے بھی بڑھ کر دیگر مسائل متعلقہ مرزا صاحب پر میں اپنی کتابوں غائت المرام، تائیداً لاسلام مرزا اور نبوت میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ اور یہ کتابیں اس وقت شائع کی گئیں جب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب فاضل بٹالوی (اللہم اغفر لہ وارحمہ) ہی اس میدان کے مرد تھے۔ اب تو ہم میں ایسے ایسے بزرگوار موجود ہیں جو ان مسائل کے متعلق متعدد کتب مفیدہ کے مصنف ہیں اور جنہوں نے متعدد مناظرات میں علم امتیاز بلند کیا ہے۔

## ہفتم، تنازع

ہندو جاتی بالاتفاق اس مسئلہ کو مانتی ہیں۔ لیکن اس مسئلہ کا ثبوت آج تک وید کی شرقی سے پیش نہیں کیا گیا۔ جو کوئی اس مسئلہ کا مدعی ہو۔ اول تو اس کو اپنے دعویٰ کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ جو اب کا موقعہ ثبوت ادعا کے بعد ہوتا ہے۔ اہل تنازع سے میں عرض کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے سپر پیچولزم کا مطالعہ بھی کیا ہے؟ یہ علم اب تمام یورپ اور امریکہ کے فلاسفروں، پروفیسروں اور عالموں کو بقائے روح کا قائل بنا رہا ہے۔ منکرین اور مادہ پرستوں کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلا رہا ہے۔ ان لوگوں کے تجربات اور مشاہدات نے تنازع کو ایک طقلانہ خیال ثابت کر دیا ہے۔ لازم ہے کہ اہل تنازع اول ان کے مشاہدات کے بطلان کی طرف قدم اٹھائیں۔ علمائے

اسلام کے دلائل و براہین قرآن سے بھی اعلیٰ ہیں انہیں پھر کسی وقت ٹھنڈے دل سے

سن لینا۔  
ہستم، نکاح آریہ

ہیں اس پر کچھ کہتا نہیں چاہتا۔

منہم، الہام وید

اگر وید الہامی ہے تو کسی مسلمان کو پرغاش کی ضرورت نہیں مسلمان توراہ و زبور و انجیل کو آسمانی کتب تسلیم کرتے ہیں اور بایں ہمہ اس کا کوئی ضرر و نقصان ہمارے معتقدات کو نہیں پہنچتا۔ کیونکہ قرآن مجید کی برتری اس فضیلت سے آشکارا ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (فرقان ۳۷)

الہامی کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے خالقِ علمی معارفِ روحی کا کوئی مسئلہ اپنی کتاب سے نکال کر دکھلائیں اور پھر دیکھ لیں کہ وہی مسئلہ قرآن مجید میں مکمل حقیقت اور خوب ترین تفصیل کے ساتھ موجود سیلے گا۔

مسلمانوں کے نزدیک کسی کتاب کے الہامی یا آسمانی ہونے کے لیے ضروری شرط ہے کہ وہ خالص توحید سکھلانے والی ہو۔ خود اس کتاب میں منزل من اللہ ہونے کا ثبوت موجود ہو۔ جب ہم ۲۳ کروڑ ستائیسوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وید کو الہامی بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں مورقی پوجن کا ہونا بھی ثابت کرتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں بہت تھوڑی شہادتیں رہ جاتی ہیں جو وید کا مورقی پوجن سے پاک ہونا بیان کرتی ہیں۔

میں شہید بیان وید سے بااویب عرض کروں گا کہ وہ وید کا کوئی ایسا منفقہ مسئلہ

ترجمہ ہمارے سامنے پیش کر دیں جو تمام ہندو جاتی کا مقبولہ ہو جب تک کہ ایسا نہ کریں اس وقت تک ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دید کی کوئی خدمت سرانجام نہیں دی گئی۔ اور دیگر مذاہب سے اس کے الہامی ہونے کا اقرار لینے میں قبل از وقت تلبیل کی گئی ہے۔

## دوم، انگریزوں کی سیاست

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب فاضل امرتسری کی کتاب حق پرکاش پڑھو۔

اس بارہ میں وہ کافی ووافی ہے۔

## پارہ دوم، حالات حجاز

سلطان ابن سعود ایدہ اللہ بتصرہ کی سلطنت و امارت حجاز میں مستقل

ہو رہی ہے۔ امن عام قائم ہو گیا ہے۔ سلطان خانہ بدوش قبائل کو مستقل رہائش

اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں کئی سو دیہات آباد ہو چکے ہیں اطرش

جو انب کے مخالفین کم ہو رہے ہیں۔ قوج مضبوط ہے ابھی خزانے بھر پور نہیں۔

اس لیے بہت سی تمدنی اصلاحات کا نفاذ تعویق میں ہے۔ سلطان معصوم نہیں۔

اس کی طرز حکومت میں بھی خامیاں ہوں گی، مگر سلطان کی حسن نیت اور روشن دماغی

سے امید ہے کہ سب کی اصلاح رفتہ رفتہ ہو جائے گی۔ ہندوستان کے مسلمان اگر

وہاں سے خیر سے یاد کرتے رہیں تو بہتر ہوگا۔

## دو اور دویم، ملک کے حالات حاضرہ

مکن ہے کہ میں اس عنوان کے تحت میں سارے اہل کا ذکر کرنے لگوں یا ڈوبیں

گورنمنٹ کا، یا وائسرائے کے اعلان کا، یا ہندوستان سے ملحق الحدود اسلامی سلطنت  
کابل کا۔ لیکن یہ وہ معاملات ہیں جن پر روزنامہ انقلاب لاہور روز روز بصیرت افروز  
مضامین لکھ رہا ہے، حاضرین اس کا مطالعہ کیا کریں۔

ہاں، ایسے حالات حاضرہ بھی ہیں جن کی آواز خالص اسلامی انجمنوں کی طرف سے  
بلند ہونی چاہیے۔

(الف) از انجملہ مسلمانان پنجاب میں یہ رواج دبائے عام کی طرح پھیلا ہوا ہے  
کہ وہ بیٹیوں کو حتمہ شرعی نہیں دیتے۔ اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو نہایت بے باکی  
بلکہ بے حیائی کے ساتھ لکھوا دیتے ہیں کہ وہ رواج کے پابند ہیں اور شریعت کے  
پابند نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہوگا۔ میں اہل اسلام  
سے عموماً اور اہل حدیث سے (جن کی سٹیج پر یہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے) خصوصاً عرض کروں گا  
کہ اس شعار کفر سے فوراً علیحدگی اختیار کریں، اور اس فریضہ کی ادائیگی میں جو کلام اللہ  
نے حتمی الفاظ میں ہم سب پر فرض کیا ہے کمر بستہ ہو جائیں۔

ان کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی کے پاس جائیداد چلی جانے سے وہ گھاٹے  
میں رہیں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر بیٹی اپنا حصہ لے جائے گی تو ہو اپنا حصہ ضرور آپ کے  
گھر میں لائے گی۔

عذر کیا جاتا ہے کہ اکثر مقامات پر کاغذات بند و بست ایسا کرنے سے روک  
پیدا کر رہے ہیں اور اس لیے گورنمنٹ سے استدعا کرنی چاہیے کہ ہماری مدد کرے۔  
میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کس کس کام کے لیے گورنمنٹ سے مدد مانگا کریں گے۔  
ہم یہ کا طریقہ کھلا ہوا ہے، اور دیتے والے بیٹی کو بذریعہ ہم یہ اس کا واجب حصہ دے سکتے

ہیں۔ اور جب دیگر ورثاء یا زگشت بھی ایمان باللہ کی صفت سے زینین ہو کر اس کا غزپر دستخط کر دیں گے تو جھگڑا آئندہ پیدا نہ ہوگا۔

(ب) از انجملہ خاوند بیوی کے تعلقات ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتے اور اسے شریک زندگی نہیں سمجھتے۔ حدیث صحیح میں ہے:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا نِيكٌ مِنْ نِيكٍ وَهُوَ جَوَائِزُ بِيَوِي كَمَا سَأَلْتُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي - نیک ہے اور میرا سلوک اپنے گھر والوں سے تم سے بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب گھر میں آتے تو گھر والوں کو پہلے سلام کیا کرتے۔ اگر کبھی بڑی رات کے بعد حضور صلعم کا آنا ہوتا تو سلام آہستہ آواز سے فرمایا کرتے اس لیے اگر بیوی بیدار ہے تو سن ہی لے گی اور اگر سو گئی ہے تو میری آواز سے اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زن و شو کے تعلقات کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ - بیویاں اپنے شوہروں کے لباس ہیں اور شوہر لہن۔ اپنی بیویوں کا لباس ہیں۔

لباس سے ہر ایک انسان کی تمیز و شعور کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہی بیوی عقل و شعور والی ہے جو اپنے شوہر کے لیے باعث زینت و فخر ہو۔ اور وہی شوہر عقل و شعور والا ہے جو اپنی بیوی کے لیے سبب عزت و آبرو ہو۔

لباس انسان کو گرمی سردی کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ اس لیے وہی بیوی اچھی بیوی ہے جو دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ اور وہی شوہر اچھا شوہر ہے جو بیوی کی حفاظت

گرم سرد زمانہ میں کرے۔

میں سب و دختران اسلام سے درخواست کروں گا کہ وہ پاک صاف رہنے کی عادت اختیار کریں، اپنے گھر کو شوہر کی دلچسپی کا مقام بنائیں جو آرائش بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو آرائش مرد اپنی بیوی کے لیے لیتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔

ہر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلہ میں نرم جسم اور نرم آواز عطا فرمائی ہے گویا قدرت نے ہر ایک بیٹی کو یہ سمجھایا ہے کہ وہ آہستہ بولے، اپنے خلق و عادت کو نرم بنائے، صبر و برداشت سے کام لے۔ اس طرح وہ اپنے شوہر پر قابو حاصل کر سکتی ہے۔ ہر ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلہ میں مضبوط جسم عطا فرمایا ہے گویا قدرت الہیہ ہر ایک مرد کو سمجھا رہی ہے کہ مشکل کاموں کو وہ خود کیا کرے اور اپنی بیوی کا سارا بوجھ خود برداشت کرے۔ اس طرح پر شوہر اپنی بیوی کا دل اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔

مبارک ہے وہ گھر جہاں میاں بیوی پیار و محبت سے رہتے ہیں۔

اسے دختران اسلام! آج سے اپنے اپنے دل میں عہد کرو کہ اپنے اپنے شوہروں کو اپنی خدمت سے، اپنے سلیقہ سے اپنی نرمی سے خوش رکھا کریں گی۔

اور اے فرزند ان اسلام! تم بھی غور کرو کہ تم نے تمام برادری کے سامنے اپنے اجداد کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر بیوی کو بیوی بنانے کا اقرار کیا تھا۔ تمہارا قبضہ اپنی بیویوں پر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے پاک حکم سے ہوا ہے۔ اس لیے اپنے عہد و پیمان کو یاد رکھو۔ مرد وہ ہے جو قول کا پورا ہے، جو اقرار کا سچا ہے۔

عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زیریں یا لباس کی خاطر جس کا میا کرنا شوہر پر دشوار ہو اپنے شوہروں کو تنگ نہ کیا کریں۔

اور مردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ عورتوں کی دلداری کے لیے پوری کوشش کیا کریں۔ جب ان باتوں پر عمل ہو جائے گا تو ہمارے گھروں میں برکت نظر آئے گی۔ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور میاں بیوی دونوں مل کر اسلام کی بہترین خدمت کر سکیں گے اولاد بھی نیک اور دیندار ہوگی۔

(صبح) مسائل حاضرہ میں سے مسلمانوں کا افلاس بھی نہایت غور طلب ہے، افلاس کی وجوہات میں سے دو وجوہ سب سے بڑی ہیں۔

اول، مردوں کا کمائی سے جی چراتا۔ دوم، قرض اٹھانے میں دلیر ہونا۔ کاش، ہر ایک مرد اس امر کو سمجھ لے کہ حلال روزی کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے کاش، ہر ایک مسلمان اس بات کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھے کہ مسلمان کی شان مفروض ہونے سے بہت بلند ہے۔

ذرا غور سے سنیے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفروض مسلمان کے جنازے کی نماز خود نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ بڑی قرض کی اور کیا ہوگی۔

مسلمانو! قرض لینے سے بچو اور اپنی سب ضروریات کو اپنی آمدنی کے اندر اندر پورا کرو۔ اب مجھے صرف ایک بات کہہ دینی ہے۔ وہی سب سے بڑی بات ہے، وہی راز کی بات ہے۔

ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اپنا رابطہ قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رکھے۔ رات کے آخری حصہ میں کم از کم ایک گھنٹہ ایسا نکال لے جب بندہ اپنے خالق، اپنے رازق

کے سامنے پورے خلوص اور پوری راست باتی سے حاضر ہو، دل کا سارا سچ، دکھ درد مالک سے عرض کرے، ہر ایک حاجت کا سوال کرے، دین و دنیا کی ہر ایک نعمت اُس سے مانگ لے۔ گناہوں کا اقرار کرے اور ان کی معافی کی درخواست کرے۔

ایسی عادت روزمرہ سے انسان خود بخود محسوس کرنے لگے گا کہ انسان کا دل روشن ہو رہا ہے، تیرگی اٹھ رہی ہے، اور ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہو گئی ہے۔

یا اللہ! ہم سب کو تو ہی توفیق دے اور تو ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما۔  
 یا اللہ! ہمارا جینا، ہمارا مرتا تیرے لیے ہو۔ ہماری عبادتیں اور منتیں دل کی عاجزی اور دماغ کی ہمواری تیرے لیے ہو۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔  
 صاحبان! شیخ دین محمد صاحب کے تجویز کردہ مضامین میں سے دو مضمون رہ گئے ہیں جن کی بابت میں نے اس خطبہ میں کچھ ذکر نہیں کیا۔ (۱) مسئلہ ختم نبوت (۲) مسئلہ تہذیبِ اخلاق۔ ان شاء اللہ ہر دو مسائل کی بابت زبانی تقریر گزارش کروں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

سلمان منصور پوری



# فرائض اہل حدیث

یہ علامہ فاضل محمد سلیمان صاحب مرحوم کا وہ خطبہ صدارت ہے جو آپ نے انجمن اہل حدیث جہلم کے دسویں سالانہ جلسہ پر ۲۲ دسمبر ۱۹۲۵ء کو ارشاد فرمایا تھا۔ اگرچہ اس میں مخاطب اہل حدیث کو کیا گیا ہے۔ مگر آپ نے فرائض (ذمہ داریاں) اور نصائح وہ ارشاد فرمائی ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ امید کہ اسے دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔ اور عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ تَوَسَّلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَعُدُّكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. أَنْتَ الْبُعْدُ وَأَنْتَ الْمَوْجِبُ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ.

بزرگانِ جہلم! آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جلسہ کی صدارت کی عزت بھی مجھے ارزانی فرمائی گئی اور فرائض اہل حدیث کی تشریح پر خطبہ افتتاحیہ کی توقع بھی

مجھ ہی سے کی گئی۔ بے شک یہ سوال تو اہم ہے اور ضروری بھی مگر کاش کہ اس سوال کا  
مجیب کوئی اور ہوتا جو شخص خود اپنی ہی اصلاح اور دوستی میں غلطیاں و پچھان اور دروازہ  
و حیران ہو وہ دوسرے کو کیا بتائے اور کیا بتائے اور کیا سنائے۔

مزید برآں، رب العالمین کا یہ فرمان بھی دل ہلا دینے والا اور جملہ دعاوی خود نمائی  
کی مگر توڑ دینے والا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ  
مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ  
اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

اے ایمان لاسنے والو! وہ باتیں منہ سے کیوں نکالا  
کرتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں اللہ کو سخت بیزاری  
ہے اس بات سے کہ کہاتو کرو اور عمل کچھ بھی نہ کیا کرو

حقیقت یہ ہے کہ اگر بَلِّغُوا حَقِّي ذِكْرًا آيَةً کا ارشاد موجود نہ ہوتا، اور اگر اس  
ارشاد کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات کی یہ دعا بھی شامل حال نہ ہوتی جو حدیث  
پاک کے سنائے پہنچانے والے کے حق میں فرمائی گئی ہے، تو کم از کم مجھے تو یہ جرأت نہ ہوتی  
کہ میں آپ صاحبان کو آپ کے فرائض بتانے میں اپنی زبان کو جنبش دے سکتا۔ وہ  
حدیث پاک یہ ہے :

نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي  
فَوَعَاَهَا فَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا

اللہ تعالیٰ اس بندے کو تڑتازہ رکھے جس نے میرا  
کلام سنا، پھر اسے اپنے دل میں محفوظ رکھا اور

پھر اسے دنیا کے سامنے پیش بھی کر دیا۔ ٹھیک اسی کے مطابق جیسا کہ سناتھا۔

صاحبان! حدیث بالا میں جو لفظ نَصَرَ اللّٰهُ واقع ہوا اس کے معنی سمجھنے کے لیے  
قرآن پاک کی اس آیت پر غور فرمائیے :

اے میری طرف سے تبلیغ کرتے رہو خواہ ایک ہی فقرہ (آیت) کی ہو۔

فَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكِ ۝ الَّذِينَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 الْيَوْمَ وَلَقَاءَهُمْ نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَسَمَرًا ۝ وَرَأَىٰ عِزَّهُمْ  
 إِذْ جَاءَهُمْ نَصْرُهُمْ أَنَّهُمْ لَمَّا نَصَرُوا

معلوم ہوا کہ عطا کی نصرت سے پیشتر یہ ضروری ہے کہ اس شخص کو گونا گون  
 تکالیف روز محشر سے مصون کر دیا جائے۔ مطمئن بنا دیا جائے اور بعد ازاں اسے ان  
 نعمت کا ثرہ سے سر بلند کر لیا جائے جس کا چہرہ پر بھی نمایاں اثر ہو اور جس کی تاثیر دل میں  
 بھی جائزین ہو۔ نصرت و سرور دو الفاظ کا اجتماع نعمت باٹے ظاہری و باطنی اور جسمانی  
 اور روحانی پر حاوی ہے۔ ایک اور آیت ہے :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَىٰ  
 الْأَسْرَابِكِ يَظُنُّونَ ۝ تَعْرِفُ فِي  
 ذُرُوبِهِمْ نَصْرَةَ الْغَيْبِ ۝  
 يَا نَفْسُ مَوْنًا لِّكَ دِيَارٌ مِّنْ أَرْضِ الْغَيْبِ ۝

الغرض اس آرزو و تمنا سے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور پر نور صلعم کی  
 دعا کا حصہ وار پتا سے بچے جو صدیوں لایا ہے کہ میں آپ کی استدعا کے مطابق چند سطوح  
 قلبند کروں۔ اس اختصار کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے اوقات گونا گوں مصروفیتوں سے  
 لبریز ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ایسے خلیفہ فرائض (بمعنی ذمہ داری) کو بالاستیعاب بیان  
 کرنا دشوار بھی ہے۔

معشر مسلمین! فرائض اہل حدیث میں سے آئیں، فرض اور بالاتر میں فرض خود  
 حدیث پاک کی خدمت کرنا ہے۔

یہ آپ کو معلوم ہو گا کہ جملہ مرفہین عالم کا دستور یہ ہے کہ جب تک کہ کسی مشہور اور

نامور ہستی کی لائف یا حیات پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی تقریر کے چند فقرات یا اس کی تحریر کا کوئی حصہ بھی اپنی کتاب میں ضرور درج کریں۔ کیونکہ ایک شاعر یا مدح نگار کے الفاظ کی بہ نسبت جو حقیقت اصلیدہ خود اس شخص کے الفاظ میں مرکوز ہوتی ہے اس کی شان ہی زالی ہوتی ہے۔

مسیح علیہ السلام کے مشہور شاگرد جناب متی نے بھی اپنی انجیل لکھتے وقت اس مدعا کو پیش نظر رکھا اور چاہا کہ دنیا کے سامنے اس مقدس شخص کے الفاظ بھی پیش کر سکے۔ مگر اسے صرف ایک ہی فقرہ بلا جو یہ ہے:

اِنِّیْ اِنِّیْ لِمَا سَبَقْتَنِیْ - عربی الفاظ میں اگر ان کو تخیل کیا جائے تو یہ لفظ ہوں گے  
اَللّٰہِیْ اِلّٰہِیْ لِمَ سَبَقْتَنِیْ  
اے خدایا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ حضور نے اس وقت فرمائے تھے جب ان کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس فقرہ کو جناب متی نے صرف اسی شوق کے پورا کرنے کی غرض سے کہ جناب مسیح کے چند الفاظ متبرک سے اس کی تصنیف مزین ہو جائے نقل کر دیا جائے۔ اور یہی ذوق و شوق بعد دیگر پادری صا جہان کو بھی اس امر پر مجبور کرتا رہا ہے کہ وہ اس انجیل کو ہر زبان کے ترجمہ میں بھی اس کو بعینہ نقل کرتے چلے آئے ہیں ان بیچاروں نے آج تک یہ غور نہیں کیا کہ سیدنا مسیح کے یہ اصلی الفاظ کیوں کہ پادریوں کے مبتدع عقیدہ کفار کا لیے ضرور رساں ہے۔ بھلا غور تو کرو۔ کہاں یہ دعویٰ کہ حضور کو اللہ نے خود اس لیے بھیجا کہ وہ گنہ گاروں کا بوجھ اٹھا کر ملعون ہو کر جہنم میں جا کر ان کی نجات کا سبب ٹھیریں۔ چنانچہ اسی مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے مسیح

آئے اور انہوں نے خوشی خوشی ان تمام ایذاؤں تکلیفوں کو برداشت کیا جو ظالم یہودیوں اور بت پرست رومی افسروں نے ان کو پہنچائی تھیں اور کہاں حضور کے یہ الفاظ کہ وہ ان حالات پسندیدہ سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور ظالموں کی اس کامیابی کو اس امر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی حفاظت اور صیانت سے منہ موڑ لیا ہے۔

خیر میں دور جانکلا۔ میرا مدعا یہ تھا کہ کسی بزرگ ہستی کے الفاظ کا محض یاد رکھنا اور ان کی نقل کرنا ابتدائے عالم سے ہر ایک اہل علم کے نزدیک پسندیدہ اور معمول بہ رہا ہے۔ اور اسی سنت قدیم کے احوال کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے

مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَاذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا۔

لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں حدیث لکھی نہ جاتی تھی۔ لیکن یہ فقرہ کن بزرگوں کو کہا جاتا ہے؟ کیا انہی کو جو ایک ایک رجز یا ایک ایک فقرہ موجز یا ایک ایک شعر برجستہ کو سن کر کہا کرتے تھے:

اُكْتُبُوهَا هَلِي الْجَنَاحِ جِرْوَلُو اس کلام کو اپنی شہ رگ پر لکھ لو خواہ لوگ شجر  
بِالْجَنَاحِ جِر۔  
کے ذریعے سے لکھنا پڑے۔

کیا یہ فقرہ انہی لوگوں کے حق میں کہا جاتا ہے؟ جن کا مسلہ اعتقاد شاعر نے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

علم در جلد خویش می باید  
نہ کہ در جلد میبش می باید

برادران دین! اول تو بتی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجز نظام میں پختہ بقنا یہ مسعر

صادق آتا ہے۔

سخن کا زردل آید بود و پسندید

پھر سننے والے وہ لوگ جو اپنی یاد کے مقابلہ میں تحریر کی کوئی اہمیت نہ سمجھتے تھے۔ اس شبہ کی وقعت کیا رہ جاتی ہے۔

ہاں آپ اہل قانون سے دریافت کیجیے کہ کیا کوئی تحریری شہادت جو ڈیشنل مثل پر لائی جاسکتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ زبانی شہادت موجود نہ ہو، آپ کو جواب ملے گا کہ تحریری شہادت کو مثل پر لانے کے لیے تقریری شہادت کا ہونا لازمی ہے۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ تقریری شہادت قانوناً کتنی یا وقعت و اعلیٰ ہے۔ بعد ازیں آپ مقدمات فوجداری پر اپنی توجہ منعطف کریں جہاں اکثر و بیشتر مقدمات حتیٰ کہ قصاص و جس دوام کے مقدمات کا انفصال بھی زبانی شہادت پر ہی ہوتا ہے پس جب شہادت زبانی کا درجہ یہ ہے تو تعجب ہے کہ احادیث کی صحت پر حملہ کرنے والے کس سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں۔

صاحبانِ بصحت روایات اور جمع روایات کے جو طریقے اور قواعد و ضوابط محدثین کرام نے مدد کیے ہیں۔ اور صحت روایت کی جانچ کے لیے جیسی اندرونی و بیرونی شہادت کی موجودگی کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر ان منتشککین کو اس کا علم ہو جائے تو ان کا جوش قطعاً ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ اب تک کن حقائق کا انکار کرتے رہے۔

الغرض اہل حدیث کا اولین فرض خود علم حدیث کی سیانت و حفاظت ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے بعد یہ فرض ہمیشہ ہی مہتمم بالشان رہا ہے۔ لیکن

اس زمانہ میں بالخصوص ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جبکہ علوم اسلامیہ سے خود مسلمان بھی غافل ہو گئے ہیں اور جب کہ بہالت نے ان میں جمود پیدا کر دیا ہے۔ اور جمود نے ان کو خمود تک پہنچا دیا ہے۔

اہل حدیث کا دوسرا فرق اپنی زندگی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت بنا دینا ہے صاحبان! میں بار بار یہ غور کیا کرتا ہوں کہ کیوں اہل حدیث کے مذہب کو اس ملک میں اس قدر کامیابی نہیں ہوئی جس قدر کہ ہونی ضروری تھی۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس مذہب کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے والے ہیں جو حضور کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، پھر بھی کامیابی حسب توقع نہیں ہوتی۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات مختلف ہیں اور از اجملہ ایک یہ بھی ہے کہ خود ہم نے اپنے اخلاق کو خلق محمدی کا تابع نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کبریٰ کی حقیقت و غایت کو نہیں سمجھا۔

فِي مَا رَحِمَهُ قِنَ اللَّهُ لِنْتَ آمَنَ  
وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظًا الْقَلْبَ لَا نَفَضُوا  
مِنْ حَوْلِكَ -

یہ جس اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے  
رسول کو نرم فرمایا۔ اگر آپ سخت دن اور سخت  
ہوتے تب لوگ آپ کے پاس نہ جاتے۔

اس اظہار رحمت اور اعلام منت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کے شکرانہ میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوتا ہے:

فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔

(ترجمہ) لہذا آپ ان تین باتوں پر عمل کیجیے: (۱) ان کی خطاؤں اور گستاخیوں کو معاف

کر دیا کیجیے (۲) ان کی بخشش کے لیے دعا کیجیے (۳) کاروبار میں ان کو شریک مشورہ بنالیا کیجیے۔

صاحبان! غور فرمائیے کہ اگر اہل حدیث بھی ہر سہ امور بالا کو اپنے فرائض میں داخل کر لیں، اپنے بھائیوں کی نادانیوں کو شوخیوں اور گستاخیوں کو معاف کر دیا کریں۔ ان کی بخشش کے لیے رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں تو کیسا شاندار نتیجہ نکلے۔

احد کا واقعہ یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پتھروں سے اور دانت سنگاری سے مضروب کیے جاتے ہیں۔ ضربات کی وجہ سے مغفر کی آہنی کڑیاں فرق اقدس میں کھب جاتی ہیں۔ بدن اور لباس خون سے لٹھر جاتا ہے بعض صحابہ نے موقعہ کی نزاکت کا خیال کر کے عرض کیا "حضرت آج تو ان نافرمانوں کے لیے ضرور بددعا فرمادیجیے" ایسی باموقعہ عرضداشت کے بعد کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ قدرائیوں کی چشمداشت یہ تھی کہ حضور پر نور صلعم بالضروران کی التماس کو منظور فرمائیں گے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان مبارک سے فرمایا تو یہ فرمایا جو رحمتہ للعالمین کی شان بلند کے لیے تھایا تھا:

سَابِ اِهْدِ تَوْحِي اِنَّهٗم  
لَا يَعْلَمُوْنَ .  
اے رب! میری قوم کو ہدایت فرما دے ان کو  
علم نہیں

یہ دعا اپنا کام کر گئی۔ خالد جیسا جرنیل جس کے سر پر کفار نے فتح احد کا سہرا باندھا تھا تخت فتح کو چھوڑ کر اور قائد عسکر قوم کے منصب سے منہ موڑ کر عاشقانہ و فدایانہ رنگ میں پایادہ چل کر مدینہ حاضر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ قدر دانی فرمائی کہ اب اسے اسلامی عسکر میں رسالہ فوج کا جرنیل بنا دیا۔



ابوسفیان اموی احد میں جو کفار کو چڑھا کر لایا تھا وہ فتح مکہ کے دن داخل اسلام ہو گیا۔ علیؑ ہذا سینکڑوں اشخاص اس دعوت محمدیہ کی برکت سے مشرف بایمان ہوئے۔ اہل حدیث ایسا کر دیکھیں، ان شاء اللہ وہی کامیابی حاصل ہوگی جو متبعین رسول پاک صلعم کو حاصل ہونی ضروری ہے۔

فرائض اہل حدیث میں سے ہے کہ وہ تجارت پر توجہ کریں۔ اپنی وجہ معیشت کسی پاک اور طیب اصول پر قائم کرنا ضروری ہے۔ رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنی روزی کو طیب نہیں بناتا تو وہ لذت عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور قبولیت دعا سے مجبور ہو جاتا ہے صحیح مسلم و ترمذی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے:

لوگو! اللہ پاک ہے اور پاک شے ہی قبول فرماتا	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ
ہے۔ اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو	لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ
انبیاء کو دیا۔ دیکھو، ایک آیت میں ہے اے	الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْبُرْسَانِ
رسولو! پاک چیزیں کھایا کرو اور عمل صالح کیا کرو۔	فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ
دوسری آیت میں ہے "اے ایمان والو! اللہ	كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا عَمَلُوا صَالِحًا
کے دیے ہوئے رزق میں سے پاک چیزیں کھایا	فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
جو۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا	كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ
کہ کوئی شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، میلا کھینچا	ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ
آلودہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، یارب!	أَعْبَرَيْتُمُنِي إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ
یارب کے نعرے لگاتا ہے۔ اور اس کا کھانا پینا	يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ



ہونا چاہیے جتنی کہ صرف ذکر الہی ایک ایسی شے رہ جاتی ہے جو ان کے اس  
انہماک اور سرگرمی پر غالب آسکتی ہے۔ اور اس کے سوا کوئی شے بھی اہل ایمان کو  
مشاغل تجارت سے روکنے والی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا:

رِبَّجَالٍ لَا تُلْهِهُمُ حِرَابَةٌ وَرِجَالٌ لَا يَبِيعُونَ ذِكْرَ اللَّهِ۔  
وہ ایسے مردانِ خدا ہیں کہ تجارت اور خرید و  
فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کر سکتی۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اس عہد و میثاق کا نام بھی جو انہوں نے حدیبیہ میں رسول  
اکرم و نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بانشریح صدر محکم کیا تھا بیعت ہی رکھا ہے  
اور صحابہ کو مبائعین کے نام سے نامزد فرمایا ہے اور اسی خرید و فروخت کے معاملہ  
کو مشکل فی الدین فرمانے کے لیے يَدَا اللّٰهِ قَوْقُ اَيِّدِيْهِمْ سے ان کو مشرف فرمایا  
ہے اور یہ غایت شرف ہے۔

(۶) سیرت النبی پر غور کرنے والے اور سنت نبویہ پر عمل کرنے والے کو جلد پتہ لگ سکتا  
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیشت کے لیے محنت یا زراعت یا ملازمت  
کو اختیار نہیں فرمایا تھا بلکہ تجارت ہی کو پسند فرمایا تھا۔ کھلی تجارت بھی اور  
مضاربت بھی۔

لہذا اہل حدیث پر جو سنت نبویہ کے متفحص اور اس پر عمل کرنے کے شائق ہیں لازم  
ہو جاتا ہے کہ وہ تجارت کی طرف پورے ذوق و شوق اور پوری رغبت سے متوجہ ہو جائیں  
اہل حدیث کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ مقروض زندگی سے نفرت کرنا سیکھیں  
صحیح نسائی میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا جنہوں  
نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ اس مسلم بھائی کا جنازہ ادا کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گے کیونکہ وہ قرض چھوڑ کر مر رہا ہے۔

معتز مسلمین! اس زمانہ کے قرض اور صحابہ کرام کے قرض بالکل قرضِ حسنہ ہوا کرتے تھے۔ قارض نے مقروض سے سود تو کیا لینا تھا، وہ قرض دہی پر نہ احسان بتایا کرتا اور نہ اس سے کوئی اخلاقی فائدہ حاصل کیا کرتا تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرض کو بھی اتنا ناپسند فرماتے تھے جس کا اظہار مقروض کی نماز جنازہ کے ترک کر دینے سے فرمایا۔

کیا گمان کر سکتے ہیں وہ اہل اسلام اور وہ اہل حدیث جو حضور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال قربان کر دینے کی آمادگی ظاہر کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو قرض سے سبکدوش کرنے اور بری الذمہ رکھنے کے لیے کوئی سعی نہیں کرتے۔ یہ حال تو قرضِ حسنہ کا تھا۔ رہ گیا سود والا قرض، اس پر طول طویل کلام کی ضرورت نہیں۔ حدیثِ پاک میں سود لینا اور سود دینا، دونوں برابر کے گناہ بتائے گئے ہیں۔ لہذا آیتِ ذیل دونوں پر صادق آتی ہے۔

فَاذْكُوا بَجَرَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۗ اللّٰهُ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے

اہل حدیث کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اسلام کے ارکانِ خمسہ میں کامل ہوں۔  
 (۱) اقرار شہادتین (۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج۔ اگر کوئی بھائی صرف پہلے تین ارکان کا عامل رہتا ہے، اور زکوٰۃ و حج کے ادا کرنے کی نہ اُمنگ اپنے دل میں رکھتا ہے اور نہ اس مقصدِ عظمیٰ کے لیے کچھ تنگ و دو، محنت اور کاروبار کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس قدر نقصان میں ہے۔ اہل حدیث عقیدتاً ایک مکمل مسلم بننے کا شائق ہے لہذا اسے عملاً بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کو سوال، بے کاری سے

دوسروں کی کمائی پر بھروسہ کرنے سے، اپنا بوجھ دوسرے بھائیوں پر ڈالنے سے بیکلی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے ان بیسیوں حدیث کا جو ان ابواب میں مروی ہوئی ہیں۔ اہل حدیث کے فرائض میں سے ہے کہ وہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بکثرت پڑھا کریں اور صلوٰۃ بر نبی پر مزاولت رکھیں۔ ترمذی میں بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کا یہ ارشاد ہے:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ كَيْفَ لَوْ كُنْتُمْ فِي مَعْرِفَةِ دَوْمَتِ تَر  
أَكْتَرْتُمْ عَلَيَّ صَلَوَاتٍ - وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔

اہل حدیث کے لیے میں کوئی تعداد وظیفہ کی مقرر نہیں کر سکتا۔ پڑھنے والا جس قدر محنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ترقی کرتا رہے گا۔ اس کے ورد میں ترقی ہوتی جائے گی۔ اور پڑھنے والا جس قدر زیادہ ذوق و شوق سے پڑھنے کا التزام کرے گا اسی قدر اس پر حُبّ اللہ کا غلبہ و تسلط ہوتا جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ محبت کے اسرار تک پہنچ جائے گا۔ محدثین عظام اور صوفیائے کرام کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دربار اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ اور محفوظ ترین راستہ صلوٰۃ بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیخ الاولیاء پیران پیر، شیعہ عبد القادر جیلانی الحسینی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَجَدْنَا مَا وَجَدْنَا مِنْ كَثْرَةِ  
الصَّلَاةِ - جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ درود شریف بکثرت پڑھنے ہی سے ملا ہے۔

اہل حدیث اس امام الاولیاء کے اعتقاد و عمل کو سند مانتے ہیں اور ان کی تصنیفات کو سرسہ چشم علم سمجھتے ہیں۔

اہل حدیث کے فرائض میں سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ محلہ کی مسجد میں نماز صبح یا  
 عشاء کے بعد گھنٹہ آدھ گھنٹہ حدیث کی تلاوت کی جائے۔ ایک صاحب کتاب کو سامنے  
 رکھ کر پڑھیں اور باقی سب سینیں۔ عربی متن کے بعد اردو ترجمہ پڑھ دیا جائے اور پھر  
 ترجمہ کی تشریح میں زیادہ وقت صرف نہ کیا جائے جتنی کہ حدیث پاک کے ساتھ قلب  
 کو خود ایک رابطہ پیدا ہو جائے اور فہم روشن و قلب منور ہو جائے اور بار بار ایک  
 نکات سمجھ میں آنے لگیں۔

اہل حدیث کے فرائض میں سے ہے کہ حدیث پاک کے معنوں کی صراحت میں  
 جن بزرگان دین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کو بطور شرح بیان کیا جاسکتا ہے اس کا  
 تذکرہ بھی کر دیا کریں۔ ائمہ مجتہدین اور اکابر محدثین و دیگر بزرگان دین مثلاً خواجہ فضیل بن  
 عیاض (سلسلہ چشت کے پیر اعظم) اور سلطان الطائفہ جنید بغدادی اور امام الورع سفیان  
 ثوری، خواجہ بزرگ سید معین الدین حسن سجری اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت  
 پیران پیر اور خواجہ شہاب الدین سہروردی، شیخ ماہد مجد العف ثانی رحمہما اللہ ایسے  
 بزرگ ہیں جن کے اقوال میں بہت سی احادیث کا ذکر اور ان کے معانی کی بحث آتی ہے اور  
 ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب بزرگ اہل حدیث ہی تھے، لہذا ان کا احترام اور  
 اولیائے رحمن کے لیے دعا کا التزام (وَالَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) کے تحت میں لازم  
 ہے اس سے فرقہ دارانہ منافرت کی بجائے اسلامی محبت و موانست کو ترقی ہوتی ہے اور  
 مسلمانوں میں علم حدیث پر غور و تامل اور تعظیم و تقابل کی روح بیدار ہوتی ہے۔

اسے بزرگوں اور دوستوں فرائض اہل حدیث میں سے ایک فرض جو ضروری و لا بدی  
 ہے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جماعت کی تنظیم کی طرف توجہ کریں۔

ایلیان جہلم نے اپنے قصبہ میں انجمن کو قائم کر لیا ہے۔ اسی طرح دیگر قصبات میں دیگر انجمنوں کا انعقاد ہو چکا ہے اور وہ کم و بیش شاہراہ عمل پر گامزن ہو گئے ہیں۔ سب انجمنوں کو لازم ہے کہ وہ اپنے صوبہ میں انجمن مرکزیہ کے ماتحت رہ کر کام کریں اور اسے اپنی ترقیات دینی سے مطلع کرتے رہیں (پنجاب والوں کے لیے صدر انجمن اہل حدیث صوبہ پنجاب لاہور میں موجود ہے)

جملہ صوبجات کی انجمنیں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس (دہلی) سے اپنے رابطہ دینی کو مستحکم کریں اور انہی مقاصد پر عمل پیرا رہیں۔ اس طرح قوم صحیح معنوں میں قوم کھلانے کی مستحق ہو جائے گی اور یہ سب کے سب فرماں ربانی (وَسَاءِدٌ هُمْ فِي الْآخِرَةِ) کے تحت ایک دوسرے کے آئینہ دار اور غمگسار بن جائیں گے۔

یارب ایں آرزوئے من چہ خوش است

تو بدیں آرزوئے خوش برساں

وَإِخْرُجُوا مِنَّا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

محمد سلیمان عقی عنہ





# اصول تبلیغ

یہ علامہ قاضی محمد سلیمان صاحب مرحوم کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے انجمن تبلیغ الاسلام چوندہ کے لیے ارقام فرمایا مگر ایک خاص مجبوری کی وجہ سے آپ جلسہ پر تشریف نہ لے سکے اور آپ کی عدم موجودگی میں یہ خطبہ پڑھا گیا جس کا حاضرین پر بہت اثر ہوا۔

الحمد لله الذی جود بصفات الکمال والذی دعوت بہ محمد الجلال  
 وانشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وانشہد ان عبداً و  
 رسوله حبیبہ وصقیہ سید ولد آدم رحمة للعالمین وخاتم النبیین  
 محمداً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واذواجہ  
 وذریاتہ واهل بیتہ وخلفاءہ واتباعہ اجمعین۔

مشرکین! اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 اپنے رب کی راہ پر لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور  
 پاکیزہ وعظ کے ساتھ بلا یا کر اور بحث کے وقت بھی  
 بہترین طریق اختیار کیا کر۔

آیت بالا میں دعوت کا حکم ہے۔۔۔۔۔ دعوت ہی کو تبلیغ کہتے ہیں۔

دعوت کا مفہوم بھی بتایا گیا۔۔۔۔۔ کہ سبیل رب کی طرف ہو۔

دعوت کا طریق بھی سمجھایا گیا۔۔۔۔۔ کہ (۱) بذریعہ حکمت (۲) بذریعہ موعظہ حسنہ۔

دعوت کے دوران میں بعض اوقات کچھ کش مکش پیدا ہو جایا کرتی ہے، اس کا نام جدال بتلایا ہے۔

جدال کے موقع پر بہت لوگ جوش میں آجاتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ صورت جدال کے دفعیہ کے لیے بہتر سے بہتر تدابیر اختیار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ ذرا ان جملہ امور پر غور تو کرو کہ کبھی کسی مذہب نے دعوت و تبلیغ کے متعلق ایسے غمخیز الفاظ میں محکم اصول بیان بھی کیے ہیں۔

دعوت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بنی نوع انسان کی ہمدردی تم پر غالب آجائے اور اس ہمدردی کا اقتضایہ ہو کہ وہ بہتر سے بہتر جو آپ کے پاس ہے اس سے اکیلے آپ ہی بسرہ ورنہ ہوں بلکہ تمام نوعی بھائیوں کو بھی بوجہ حق برادرانہ اپنا حصہ دار بنائیں جس دعوت کا آغاز ایسی دل سوزی اور ہمدردی اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ضرور انجام رس بھی ہوتا ہے اس کا نفع زیادہ پائیدار و محکم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ لوگ تو جہنم کی آگ پر اس طرح گرے پڑتے ہیں جیسے پرانا شمع پر گر کر گر جاتا ہے۔ میں ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے پرے بٹا رہا ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اقوام و قبائل کو مخاطب فرمایا کرتے تو ارشاد کیا کرتے کہ لوگو! میں تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں صلاح دنیا اور فلاح آخرت موجود ہے جس میں سعادت دارین ہے جس میں بہبود و سود عالم روح و جسد ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا تحفہ اپنے عزیز ترین اقارب کے پاس لے کر جایا کرتے تھے ماں، باپ، بیوی، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی کو دعوت اسلام دیا کرتے۔ کیوں کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق خون کا اور دودھ کا ہے وہی

دوزخ میں جائیں۔

اے مسلمانو! جب آپ تبلیغ اسلام کا کام اختیار کریں تو سب سے پہلے اپنے دل میں ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسی نفع رسانی کا جوش قائم کر لیں جس میں دوسرے کا نفع اپنے نفع کے برابر ہو جائے۔ آج کل ہم لوگوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ محبت ہے۔ سالانہ تین اہرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے:

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا  
وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابِبُوا۔

تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک ایمان نہ  
ہو اور ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک باہمی محبت نہ ہو۔

لہذا دعوت کا پہلا ذریعہ باہمی محبت کو ترقی دینا ہے۔

آہ! یہ کیسی مصیبت ہے کہ آج کل یہی گراں بہا چیز مفقود ہے۔ تھوڑے سے اختلاف پر ہم اپنے بھائیوں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے فروعی مسائل کے اختلاف پر ہم نفرت باہمی کو اصولاً قائم کر لیتے ہیں۔

جب تک ہمارے اخلاق کا معیار بند نہ ہوگا، جب تک باہمی رواداری ہمارا شیوہ نہ بن جائے گا اس وقت تک تبلیغ میں بھی اچھی کامیابی نہ ہوگی۔

دعوت کا دوسرا طریق ذاتی عمل ہے یعنی ہم اپنے اعمال و اخلاق سے ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے قائم کریں جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ جس دین پر یہ شخص یقین رکھتا ہے فی الواقعہ وہ دین بھی صداقت کا دین ہے۔

بزرگانِ من! آیتِ زبیر عثمان میں دعوت کا مقصد سبیلِ رب کو بتایا گیا ہے۔ یہ اس امر کی تائید ہے کہ وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق ہمارے گفتگو کا آغاز اس کی صفتِ الوہیت سے ہونا چاہیے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ میں جو

ترتیب رکھی گئی ہے۔ وہ بھی اسی رازِ دقیق پر مبنی ہے۔

الوہیت کا جلوہ آپ جہادِ استب میں، نباتات میں، حیوانات میں، نوعِ انسان کی پیدائش کے جملہ مراتب، حمل، ولادت، رضاعت، طفلی، جوانی، پیری میں اپنے مخاطب کو دکھلا سکتے ہیں۔

الوہیت کی تاثیر آپ زمین و آسمان اور عناصر و تاثیر میں دکھلا سکتے ہیں۔ آپ مخاطب پر باسانی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر شے اپنے وجود اپنی ہستی کے لیے ایک بالاتر ہستی کی محتاج ہے۔ اور وہ ہی بالاتر ہستی ہے جو تری مخلوق کو ان کی ضروریات کے موافق اور تری مخلوق کو ان کی احتیاجات کے مطابق پرورش کر رہا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے، زمین کے اوپر رہنے والے، زمین کے اندر چھپ کر لیٹنے والے اسی بالاتر ہستی کی پرورش سے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، زندہ ہیں، اور زندگی سے متمتع ہیں۔ اسلام ایسی بالاتر ہستی کو ”رب“ بتاتا ہے۔ اسلام کا منشا ہے کہ ہم جس کا دیا ہوا رزق کھائیں، اس کی حمد کریں۔ اس کی استغاثہ کریں۔ اسم ”رب“ کے تحت میں انسان کو خود اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا فہم، اس کا جسم، اس کی روح مجبور کرے گا کہ سجدہ و عبادت کے لائق، ثنا و حمد کے لائق، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ شخص بابِ توحید سے قریب تر پہنچ جاتا ہے اور خازنِ ترک سے جس کے کانٹے ہر ایک مسافر کے دامن سے اٹھتے ہیں جو ہر ایک راہرو کے اقدام کو زخمی کرتے ہیں، صاف نکل جاتا ہے۔

اب آیت بالا پر مکرر غور کرو۔ جہاں رَبَّكَ فرمایا گیا یعنی کاف خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ مقدس کی طرف ہے۔

یہ اس کا بیان علامہ سراقبال کے ایک واقعہ سے پیش کرتا ہوں۔ مجھے کئی دوستوں

نے بتلایا ہے کہ سر اقبال یہ کہا کرتے ہیں کہ جب وہ یورپ کو حصول تعلیم کے لیے جا رہے تھے اس وقت ذات باری تعالیٰ کی نسبت ان کے دل میں گونا گوں شکوک تھے لیکن ان دنوں میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی دل میں ایک خاص کشمکش اور خاص جذبہ موجود تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اصولاً یہ واقعہ بالکل معنی برصحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر از خیال و وہم و گمان ہے۔ ہمارے علوم اور معلومات میں نشاۃ مادیات شامل رہتا ہے۔ اور عرفان الہی روحانیت سے بھی بالاتر ہے۔ اس لیے عجز اور اک، عجز معلومات کے بعد اگر ذات باری تعالیٰ کی جانب عرفان کی ترقی کے خواہاں ہوں تو ایمان لانے کے واسطے صرف یہی ایک نقطہ کافی ہے کہ وہ ”رب تحت الکرسی“ ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

میں پوچھتا ہوں کہ جب سے آفتاب زمین پر نور افگن ہوا ہے، اس وقت سے لیکر آج تک کوئی انسان تو ایسا بناؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہیں، بڑھ کر نہیں، بلکہ برابر برابر کامل تر و مکمل تر ہو۔

علماء و فضلاء و حکماء کی تحدید نہیں۔

ان سب کمالات کا انتخاب کیجیے جسے آج تک دنیا نے بالاتفاق کمال انسانی قرار دیا ہو اور ہر ایک کمال میں اس کامل ہستی کا نام لکھتے جا بیٹے جو مسلمہ اور پراس کمال کے لیے خصوصی امتیاز رکھتے ہوں۔

سیدنا آدم و نوح اور ابراہیم خلیل اور اسماعیل ذبیح اور اسحاق حکیم و موسیٰ کلیم اور داؤد سلیمان ایوب و ذکر یا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی صداقت و تقدس پر میرا ایمان ہے ان کی نعوت کمال و جمال کا بیان کرنا میری زندگی کا حاصل ہے۔ لیکن یہ سب بزرگوار خود

اپنے فرمان سے اپنی اپنی پیشین گوئیوں میں سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش کرتے رہے ہیں، حضور کے منصب علیا کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ حضور کی آمد کی بشارت دیتے رہے ہیں۔ انڈیا میں اور ایمان جو ان انبیاء اکرام کی صداقت و تقدس پر ہے مجھے یہ عرفان صحیح عطا فرماتا ہے کہ میں حضور کو سید المرسلین اور مطاع الاولین والاخرین یقین کروں۔

جن لوگوں کے نزدیک کسی مصلح کی شان کا اظہار قواعد تمدن اور قوانین حقوق کے ساتھ ہوتا ہے: وہ سب مسرور و نا اویسین و ہندوستان کے قواعد تمدن کو سامنے رکھ کر اس کا تصدیق کریں۔

جن لوگوں کے نزدیک صاحب کمال کی فضیلت کا ثبوت بیان علوم و معارف سے ہوتا ہے: وہ علوم و معارف کا حضور کے ظاہر کیے ہوئے علوم سے مقابلہ کریں۔

جن لوگوں کے نزدیک کسی مالک تاثیر اعظم کی فوقیت مادیات کو روحانیت سے منور کر دینے میں مشہور ہو وہ حضور کے تقدس قلب و تزکیہ نفس اور تنویر روح کے ارشادات کو تسلیم کریں۔

جن لوگوں کے نزدیک عملی کامیابی اور ملک و قوم کو ارتقا بخشنا کسی افضلیت کی دلیل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۳ سالہ کامیابی کی جلوہ گری جو ارتقائے عالم کا سبب اولیں بنتی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

دنیا میں جمود و کلیہ کے بعد جو تخریک ترقی، بلکہ حرکت حیات پیدا ہوئی ہے۔ اس کا کوئی ثمرہ حضور صلعم سے پیشتر بھی تھا؟

ہر ایک وہ مذہب و ملت جو آج توحید کا مدعی ہے جو اصلاح کا دعویدار ہے جو

اپنے اپنے قوم و ملک میں امام یارشی، اسناد یا صلح کے نام سے موسوم ہے۔ وہ یقیناً حضور  
کے خرمین کا خوشہ چین ہے۔

لہذا "سَبِيلِ رَبِّكَ" کا لفظ بتلاتا ہے کہ جس معبود مطلق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو  
پیدا کیا جس سجود خلائق نے حضور صلعم کو اپنے عرفان خاص سے متاز بنایا ہے، مجھے اُنس  
کی راہ درکار ہے۔

صاحبان! سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ وہ ہے جو  
ہموار ہے، سیدھی ہے، مختصر ہے، مسانت کم اور مفصود قریب۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ میں ذات پات کے وہ اونچے اونچے پہاڑ  
نہیں آتے جن پر چند شخص چڑھ گئے ہیں۔ اور پھر دوسروں کو اچھوت کہہ کر پڑھائی سے  
روک دیا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ میں وہ گڑھے اور خندقیں اور غاریں اور زبور  
و داج کی دیواریں نہیں ہیں جن میں لاکھوں کرڈروں انسان کرتے رہتے ہیں۔ کالے کورسے  
کی فضیلت، برہمن شہور کافرق، عربی شجری کا امتیاز، ملکی، غیر ملکی کی خصوصیت کو اس راہ سے  
دور کر دیا گیا ہے۔

یہ راستہ تمدن کی زمین پر تیار کیا گیا ہے۔ اس راستہ کو انسانیت نے پختہ بنایا  
ہے۔ یہ راستہ اخلاقِ صحیحہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ راستہ اپنی نشا و ایب واد میں اور سرسبز  
میدانوں اور خوشبو دار دریاخانوں اور رنگ برنگ کھوپڑیوں سے چمکے والے کی دل بانی  
کرتا ہے، اسے آگے چلنے اور نیز قدم اُٹھانے کی ہمت دلاتا ہے اور بالآخر انسان کو  
مطلوب اسلی تک پہنچا دیتا ہے۔

انسان کا اور روح انسان کا مقصد اصلی اپنے مالک کا قرب ہے اور دنیا کے ہر ایک مذہب نے بشرطیکہ وہ مذہب کے نام سے موسوم و معلوم بھی ہو اس قرب کا ذکر کیا ہے۔ لیکن عملاً دیکھو کہ وہ ٹھیک مالک تک پہنچا بھی دیتا ہے۔

کیا وہ مورتی پوجنے والے جن کی تمام عمر ایک مادی مورتی بنانے والے ایشر کو اپنی صفات و ذات میں یگانہ دے ہنما سمجھ سکیں گے؟

کیا خدا کو جائزہ انسانی میں ملبوس کرنے والے پھر اس خدا کے صلیب پر لٹک جانے کو اپنی نجات قرار دینے والے اللہ تعالیٰ کے حقیقیوم کی حقیقت کو دریافت کر سکیں گے؟

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "اللہ پاک سب مشرکوں کی سمجھ اور عقل سے بالاتر ہے۔

بیشک "سبیل رب" وہی ہے جو ادھر ادھر کی بیٹھاؤں اور پکڑندگیوں کی طرف نہ لے جاتی ہو۔ بلکہ براہ راست رب القیوم ہی کے پاس لے جانے والی ہو۔

دنیا بھر کے تمدن و تہذیب کی تاریخ پر جن اصحاب کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسا راستہ صرف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ نہ اجر، نہ مدح، نہ ثنا، نہ کوئی ٹیکس، نہ جزیہ۔ انہوں نے صرف اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر فرد کے لیے صدقہ کو حرام کر دیا تھا۔ بلکہ ان کے موالی کے لیے بھی صدقہ حرام تھا جو حضور صلعم کے ساتھ نسبت صحیحہ رکھتے تھے۔

الغرض اس راہ کی دعوت دینا خود سرور کائنات سید الخلائق پر بھی فرض تھا، اور ہم سب پر بھی یہی فرض عائد ہوتا ہے۔ البتہ طریق دعوت یا تو (۱) بذریعہ حکمت چاہیے اور یا (۲) بذریعہ "وخط خویش آمد" لفظ حکمت کے تحت میں یونانیوں کے شاگرد الفاظ نظری و عملی کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ لیکن کلام الہی کو اصطلاحات انسانیہ کا شارح قرار دینا غلط



ہے۔ لفظ حکمت اس سے زیادہ وسیع معنی میں مستعمل ہوا ہے جو معنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ حکمت کے اندر اصول محکمہ، براہین حقیقہ، دلائل انفسی و آفاقی جو انسان کے دل و دماغ اور قوائے ذہنیہ و باطنیہ کی راہبری کرتے ہیں، داخل ہیں۔ حکمت کے تحت ہیں وہ جملہ مکارم اخلاق اور محاسن اعمال داخل ہیں جن کی بابت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

بُعِثْتُ لِأَقِمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ      میں اس لیے نبی بنایا گیا ہوں کہ اخلاق کی بزرگ  
وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ۔      نیریں باتوں اور اعمال کی نیک ترین صورتوں کی تکمیل  
کروں۔

دعوت الی اللہ کے ضمن میں جو مصائب و مشکلات انسان کو لاحق ہوتی ہیں اور جن دشواریوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے یہ سب حکمت میں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلق عظیم ہی تھا جو خدا کے گروہ عظیم کو گرویدہ و شفیقتہ بنا دیتا تھا رسول اعظم کے وہ محاسن اخلاق ہی تھے جو بدترین خلائق کو ائمہ صالحین بن جانے کی طرف کھینچ لے جاتے تھے۔ تبلیغ والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر چشم پوشی اور عفو و کرم کی عادت تھی آج اس کے فقدان نے ہمارے وعظموں کو پھینکا اور بے اثر کر دیا ہے۔ منبر وعظ پر کھڑا ہونے کے بعد تمام بہان کو بڑا بناتا ہے۔ ہر ایک کی عیب چینی کرنا ہمارا شیوہ ہو گیا ہے۔ اور ابھی یہ ایسا بھی ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر آجائیں گے۔

پیارے مبلغو! سب سے پہلے اپنے دل کو تبلیغ کرو۔ اپنے دل میں بلند حوصلہ پیدا کرو۔  
طعن و تشنیع کے سنتے کا اسے عادی بناؤ۔ ہر ایک بات کہنے کا موقع نہ سب  
نگاہ میں رکھو۔

آپ نے سنا ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی صلعم میں پیشاب کرنے لگا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے سخت دست کتنا شروع کیا۔ مگر حضور نے فرمایا کہ اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ حصن بن عمیرہ ایک سردار تھا۔ وہ حضور کے زمانہ میں بلا اطلاع و اجازت داخل ہو گیا اور حضور نے اسے اس وقت کچھ بھی نہ کہا۔

ایک یہودی نے حضور سے قرض کا روپیہ لینا تھا۔ وہ سامنے آیا اور سخت دست کئے لگا۔ وہ یہاں تک کہہ گیا کہ عبد اللہ کی ساری اولاد ہی نادمند ہوتی ہے۔ عمر فاروق نے اسے جھڑکا تو حضور صلعم ہنس پڑے۔ فرمایا:

”عمر تم نے اسے جھڑکا بھی ہے۔ جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور میں سیر غلہ زیادہ بھی دینا کہ اس کے ساتھ سختی ہوئی۔“

اسلام کے ابتدائی میں حرمت خمر، حرمت سود کے احکام نہیں سنائے گئے۔ روزہ اور زکوٰۃ کے احکام بھی نبوت سے پندرہ سال بعد سنائے گئے تھے۔ یعنی آہستہ آہستہ طبع کو مانوس بنایا گیا۔ ان کو تعمیل حکم کے لیے تیار کیا گیا تب وہ حکم دیا گیا جو طبیعت اور رواج کے خلاف تھا۔ اس حکمت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ فوراً تعمیل ہوتی تھی۔

اب ہمارے واعظ چاہتے ہیں کہ جو شخص ان کے وعظ میں پہلی دفعہ آئے۔ اس کی دائرہ ہی بندی ہوئی نہ ہو اس کی لہیں بڑھی ہوئی نہ ہوں۔ اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ ان کا تمام غصہ انہی باتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے بھی بدرجہا زیادہ دیگر امور زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔

ان سب امور کا سمجھنا دعوت بحکمت کا لازمہ ہے

اب رہا مو عظمت حسنہ کا ذکر۔ کوئی وعظ تب ہی حسن کہلائے گا جس میں سننے والوں

کی قابلیت و استعداد کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر کسی دیہاتی کے سامنے منطقی دلائل سنائے جائیں تو وہ وعظ حسن کے درجہ سے گر جائے گا۔ اور اگر کسی تعلیم یافتہ کے سامنے حکم شریعہ کی وجہ اور خوبی کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ موغظت حسنہ نہ رہے گی۔ ہاں موغظت حسنہ کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹے قصے، بے سرو پا داستانیں، بے سند روایات، اسرائیلیوں کے عجائبات وغیرہ وعظ میں شامل نہ کیے جائیں۔ صرف وہی باتیں سنائی جائیں جو خدا اور رسول خدا نے ہم کو سنائیں۔ اور صرف انہی چیزوں کی صحت پر زور دیا جائے جن کی صحت اہل علم کے نزدیک مسلمہ ہو۔ جتنوں پر یوں کے قصے، احضرات وغیرہ کا بیان مضحکہ خیز ہوگا۔ زہد و ورع کے بیان میں جو گیانہ خیالات کی اشاعت تمدن اسلامی کو برباد کرنے والی ہوگی۔ نرم آواز اور کشادہ پیشانی کے ساتھ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ زیادہ موثر ہوتا ہے۔ محبت و خیر خواہی کے لہجہ میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ بخوبی دل نشین ہو جاتا ہے۔

لفظ جدال کے معنی شاید ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہوں، چہرہ تکتا ہوا ہو، منہ پر کفت ہو، اور زبان پر وہ گولیاں ہوں جسے کوئی مذہب سوسائٹی سننا پسند نہیں کرتی۔ لیکن یہ معنی اور یہ فہم بالکل غلط ہے۔

لغت عرب میں جدال ایسی بات پر اصرار کرنے کو کہتے ہیں جس کے انجام کی اطلاع پوری نہ ہو۔ قرآن مجید نے اس لفظ کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا ہے :

يَجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ

وہ قوم لوط کے باب میں ہم سے جدال کرتا رہا۔

یہ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بارگاہ رب العزت میں کچھ عرض کرنا اس شکل میں ہو ہی نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موغظہ حسنہ کا نمونہ بھی ہم کو بتلایا اور جدال احسن کا

طریقہ بھی سکھایا۔

### (۱) موعظت حسنہ کا طرز:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى  
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ  
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ۔

اسے اہل کتاب! آؤ ایک ایسے امر پر اتحد کریں  
جو ہم تم دونوں کے لیے مساوی ہے۔ وہ یہ ہے  
کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے  
اللہ کے ساتھ ذرا سا شرک بھی نہ کیا جائے ہم  
انسانوں میں سے کسی کو اللہ کے سوا اپنا پروردگار

کنندہ نہ سمجھیں

### جدال فرقانیر کی مثال:

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَنَجْعَلُ  
خِلْقَهَا أَنتَهَاءً وَنَجْعَلُ لَهَا دَوَابًّا  
وَنَجْعَلُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا  
ءَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ هَبْ لَهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ۔

وہ مالک جس نے زمین کو ٹھیراؤ بنایا۔ اور اس کے  
اندر دریا بہائے اور پہاڑ بٹھلائے اور سمندر میں  
کے درمیان جزیرے بنائے۔ کیا اس کے ساتھ  
کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں، ان لوگوں میں  
بہت وہ ہیں جو بے علم ہیں۔

أَمْ نَجْعَلُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا  
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ  
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ  
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔

وہ مالک جو گھبرے ہوئے، تلملائے ہوئے کی  
پکار کو قبول کرتا۔ اور اس کی مصیبت کو دور کرتا  
ہے جس نے تم کو زمین پر ٹھیرا رکھا ہے۔ اس کے  
ساتھ کوئی معبود ہے؟ بہت کم ہیں جو غور

کرتے ہیں۔

اَمَّنْ يَهْدِيَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ  
 وہ مالک جو میدانوں اور سمندروں میں راہ نمائی  
 الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ  
 کرتا ہے جو بارش سے پہلے بشارت دینے والی  
 بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ دَعَا لَهٗ  
 ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور  
 مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اَدُّهُ عَمَّا  
 معبود ہے۔ اللہ کی نشان ان مشرکوں کے شرک  
 يُشْرِكُوْنَ ۔ سے بلند ہے۔

اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ  
 وہ مالک جس نے خلقت کو ابتدا میں پیدا کیا پھر  
 يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ  
 ان کو موت کے بعد زندہ کرے گا۔ وہ جو زمین اور  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ دَعَا لَهٗ مَعَ  
 آسمان سے تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے۔ اس کے  
 اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمْ اِنْ  
 ساتھ کوئی خدا ہے؟ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم  
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ سچے ہو تو اپنی برہان پیش کرو۔

آیات بالا پر غور کرو! کہ دلائل پیش کیے گئے ہیں، حقیقی دلائل جن کا جواب نہیں  
 ہو سکتا۔ اور پھر ان کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ یہی جدال احسن ہے۔

اسے جدال کفنی کی وجہ سے یہ ہے کہ دشمن کے لیے حجت ہے اور لا جواب کرنے  
 والی دلیل ہے۔ ورنہ دراصل تو یہ حقائق ہیں اور معارف صحیحہ ہیں اور دلائل صاوتہ ہیں۔ یہی  
 طریق ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر جلد  
 عمل شروع ہو جاوے گا۔

مبارک ہے انجمن تبلیغ الاسلام چنڈہ جس نے تبلیغ کے ساتھ ساتھ تعلیم کا انتظام  
 بھی کیا ہے۔ بے شک جب تک تعلیم کا انتظام نہ ہو اس وقت تک تبلیغ کی بنیاد بالکل نیت  
 پر سمجھی جائے گی۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ اس لیے انجمن کے مدلل سکولوں

کے ساتھ بورڈنگ کا ہونا ضروری ہے جہاں ان کی اخلاقی نگرانی کی جائے جہاں نماز کی پابندی کرائی جائے۔ جہاں ورزش کا سامان بھی ہو۔ ویسی طریقہ کی ورزشیں گتکا وغیرہ کی مہارت کم خرچ زیادہ مفید ہیں۔ ہاں سرشتہ تعلیم کی جاری کردہ ورزشیں بھی اچھی ہیں اور ان سب میں سکاؤٹ کا طریقہ اور بھی زیادہ مفید ہے۔

بہت سے طالب علم جو لکھنے پڑھنے میں سست ہوتے ہیں وہ سکاؤٹ میں داخل ہونے کے بہت آرزو مند ہوتے ہیں۔ لیکن اساتذہ کو چاہیے کہ سکاؤٹ میں بھی وہی طالب علم لیے جائیں جو لکھنے میں پڑھنے میں ہوشیار ہوں۔ استادوں کو سخت نگرانی رکھنی چاہیے کہ ورزشیں تعلیم پر برا اثر نہ ڈالیں۔

طالب علموں کی زندگی کو سادہ رکھنا اور ان کو فیشن کے جادو سے بچانا اساتذہ کا اولین فرض ہے۔ طلباء کو صبح کے وقت چلیدار ہونے اور رات کو جلد سو جانے کی عادت ڈلوانا ان کی صحت کی نگرانی ہے۔

اب میں اپنی مختصر عرض کو ختم کرنے والا ہوں۔ میں اپنی قوم اور بچوں سے سب سے بڑی تمنا یہ رکھتا ہوں کہ وہ قرض سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو لوگ قرض لینے پر دلیر ہو جاتے ہیں وہ ساری عمر خستہ و خراب رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرض نہیں لیتے وہی آسودہ حال اور آسودہ دل ہوتے ہیں۔

مسلمان شاید اس بات سے واقف ہیں یا نہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرض جوازہ کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرض کتنی بُری بلا ہے۔

قوم سے قوم کے بچوں سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بے کاری اور

بے ہنری کو اسلام کے خلائوت اور مسلمانوں کی شان کے خلاف سمجھا کریں مسلمان خواہ کاسب ہے خواہ تاجر ہے اس کی بڑی تعریف احادیث میں کی گئی ہے لیکن بے کاری اور بے ہنری کو سخت معیوب سمجھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حالات پڑھو کہ وہ سب ہنر والیاں اور ہاتھ سے کام کرنے والیاں تھیں۔ کیا ایماندار اپنی مادران ایمانی کا اتباع نہ کریں گے۔

معشر مسلمین! آپ دیکھتے ہیں کہ جواز و عدم جواز سود کے متعلق آج کل کتنی بحثیں ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس غارزار میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ جملہ اہل علم کے نزدیک یہ صحیح اور مسلمہ ہے کہ سود کا ادا کرنا بھی اتنا ہی حرام ہے جس قدر سود کھانا۔ اس لیے برادران دین! سب سے پیشتر سود ادا کرنے کی بدترین عادت کو چھوڑ دیں۔ وہ فقوڑے ہی عرصہ میں دیکھ لیں گے کہ ان کے گھروں میں برکت ہے۔ وہ آسودہ ہیں اور عزت کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں۔

امید ہے کہ میری اس طویل سرائی کو معاف کیا جائے گا۔

ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّكَ  
يَهْدِي بِهِ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ وَيَخْتَمُ

﴿﴾

محمد سلیمان سلمان عفی عنہ

۳۰ رمضان ۱۳۴۶ھ

پٹیا لہ





# تبلیغ الاسلام

واضح ہو کہ تبلیغ کے معنی زبانِ شرع میں اوروں تک پہنچانا ہے۔

ایک قوم کا دیگر اقوام و ملل کو اپنے مذہب کی دعوت دینا اور ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لینا اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔

(۲) تبلیغ خصوصیاتِ اسلام میں سے ہے اور اسلام کے سوا جس قدر مذاہبِ عالم ہیں۔ وہ تبلیغ کا وجود اور ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہیں۔

تبلیغی مذہب کے دراصل:

(۳) کسی اہل مذہب کا یہ دعویٰ کہ اُس کا مذہب تبلیغی ہے۔ دو امور کے ثابت ہونے پر منحصر ہے۔

اول۔ خود اس مذہب کے پاک نوشتوں میں تبلیغ کرنے کا حکم موجود ہو۔

دوم۔ خود اس مذہب کے ہادی اور داعی نے اُس حکم کی تعمیل کر کے

دکھلائی ہو۔

مذاہبِ دنیا کی تقسیم:

(۴) دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں۔ جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو

تبلیغی مذہب نہیں بتلایا۔

یہودی۔ پارسی۔ صابئی۔ چینی۔ سناتن دھرمی۔ ہندوستان کی اصلی ہندو اقوام

نے نہ کبھی اپنے مذہب کو تبلیغی بنلایا۔ اور نہ کبھی تبلیغی مذہب کی صورت میں خود کو جلوہ گر کیا۔

(۵) بودھ مت اور عیسائیت ایسے دو مذہب رہ جاتے ہیں جن کا تبلیغی ہونا زیادہ تر گمان کیا جاتا ہے۔

بُدھ مذہب :

(۶) اگر بودھ مت کی تاریخ کا مطالعہ بغور کیا جائے۔ اور ہاتھ لگا کر تم کے چھ خاص شاگردوں سے لے کر اس مت کے تمام دور اقبال کو دیکھ لیا جائے۔ تو پتہ لگ جائے گا۔ کہ یہ مذہب کبھی ہندوستان سے باہر غیر زبان بولنے والوں یا کسی دوسرے مذہب مستقل رکھنے والوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس مذہب کو ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ہندوؤں ہی نے اسے قبول کیا اور بس۔ اسی وجہ سے خود بودھ ازم کے مصنفین کے اندر یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے کہ بودھ ازم کوئی مذہب ہے یا اخلاقی انجمن ہے۔

آریہ سماج اور بودھ مذہب :

آریہ سماج کا یہ کہنا کہ ہاتھ لگا کر تم بھی وید مت ہی کی حفاظت و حمایت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ خود بودھ ازم نے کسی مستقل مذہب ہونے کا نہ دعویٰ کیا اور نہ اس میں وہ شان پیدا ہوئی۔

سنسکرت نہ پڑھنے کا حکم :

جب ہم ہاتھ لگا کر بودھ کا یہ حکم پڑھتے ہیں۔ کہ اس نے سنسکرت زبان کے پڑھنے کی ممانعت کر دی تھی۔ اور پالی زبان کو مقدس زبان قرار دیا تھا۔ تب

سماج کا دعویٰ بالکل کمزور رہ جاتا ہے۔

الغرض بددعا از م کبھی تبلیغی مذہب نہ تھا۔

عیسائیت :

(۷) اب عیسائیت کو لیجئے۔ اس مذہب کی تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ ۱۹

صدیوں سے برابر اس مذہب کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ اور پورے شہتافت اور کوشش سے ہو رہا ہے۔

ہم اس مذہب کے تبلیغی دعویٰ کو ان ہی دو اصولوں پر طے کرنا چاہتے ہیں۔ اول کیا مقدس کتاب میں حکم موجود ہے۔ دوم کیا صاحب مذہب نے اس پر عمل کیا۔

الف۔ دیکھو خود مسیح اپنی نسبت کیا فرماتے ہیں۔

متی ۵ باب ۴۴ درس ۳۳ میں اسرائیل کے گھر کی کھوٹی ہوئی بھیدوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔

اس صاف اعلان کے بعد مسیح کو کل دنیا کے لیے بتلانا خدا کے راستہ باز کو جھٹلانا ہے۔

ب۔ مسیح توراہ کی بابت کیا فرماتے ہیں۔

متی ۵۔ باب ۱۷ درس ۱۰ یہ خیال متا کرو۔ کہ میں توراہ یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں۔

۱۸ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جاویں ایک قطرہ یا ایک شوشہ توراہ کا ہرگز نہ مٹے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔

اس صاف اعلان کے بعد عیسائیت کو موسویت سے علیحدہ کسی مستقل اصول  
یا نئی تعلیم کا مذہب قرار دینا بالکل باطل ٹھہرتا ہے۔

مسیح کا حکم :

۳۔ مسیح نے شاگردوں کو تبلیغ کی بابت کیا حکم دیا؟

متی۔ ایاب ۵ درس۔ ان بارہوں کو یسوع نے فرما کے بھیجا۔ کہ غیر قوموں کی  
طرف نہ جانا۔ اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔

پہلے اسرائیل کے گھر کی کھوٹی ہوئی بھیتوں کے پاس جاؤ۔

اس حکم پر غور کرنا چاہیے۔ مسیح نے شاگردوں کو غیر قوموں کی طرف جانے سے

قطعاً روکا ہے۔ اور پھر سامریوں کی آبادی میں بھی جانے سے روکا۔

سامری بھی حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں۔ مگر بوجہ طغیان و عصیان ان کو  
بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا گیا۔

حضرت مسیح نے شاگردوں کو سامریوں کے پاس جانے سے بھی روکا۔ یہ

کہہ سکتے ہیں کہ ان کا منشا شاید کبھی سامریوں تک تبلیغ کو وسعت دینا بھی ہوگا۔

لفظ "پہلے بنی اسرائیل" سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

مسیح کا ذاتی عمل :

(۵) مسیح نے اپنی تعلیم کے لیے بارہ شاگردوں کا انتخاب کیا۔ وہ سب بنی

اسرائیل ہیں۔ انہوں نے اسرائیل بستیوں سے باہر جا کر کبھی تبلیغ نہیں کی۔ اگرچہ

ایسی بستیاں یروشلم اور ناصرہ اور کفرناحم کے قریب قریب بہت آباد تھیں

انہوں نے اپنی تعلیم کو روٹی سے بنی اسرائیل کے بچوں سے۔ اور دیگر اقوام کو

کتوں سے تشبیہ دی۔

اس تشبیہ کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو کون دے دیا

کرتا ہے۔

یہ تعلیم یہ ارشاد یہ عمل بالاتفاق ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے

اپنے مذہب کو دیگر اقوام میں (تبلیغ) پہنچانے والا کبھی بھی نہیں سمجھا۔

مسیح کا زندہ ہونے کے بعد تبلیغ کا حکم دینا:

۱۔ عیسائی مبلغ بتایا کرتے ہیں کہ مسیح نے مر کے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں

کو عام تبلیغ کا حکم دیا تھا۔

(الف) یہ تعجب انگیز ہے کہ مر کے جی اٹھنے کے بعد مسیح کوئی تعلیم دیں جو انہوں نے

اپنی زندگی میں نہ دی تھی۔

(ب)۔ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مر کے جی اٹھنے کے بعد جو حکم دیا گیا۔ اس کے

متعلق اناجیل اربعہ میں باہمی اتفاق بھی موجود ہے؟

متی باب ۲۸۔ درس ۱۹۔ اس لیے تم جا کر سب قوموں کو شاگرد کرو۔ اور

انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔

یوحنا باب ۲۰۔ درس ۲۱-۲۲-۲۳۔ یسوع نے انہیں کہا۔ سلام تم پر جس

طرح باپ نے مجھے بھیجا۔ میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ یہ کہ کے اس نے اُن پر

پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس ہو۔ جن کے گناہ بخشو گے اُن کے گناہ بخشے

جاویں گے۔ جنہیں تم نہ بخشو گے نہ بخشے جاویں گے۔

متی اور یوحنا مسیح کو جی اُٹھنے کے بعد (بقول عیسائیاں) خود ملنے والے

ہیں۔ اب دونوں کی عبارت کا مقابلہ کرو۔ کہ یہ دونوں اس ایک ضروری حکم کو متفقہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

متی کا بیان ہے۔ کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا، فرمایا گیا تھا۔

یوحنا کا بیان ہے۔ کہ چھوٹک مار کر شاگردوں کو روح القدس دی گئی تھی۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کا ذکر تک نہیں ہوا۔ یوحنا شاگردوں کو بخشش و معافی کے جن اختیارات کا دیا جانا بیان کرتا ہے متی اس سے خاموش ہے۔

ہیں یوحنا کے اس فقرے کو صحیح تسلیم کرتا ہوں۔ کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا۔ میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور اس امر کی شرح کہ باپ نے مسیح کو کس طرح بھیجا۔ متی ۱۵ باب ۲۴ درس میں موجود ہے۔ کہ میں اسرائیل کے گھر کی کھوٹی ہوئی پھڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، نتیجہ صاف ہے۔ کہ عیسائیت کی تعلیم محض اسرائیلیوں کے لیے تھی۔ اور متی ۲۸ کے الفاظ ”سب قوموں“ کا مفہوم بھی اسباط اسرائیل ہیں۔ مرقس و لوقا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے متی و یوحنا کی عبارت کو دیکھ کر سمجھا اور اپنے مدعا کے لیے ناکافی پایا۔ تو انہوں نے اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے۔

مرقس ۱۶ باب ۱۵، ۱۶ اور س۔ اس نے انہیں کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کے ہر ایک مخلوق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو کہ ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا۔ نجات پاوے گا۔

جناب مرفس نے تمام دنیا ہر ایک مخلوق کے الفاظ کا خوب استعمال کیا  
یہ الفاظ متنی اور یوہنا کو یاد ہی نہ رہے تھے۔

نوقام ۲۔ باب ۷۷ ورس ہیں ہے۔ یہ وشلیم سے لے کر ساری قوموں میں  
توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جاوے۔  
ہر ایک شخص جو مختلف الفاظ اور ان کے معانی پر غور کر سکنے کی قابلیت  
رکھتا ہے۔ وہ چاروں انجیلوں کو دیکھے۔ اور غور کرے کہ کیا فی الواقع یہ عبارات مسیح  
کی اپنی تعلیم اور رائے اور ساری زندگی بھر کے عمل کو منسوخ کر سکتی ہیں۔ یہ تو آپس  
میں ہی متفق نہیں۔

### اختلافات پولوس اور برنباس :

مسیح کے بعد جو پہلا اختلاف خلیفہ کے متعلق پولوس اور برنباس میں معہ  
شاگردان دیکھ ہوا۔ اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر حضرت مسیح کے وقت میں عیسائیت  
کو تبلیغی مذہب قرار دیا گیا ہوتا تو شاگردوں کو فوراً ہی اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں  
کے لیے جداگانہ احکام اور قواعد دینانے کی ضرورت لاحق نہ ہوتی۔

میں ان جملہ سندرات سے اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہوں۔ کہ مسیحیت خود  
حضرت مسیح کی نگاہ میں تبلیغی مذہب نہ تھا۔ اور انہوں نے اس امر کا کسی جگہ  
دعویٰ بھی نہیں کیا۔

### شدھی۔ اور شدھی کا حکم نہ ہونا :

(۸) ہمارے زمانہ میں ”شدھی“ کا وجود ظہور میں لایا گیا ہے۔ قانوناً ہر ایک  
قوم اپنے مست کا پرچار کر سکتی ہے۔ مگر مضمون ہذا میں قانونی بحث مطلوب نہیں۔

## منوسمرفی اور چار ورن :

آج تک کسی اچارچ نے کسی وید۔ کسی شاستر سے ایسا کوئی صاف حکم پیش نہیں کیا۔ جو منوجی مہاراج کی سمرتی کو اور ان کی تعلیم کو غلط ٹھہراتا ہو۔ اب منوجی مہاراج کا چار ورنوں کی تقسیم فرمانا۔ اور ہر ایک ورن کے جداگانہ فرائض قرار دینا اور کھتری کے دیگر اقوام کا وید سے محروم رکھا جانا اس امر کی کافی دلیل ہے۔ کہ ہندومت (یا ویدمت اور سناتن دھرم) کبھی بھی تبلیغی مذہب نہیں سمجھے گئے۔ وہ ایک ارب کئی کروڑ سال کا زمانہ جسے آریہ سمت ظاہر کر رہا ہے۔ ایسے طریق عمل کے پیش کرنے سے خاموش ہے۔ کہ کہیں دیگر اقوام میں بھی وید کا پرچار کیا گیا ہو۔ رواج اور عمل کا یہ مضبوط سلسلہ ان لوگوں کی دیانت داری سے برابر اپیل کرتا رہے گا۔ جو آج کل ویدوں اور شاستروں کو ان کے صحیح مسلک سے علیحدہ کر کے اس کا مفہوم حسبِ دلخواہ بنا رہے ہیں۔

## شدھی اور روٹی بیٹی کا سوال :

اب بھی جب کہ ”شدھی کی ضرورت کو ہندوؤں نے تسلیم کر لیا ہے۔“ اور اس کے لیے اندرونی و بیرونی پروپیگنڈا جاری ہے۔ ”روٹی اور بیٹی کا سوال حل طلب باقی ہے۔ اور یہی وہ امور ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ کہ ہندومت کبھی تبلیغی مذہب نہ تھا۔“

## تبلیغ اسلام :

(۹) اسلام کے تبلیغی مذہب ہونے یا نہ ہوتے کو بھی ہم ان ہی اصول بالا کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ الف۔ حکم۔ ب۔ عمل



## ”احکام تبلیغ“

(الف) مندرجہ ذیل احکام پر غور کرو۔

۱۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝ (شعراء۔ ع۔ ۱۱)

مشہور ہے کہ اصلاح اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آیت بالا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ملا ہے۔ کہ جو لوگ قرابت میں تجھ سے نزدیک تر ہیں۔ ان کو تبلیغ کی جائے۔

۲۔ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۝ (شوری۔ ع۔ ۱۵)

اقربین کے بعد خاص شہر کے باشندوں۔ اور شہر کے بعد اطراف و نواحی کے باشندوں کا نمبر آتا ہے۔ حکم بالا میں یہی ہدایت ہے۔ کہ تبلیغ کو مکہ اور اطراف مکہ تک پہنچاؤ۔

۳۔ لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۝ (انعام۔ ع۔ ۲۷)

یہاں حاضرین کے علاوہ غائبین تک تبلیغ کے پہنچانے کا حکم دیا گیا۔

۴۔ إِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ (مائدہ۔ ع۔ ۱۲)

رسول کا فرض ہی یہ ہے۔ کہ وہ تبلیغ کو روشن اور واضح طریق سے عام کرے۔

۵۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ۝ (ابراہیم۔ ع۔ ۷)

یہ قرآن مجید جملہ نوع انسان کے لیے پیام الہی ہے۔

۶۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ ۝ کہہ دے۔ کہ اے نسل انسانی کے بھو

اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝ الَّذِي

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ ہو کر آیا ہوں۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - زمین کا مالک ہے۔ جس کے سوا اور

(اعراف - ۲۰۴ - ۲۱۴) کوئی معبود نہیں۔

یہ ایک زبردست اعلان ہے۔ اور جملہ اصناف و انواع بشری کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

لفظ ناس تو خود ہی جمع کا لفظ ہے۔ اور اصناف انسانی پر حاوی۔ اس پر بھی الف کلام استغراق موجود ہے۔ اس کے بعد بھی لفظ جمعاً تو ضیح مفہوم کے لیے ساتھ لگا ہوا ہے۔

اعلان کے ساتھ لے مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کے کلمات طبیعات بھی موجود ہیں۔ تاکہ پتہ لگ جاوے کہ حکم بالاکلی وسعت میں آسمان و زمین سب داخل ہیں۔ اور تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ کہ جس طرح تمام مخلوق کا معبود واحد ہے۔ اسی طرح تمام مخلوق کے لیے اللہ کا رسول بھی واحد ہے۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔

اختصار مضمون کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں انہی اسناد پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور ہر ایک مذہب سے التماس کرتا ہوں۔ کہ اگر ان کا مذہب بھی تبلیغی ہے۔ تو وہ بھی فرضیت تبلیغ کے لیے ایسے ہی اسناد اپنے مقدّس نوشتوں سے نکال کر پیش کر دیں۔

عمل تبلیغ :

ب۔ اب میں صورت عملیہ کا ذکر کروں گا۔

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا سے نبوت ہی سے تبلیغ عام کا کام

شروع کر دیا تھا۔ کبھی کوہ صفا کی چھٹی پر چڑھ کر یا اہل فہر و یا اہل غالب  
کا آواز لگاتے۔ اور کبھی وادی بظا اور کبھی صنی کے بلند میدانوں میں دعوت الی الخ  
کا وعظ فرماتے۔

وہ سب سالانہ منڈیاں اور میلے جن میں باشندگان عرب کا اجتماع کلی ہوتا۔ نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ و دعوت کے مرکز بن گئے تھے۔ عکاظ بختہ  
ذوالحجاز ایسے میلے ہیں۔ جن میں ہزاروں کا اجتماع ہوتا اور کئی کئی ہفتے تک یہ ملکی  
مناش کاہیں کھلی رہتیں۔

لوگ تو لہو و لعب۔ کھیل کود۔ اظہار و تفاخر و نکاثر کے لیے آیا کرتے اور نبی  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نا آشنا کانوں میں الوہیت و عبودیت کے حقوق و فرائض  
کے معارف پہنچاتے۔

عرب میں مستقل آبادیاں بہت کم تھیں۔ اکثر قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں کہیں  
ان کے مویشی کے لیے پانی اور چارہ مل جاتا وہیں ڈیرہ ڈال دیتے تھے۔ نبی صلی  
اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خانہ بدوشوں کا پتہ لگاتے اور جہاں یہ اترے ہوئے ہوتے  
وہیں پہنچتے۔ اور تبلیغ فرمایا کرتے۔ اسی کوشش میں یمن و نجد اور حجاز کا کم کوئی قبیلہ  
باقی رہ گیا ہوگا۔ جن کو توحید و رسالت کی منادی نہ کر دی گئی تھی۔

مندرجہ ذیل وہ قبائل ہیں۔ جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ نفس نفیس پہنچے  
اور ان کو پیغام الہی پہنچایا۔ ان سفروں میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب ہوتے تھے  
قبائل جن میں تبلیغ نبویہ کی گئی:

۱۔ کندہ ۲۔ کلب ۳۔ بنو حنیفہ ۴۔ بنو عامر بن صعصعہ ۵۔ بنو عیس۔

۶- بنی سلیم - غسان - ۸ بنو محارب - ۹- فزارہ - ۱۰- بنو نصر - ۱۱- امّہ - ۱۲- غدرہ  
۱۳- حضارمہ - ۱۴- بنو شیبان - ۱۵- بنو بکر بن وائل - وغیرہ

### میدان میں تبلیغ :

اگر عرب کے قدیم نقشہ پر نظر ڈالی جائے۔ اور ہر ایک قبیلہ کا وہ رقبہ جس کے اندر اندران کی نقل و حرکت ہو کرتی تھی۔ معلوم کر لی جائے تو فوراً واضح ہو جائے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے گوشہ گوشہ میں اپنی صداٹے پاک کے پہنچانے کا اہتمام فرمایا تھا۔

### پہاڑ پر تبلیغ :

یہ قبائل تو خشک وادوں کے رہنے والے تھے۔ حضور نے کوہستانی آبادی کو بھی دعوت الی اللہ پہنچانے کا اہتمام فرمایا طائف پانچ ہزار فیتہ کی بلندی پر سرد سبز اور شاداب مقام ہے۔ حضور وہاں بھی پہنچے۔ اور دامان کوہ پر بسنے والی آبادیوں کو بھی اپنے قدم سے مشرف فرمایا۔

### ساحل پر تبلیغ :

بحیرہ قلزم کے بندر گاہوں۔ سعیدہ۔ جدہ۔ ینبوع کے ساحل پر بسنے والوں کو بھی حضور نے نفس نفیس اسلام کے ارکان و اصول سے روشناس فرمایا۔ تبلیغ کا یہ سلسلہ اتنا وسیع ہو گیا تھا۔ اور روزانہ کام اس قدر بڑھ گیا تھا کہ حضور جزیرہ نمائے عرب سے باہر تشریف نہ لے جاسکے۔

### ممالک بعیدہ میں تبلیغ :

۱۱۔ لہذا ممالک بیرونی کے لیے ایسے مبلغین کا انتخاب فرمایا۔ جو اس ملک

کی زبان اور وہاں کے مذہب اور رسم و رواج سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان مبلغین نے وہاں کے حکمرانوں کو حضور کے فریضے پہنچائے۔ اور ان کو ملک و قوم کی ہدایت کے فرض سے آگاہ کیا۔ اور پوری پوری ذمہ داری ان پر عائد کرنے کے بعد پھر عبا و ہبرا کو بھی احکام ربانی سنائے گئے۔ اور دین حقہ کا پیغام سب تک پہنچا دیا گیا۔

بادشاہ حبش اصم بن بجر کے پاس ..... عمرو بن امیہ الضمری سفارت تالے گئے۔  
 شاہ بحرین بن مندر بن ساوی کے پاس ..... علاء بن الحضرمی رضی  
 ملک عمان جعفر بن جندی کے پاس ..... عمرو بن العاص اموی رضی  
 شاہ اسکندریہ جبریل بن متی کے پاس ..... حاطب بن ابی بلتعزہ رضی  
 شہنشاہ روما ہرقل کے پاس ..... وحیہ بن خلیفۃ الکلبی رضی  
 شاہ ایران خسرو کے پاس ..... عبداللہ بن خزامہ رضی  
 فرمانروائے یمن ہوزہ بن علی کے پاس ..... سلیمان بن عمرو رضی  
 فرمانروائے دمشق ابن حارث کے پاس ..... شجاع بن وہب الاسدی رضی  
 وغیرہ وغیرہ۔

یہ تمام سعی و کوشش اس امر کا عملی ثبوت ہے کہ اسلام تبلیغی مذہب ہے۔

۱۲۔ ان مساعی جلیلہ کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حیات مقدسیہ میں یہودی، عیسائی، بت پرست، پارسی، صابئی، دہریہ، آزاد خیال وغیرہ وغیرہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔

فیوض اسلام اور ادیان متعَدَدہ:

علمائے نصاریٰ

علمائے یہود

تیم داری	عبداللہ بن سلام (از نسل یوسف علیہ السلام)
جارود العبدی	یوسف بن عبداللہ
طلح بن علی	اسید و ثعلبہ فرزند ان سعید
طوفہ بن زید ہمدی	اسید بن عبید
عدی بن حاتم	اوس بن سمان
صرمہ بن ابی انس	اسد بن عبدالقزظی
بشر بن معاویۃ البکانی	کعب بن سلیم القزظی

بت پرست:

بت پرستوں کے سرداروں لات، امنات، اشعری، وقار، ہبیل، عم انس وغیرہ کے پرستاروں کی فہرست پیش کرنا یہ سو ہے جبکہ معلوم ہے کہ عرب قبل از نبوت محمدیہ قاطبۃ بت پرست تھا۔ اور حضور ہی کی حیات طیبہ میں ایک بھی بت پرست باقی نہ رہا تھا۔

۱۳۔ تبلیغ کا جو پاک اثر مختلف ممالک اور مختلف اقوام میں جاگزیں و دلنشین ہو گیا تھا۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ مختلف ممالک سے مختلف زبانوں کے بولنے والے مختلف ادیان سے نسبت صحیحہ رکھنے والے مرکز اسلام میں اور ہادی اسلام کے حضور میں حاضر ہو گئے تھے۔

حیش سے..... (۱) اسلم الاسود (۲) امین بن عبید۔ (۳) ذومحرا بن اخی النجاشی۔

روم سے ————— (۱) باقوم (۲) صہیب بن سنان

افریقہ سے ————— منذر

قبط سے ————— اسلم البورافع

یمن سے ————— (۱) یاسر بن عامر (۲) ابو موسیٰ اشعری وغیرہ

عمان سے ————— مازن بن الخضوب الخطامی

فلسطین سے ————— بشیر بن عقریہ

نوبہ (سوڈان) سے ————— یسار مولیٰ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت سے ————— وائل بن حجر بن ربیعۃ الحضرمی

ایران سے ————— سلمان فارسی وغیرہ

خراسان سے ————— فیروز دیلمی

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائیوں پر نظر اگر ان کے اختلاف مراتب کے

لحاظ سے ڈالتا چاہو۔ تو دیکھو۔

شایان :

اصغر نجاشی شاہ جیش۔ اکبدر شاہ دومۃ الجندل۔ جعفر شاہ عمان۔

گورنران ممالک :

(۱) یازاں سلطنت ایران کا وائسرائے مامورہ یمن (۲) فروہ سلطنت روما کا

وائسرائے مامورہ شام۔

حکمرانان ملک :

(۱) ثمامہ بن اثال و ایبے نجد۔ (۲) جوشب بن طعنتہ الحمیری۔ (۳) ذوالکلاع حمیری

(۴) داؤل بن حجر - (۵) صعصعہ بن صعصعہ بن صوحان ۴ - طفیل بن عمرو ذوالنور -

### قائدین عساکر:

(۱) سعود بن زحیدہ - (۲) حصین بن علیہ - (۳) خالد بن ولید - (۴) نعمان بن مقرن مزی

### اہل فضل و کمال:

(۱) لبید عامری - (۲) حمید بن ثور ہلالی - (۳) ابودرواء - (۴) نابغہ - (۵) حبان

بن قیس جعدی - (۶) وغفل بن خنظلہ العلامۃ الشیبانی (۷) عروہ بن مسعود بن اوس

(۸) حارث بن حارث ثقفی - (۹) اعشى مازنی - (۱۰) ابورہم بن مطعم - (۱۱) ارجی الہمدانی

### ائمہ مذاہب متعذرہ:

عثمان بن طلحہ ————— کلید برادر کعبہ

عندی بن حاتم ————— اسقف عیسائیاں

صرمہ بن ابی انس ————— عیسائیاں عرب کا ولی اللہ

عبداللہ بن سلام ————— امام یہود

عمرو بن مسیح بن کعب ————— اسقف یمن

ابومریم تدبر ————— اسقف عسٹان

### فائزین و کشتورکشا:

عامر بن جراح ————— فاتح شام

خالد بن ولید ————— فاتح عراق

عبدالرحمن بن ثمرہ ————— فاتح کابل و بھستان

سعد بن ابوقاص ————— فاتح ایران



عمر ابن العاص ————— فاتح مصر

غلبہ بن غزوان جابر مازنی ————— فاتح حیر و بانی بصرہ

(۱۴) میں اس فہرست کو نظر مختصراً ختم کرتا ہوں۔ ناظرین دیکھیں گے۔ کہ

میں نے تعلقائے راشدین مہدیین کا ذکر نہیں کیا۔ اور ہاجرین اولین اور سابقین

اولین میں سے ابھی صرف دو ایک نام آئے ہیں۔ میرا مقصود یہ ہے۔ کہ یہ بزرگوار

تو فلک رفعت اور سما عزت کے مسئلہ کو اکب در یہ ہیں۔ ان کے بعد بھی صحابہ

کرام میں ایک ایک کی شان نرالی ہے۔ اور ایک ایک کے فضائل مجیر العقول ہیں۔

جملہ مذاہب کے اہل علم ذرا آگے بڑھیں اور اپنے مذاہب کو تبلیغی ثابت کرنے

کے لیے فہرستیں لکھ کر دکھلائیں۔ سامعین مدح فرمائیں۔ شاہد ان میں سے بعض

تو یہ مخقر فہرست سنتے سنتے ہی اکتا گئے ہوں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی برہان

پہلی اور دلیل قوی ہے۔ کہ کوئی شخص بھی عیسائی ہو، یا یہودی ہو، یا ہندو ہو

یا پارسی۔ صابئی ہو، یا بدھ مت خود بانی مذاہب کے عہد کی ایسی فہرست پیش

نہیں کر سکے گا۔

صحابہ کی قوت ایمانیہ کا مقابلہ پہلی اقوام کے ساتھ

(۱۵) اگر میں ان صحابہ کی قوت ایمانیہ کے واقعات یعنی بیان کرنے لگوں۔ اور

ان کے واقعات کا مقابلہ یہود اور اسکریوطی سے جس نے ۱۹ برس پہلے شہوت کر

مسیح کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور بطرس سے جس نے مسیح کے سامنے مسیح کا انکار کیا تھا۔

اور باقی شاگردوں سے جن میں رائی کے داند کے برابر ایمان نہ ہونے کی شہادت

راست بائیس نے دی ہے۔

یا ان چھ شاگردوں سے جو نہایت گونم کو درخت کے نیچے اکیلا چھوڑ کر ان کی رفاقت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔

یا سردارانِ موسیٰ میں سے قرح۔ و ابن اور ابیرام کے ساتھ کر کے دکھلاؤں  
نور ایک شخص کو جو سر میں دماغ اور دماغ میں مادہ فہم رکھتا ہے۔ جلد تریہ مضر  
پڑھنا ہوگا۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

عالمگیر مذہب میں ہمہ گیری کی وسعت:

(۱۶) میں اس دلیل کو اسی جگہ چھوڑ کر بیان کرتا ہوں۔ کہ کوئی مذہب تمام دنیا  
کے لیے تبلیغی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب تک کہ اس کی تعلیم میں وسعت اور ہمہ گیری اور  
فطرت انسانی کی ترجمانی موجود نہ ہو۔

ناظرین باتمکین!

(الف) پورے غور سے مسیح کا یہ ارشاد پڑھیں:

دولتمند اور آسمانی بادشاہت:

متی ۱۹۔ باب ۲۳۔ درس۔ جب یسوع نے شاگردوں سے کہا۔ میں تم  
سے سچ کہتا ہوں۔ کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔  
(۲۴) درس بلکہ میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا  
اس سے آسان ہے۔ کہ ایک دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔

میں یورپ اور امریکہ کے کروڑ پتی امراء سے عرض کروں گا۔ کہ اب وہ  
خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ کیونکہ دولت مند کا

عیسائیت میں گزر نہیں۔

نوامیس قدرت کے ٹوڑنے کی طاقت :

(ب) ہاں عیسائیت کی بنیاد یہ۔ بان پر رکھی گئی۔ جس کا وجود جناب پاپائے روم کی بزرگ ہستی میں بھی مفقود ہے۔ مثلاً۔ مسیح کے ارشاد ذیل پر غور کرو۔  
میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ جو کوئی اس پہاڑ کو کہے اٹھ اور دریا میں گر پڑو وہ اپنے دل میں شک نہ لادے۔ بلکہ یقین کرے۔ کہ یہ باتیں جو وہ کہتا ہے۔ ہو جائیں گی۔ تو جو کچھ کہے گا سو ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ آج بچاؤ کر ڈر عیسائیوں میں کسی ایک کا بھی درجہ یقین پر نہ ہو نہایت سخت اور نہایت تلخ تجربہ ہے۔ مسیح نے تو سچ فرما دیا۔ اب اس کو سچ کر دکھانے والا بھی کوئی عیسائی ہونا چاہیے۔

لامحدود اختیارات کا شخص واحد میں جمع ہونا :

(ج) ہاں تبلیغی مذہب اس طرح کے شخص لامحدود اختیارات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جس کی تعلیم مندرجہ ذیل مقام میں دی گئی ہے۔

متی ۱۶۔ باب ۷ اتنا ۱۹ اورس۔ یسوع نے جو اب میں اسے کہا۔ اے شمعون بریونس مبارک ہو۔ کیونکہ جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے، تجھ پر یہ ظاہر کیا۔ میں یہ بھی تجھ سے کہتا ہوں۔ کہ تو پطرس ہے۔ اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور وہی کا اختیار اس پر تہ چلے گا۔ اور میں آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں تجھ کو دوں گا۔ جو کچھ تو زمین پر بند کرے گا، آسمان پر بند کیا جاوے گا۔ اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا۔ آسمان پر کھولا جاوے گا۔

مارٹن لوٹھر اور پوپ:

صاحبان! یہی وہ لائحہ عمل اور اختیارات تھے جن سے لوٹھر مصلح صحیح اٹھا تھا۔ اور اُس نے پوپ کی شخصیت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا تھا۔ مگر اس کا علاج مارٹن لوٹھر کے پاس کیا تھا۔ کہ مسیح کا یہ ارشاد برابر انجیل میں موجود ہے۔ اور اسی لیے رومن کیتھولک کی تعداد اب تک پراسٹنٹ سے زیادہ ہے۔

ترک ازدواج:

(۵) ہاں عیسائیت دنیا کا تبلیغی مذہب نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس میں ترک ازدواج کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ مئی ۱۹-۱۰ تا ۱۲ درس میں ہے۔

”اس کے شاگردوں نے اُس سے کہا کہ اگر مرد کا حال جو رو کے ساتھ یہ ہے تو جو رو کرنا اچھا نہیں۔ اُس نے اُن سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر وہ جنہیں دیا گیا۔ کیونکہ بعضے جو بے ہیں۔ جو مان کے پیٹا ہی سے ایسے پیدا ہوئے۔ اور بعضے جو بے ہیں جنہیں لوگوں نے جو بے بنایا۔ اور بعضے جو بے ہیں۔ جنہوں نے آسمان کی بادشاہت کے لیے آپ کو جو بے بنایا۔ جو اس کو قبول کر سکتا ہے سو کرے۔“

صاحبان! وہ ہزاروں لاکھوں نن اور منک جو تمدن کے لیے عار، اور شہریت کے لیے بار ہیں۔ اسی ایک فقرے کا نتیجہ ہیں۔ یہ مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ جو ایک سے زیادہ جو رو کرنے کا سمجھا جاتا ہے۔

## مسیح اور تلوار:

ہاں عیسائیت اس لیے بھی دنیا کا تبلیغی مذہب نہیں ہو سکتی کہ اس میں اتحاد و محبت نام کو نہیں۔ بلکہ افتراق کو مسیح کی آمد کا مقصد بتایا گیا ہے۔

متی - ۱ - باب ۲۲، ۲۳ و ۲۵ درس میں ہے

”یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا۔ صلح کروانے نہیں بلکہ

تلوار چلانے آیا ہوں۔ کیونکہ میں آیا ہوں۔ کہ مرد کو اس کے باپ

اور بیٹی کو اس کی ماں اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں“

مسیح اور ظالم کا مقابلہ نہ کرنے کی تعلیم:

(و) ہاں مندرجہ ذیل حکم بھی عیسائیت کو دنیا کا تبلیغی مذہب ہونے سے

روکتا ہے:

متی ۵ - باب ۲۸ تا ۳۱ - درس

”تم سُن چکے ہو۔ کہ کہا گیا ہے۔ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے

بدلے دانت! پر میں تم سے کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کر۔ بلکہ جو تیرے

دلہنے گال پر طمانچہ مارے۔ دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر

کوئی چاہے کہ تجھ پر نالش کر کے تیری قبائے۔ کڑتے کو اسے دے

دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار لے جاوے۔ تو اس کے ساتھ

دو کوس چلا جاؤ

۱۹۱۲ تا ۱۹۱۸ء کا جنگ یورپ:

ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ برطانیہ عظمیٰ نے جو لڑائی جرمن کے ساتھ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ء میں

کی ہے۔ وہ مبنی برحق تھی۔ اس لیے کہ جبرمتی کا ظالم ہونا ثابت ہو چکا تھا۔  
لہذا ہم حیران ہیں۔ کہ مسیح کے اس حکم کو دنیا کے جملہ قوانین اور آئین اور ضروریات  
کے مقابلہ میں کیا درجہ دیا جائے گا۔

ہماتما بدھ کا طرزِ معیشت :

عیسائیت کے بعد جب ہم ہماتما کو تم بدھ کو دیکھتے ہیں۔ کہ وہ ہاتھیں کشکول  
لیے ہوئے چپ چاپ ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور جب گھروالے  
اُس کی کشکول میں کوئی خوردنی چیز ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ آہستگی کے ساتھ وہاں  
سے چل پڑتا ہے۔ تو ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں۔ کہ دنیا اس اصول پر نہیں چل سکتی  
اور اُس نامور ہستی نے جو نمونہ اپنی زندگی کا دکھلایا ہے۔ اُس پر عمل نہیں کیا جاسکتا لہذا  
نتیجہ صاف ہے۔ کہ بدھ ازم دنیا کا تبلیغی مذہب نہیں ہو سکتا۔

ایک بدھ فاضل نے تحریر کیا ہے۔ کہ بدھ ازم کی ناکامی کا سبب خود اس  
کے اپنے اصول تھے۔ (کتاب بدھ مہنتہ مسٹر اس کا اردو ترجمہ ص ۲۰۵)

جب ہندوستان اُن فقیروں کا بوجھ نہ برداشت کر سکا۔ جو خود ہماتما بدھ کی  
زندگی میں سینکڑوں کی شمار میں۔ اور ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تھے،  
تب اُن کو مجبوراً ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ جو مذہب خود اپنی مولد  
مسکن میں قائم نہیں رہ سکتا، وہ دنیا کا تبلیغی مذہب ہونے کی صلاحیت سے  
بہت دور ہے۔

صراطِ مستقیم کے قیام میں اسلام کی مساعی :

اسلام نے خود کو دنیا کا مذہب عام مشتہر کرنے سے پہلے پہلے اُن غاروں

مفاکوں کو بھردیا ہے۔ جو اُسے اپنی شاہراہِ اعظم تیار کرنے میں حائل تھے۔  
اسلام نے معلوم کر لیا ہے۔ کہ دنیا میں امتیاز و اختقار کی بنیاد کن چیزوں  
پر رکھی گئی اور پھر ذلت و عزت کی تعمیر ان سے کی گئی۔  
(الف) اختلاف زبان کے کرشمے :

ان میں سے ایک اختلاف زبان ہے۔ کالیڈاس کا شکستہ ناک پڑھو۔  
معلوم ہو جائے گا۔ کہ امراء سنسکرت بول رہے ہیں، اور خدام پر اکرت میں جواب  
عرض کر رہے ہیں۔ و آملیک جی کی رامائن میں سری رام چندر جی سنسکرت بول رہے  
ہیں۔ اور سیتنا جی پر اکرت میں گفتگو کرتی ہیں۔ یعنی خادموں اور عورتوں کا یہ  
درجہ نہیں کہ وہ سنسکرت بول سکیں۔ خدام میں شور، چنڈال سب داخل ہیں  
مگر انبیات کی ہن منقو نہ میری انجیل کو عبرانی زبان میں پڑھ رہی ہے۔  
اور انگلستان کا افسر اُسے بکواس بتلاتا ہے۔

ہماتما گوتم بدھ سنسکرت کو اُس کے زر جہ علیا سے گرا دیتا ہے۔ اور تعلیم  
سنسکرت کی ممانعت کر دیتا ہے۔ اور یہی امر اُس مذہب کی مخالفت شدید کا  
موجب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک ہی حکم کے ساتھ اس اختلاف کو بالکل  
محو کر دیا۔ اور محو کرتے ہیں وہ اسلوبِ بدیع اختیار کیا۔ جس میں سب کی عزت رہ  
گئی۔ فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ اِخْتِلَافُ السِّيَاتِ (سورہ روم آیت نمبر ۲۲) بولبیوں کا  
بھانت بھانت ہونا، لغات کا الگ الگ ہونا بجائے خود اللہ کی آیات (نشان)  
میں سے ہے۔

(ج) اختلاف رنگ کے کرشمے:

از انجملہ اختلاف رنگ تھا جس نے بیسیوں اقوام کے دلوں بیسیوں اقوام کی حقارت محض اختلاف رنگ کی وجہ سے ڈال رکھی ہے۔

امریکہ اپنی زبان سے تہذیب و انسانیت کے دعاوی جس قدر چاہے الپا کرے مگر امریکہ کے سیاہ فام باشندوں کے ساتھ جو نفرت و عداوت ان کو اب تک ہے۔ اور بعض کالی رنگت والے مجرموں کے ساتھ جو سخت ترین وحشیانہ سلوک وہ کر گزرتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔

رنگ وید:

رنگ وید منڈل چہارم منتر ۱۶۔ رچا۔ ایس۔ بے

”اس نے پچاس ہزار سیاہ فام دشمنوں کو لڑائی میں تباہ و غارت کیا“

نو آبادی ہائے کاسلوک:

کتیا۔ نٹال، فرسی سٹیٹ وغیرہ نو آبادیوں میں سفید رنگ والوں نے جو جو ضوابط

و قواعد سیاہ رنگ والوں کے لیے بنا رکھے ہیں۔ وہ بھی معلوم ہیں۔ عجیب تر یہ ہے

کہ جہشی لوگ اپنے گھروں میں جب شیطان کی تصویر بناتے ہیں۔ تو اسے سفید رنگ

کا انسان ظاہر کرتے ہیں۔

اسلام کا فیصلہ:

ہاں اسلام ہی نے یہ حکم سنایا کہ لَا فَضْلَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى

أَحْمَرَ ط کہ کسی سرخ رنگت والے کو کسی کالے کلوٹے پر اور کسی کالے کلوٹے کو کسی

سرخ و سفید پر کوئی فضیلت نہیں۔



## وجہ خصوصیات ملکی کے اختلاف

از انجملہ خصوصیات ملکی کا امتیاز بھی باعث اختلاف تھا۔ گورنر برہمن ساڑھت پر۔ اور ساڑھت برہمن گورنر فضیلت رکھنے کے دعوایدار ہیں۔ کشمیری پنڈت دکھشٹی پنڈتوں پر اور دکھشٹی پنڈت کشمیری پر امتیاز خاص کے مدعی ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ ایک شخص دریاٹے سرستی کے ورے کنارے کا رہنے والا ہے اور دوسرا سرستی کے پرے کنارے کا ہے۔ یاد کن قدیم آبادیاں کشمیر زیادہ پرانا ہے۔

بنی اسرائیل میں بھی امتیاز دریاٹے چارڈن کے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ امیر و چارڈن کے باشندے آندوسے چارڈن والوں سے خود کو اعلیٰ سمجھا کرتے تھے۔

ہندوستانی آریہ دست کے رقبے کے آثار رہنے والے کو زیادہ معزز سمجھتے اور جنوبی و شمالی ہند کے باشندوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے۔

منوچی نے بھی ہمالیہ اور ہندوستان کے درمیانی رقبے میں رہنے والوں کو خاص عزت سے مشرف فرمایا (ادھیاء)

اہل عرب نے ماسوائے عرب کا نام عجم رکھا ہوا تھا۔ اور وہ اہل عجم کی انساب کی کوئی وقعت نہ سمجھتے تھے۔

اسلام نے اس اختلاف کو بھی مٹایا۔ اور یہ فرمان نبوی سنایا گیا: لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا عَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ كَيْسِي عَرَبِيٍّ وَاللَّهِ كَوْمِ عَجْمٍ وَاللَّهِ كَوْمِ عَرَبِيٍّ وَاللَّهِ كَوْمِ عَجْمٍ وَاللَّهِ كَوْمِ عَرَبِيٍّ (۲۴) تم اپنی پاکیزگی اور برتری کا دعویٰ نہ کرو۔ اور پھر وہ خاص وجہ فضیلت بھی بتلا دی، جو جملہ اصناف و افراد انسانی کے ساتھ مساوی نسبت رکھتی ہے۔ اِنَّ اَكْثَرَ مَا كُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسَكُمْ (حجرات آیت ۱۳) جو کوئی شخص معرفت ربانی میں بڑھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے۔

بلالؓ و باقوم ابو جہل و ابولہب:

بلالؓ کا حبشی اور باقوم کا رومی ہونے میں کیا درجہ گھٹ گیا۔ اور ابولہب کا

ہاشمی اور ابو جہل کا قریشی مکی ہونے سے کون سا اعزاز بڑھ گیا۔

(۱۵) پیدائشی حقوق:

اختلاف و تباغض و تحاسد کے ان بڑے اصولوں کی سرچشما عمارت کو خاک نشین کر دینے کے بعد بھی اسلام نے اپنی کوشش مصالحت و مفاہمت کو جاری رکھا اور معلوم کیا کہ قریباً ہر مذہب نے اپنے اندر ایک خاص قوم کو ایسے پیدائشی حقوق دے رکھے ہیں۔ جن کو دیگر اقوام کے لوگ اعلیٰ ترین قابلیت و ریاضت کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

یہودیوں میں بنو لاوی

ہندوؤں میں برہمن

پارسیوں میں موبد

عیسائیوں میں پوپ

اور ان کے اعمال ہی تقرب الی اللہ کا واسطہ سمجھے جاتے۔ انہیں کے ذریعہ مردوں کو سو رگ و زرگ میں دھکیلا جاتا۔ انہی کے توسل سے بخشش و معافی حاصل کی جاتی تھی۔ اور اسی کا نتیجہ یہ تھا۔ کہ یہ لوگ نسل انسانی کے اندر طاقت بزرگ طاقت بشری کے مدعی بن جاتے تھے۔

(۱۶) اقوام دیگر میں معیار نبوت:

اب اسلام نے جملہ مذاہب کے دعویٰ روحانیت و تقرب و عرفان پر

نگاہ کی، اور یہ مسئلہ بھی دنیا کی جملہ اقوام میں آج تک بیگانگی و تنافر کا موجب تھا۔  
 بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا، کہ نبوت ربانی کا منصب صرف اسرائیلیوں میں پایا  
 جاتا ہے۔ اور جملہ ادیان و اقوام اس شرف سے محروم ہیں۔  
 ایزدانیوں کا دعویٰ تھا کہ جہاں سب اور زرتشت کی اولاد کے سوا سرورش بزدانی  
 کی عزت اور کسی قوم کو نہیں ملی۔

ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ آریہ ورت میں رہنے والے ایزدنیوں کے سوا  
 آکاش بانی کے درشن اور کسی کو نہیں ملی۔ مہر لوں، جینوں وغیرہ کا رویہ بھی اس بارہ  
 میں ایسا ہی تھا۔ اس دعویٰ سے صرف یہی نتیجہ نہیں نکلتا تھا کہ کوئی ایک قوم اپنے  
 تمنا شرف پر اکتفا کرے۔ بلکہ اس کا لازمہ یہ بھی تھا کہ ہر ایک قوم باقی دیگر ادیان  
 و اقوام کو گمراہی و ضلالت اور جہل و غوائل کا الزام لگاتی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی ہونا  
 تھا کہ اپنی قوم کے چند بزرگوں کے علاوہ باقی دنیا بھر کے دیگر بزرگ، مقدسین و ہادی  
 مہدیین کو ناپاک الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے۔

اسلام نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا کام مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (بقدرہ رکوع ۱۲)  
 بخوبی کیا۔ اور اپنے سے پہلوں کو راست باز ہونے کا اعلان فرمایا۔ بعد ازاں  
 (وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)۔ کا منشور ربانی جاری فرمایا۔ اور بتلایا  
 کہ اپنے اپنے عہد میں ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب میں اللہ کا پیام سنانے  
 والے راہ ہدایت دکھانے والے، نوع انسان کو گمراہی و ضلالت سے بچانے  
 والے ہو چکے ہیں۔

یہ ایک بالکل جدید علمی اکتشاف تھا اور اس کا مدعا باہمی متاخرت و عداوت

و مشابہت کا دور کر دینا تھا چنانچہ یہ مدعا پورا ہوا، اور باحسن و بوجہ پورا ہوا۔  
 (۳) ان جملہ ابتدائی انتظامات کے بعد اسلام نے اس جہانگیر تعلیم کو پیش کیا  
 جو سادہ، آسان اور سہل العمل تھی۔ اس نے ملکی و مقامی خصوصیات کو جو پیشتر انہیں ہر  
 ایک مذہب میں بہت زیادہ ملحوظ و مرعی تھیں، نظر انداز کر دیا۔ اور ہمہ گیری کے طریقوں  
 کو ترجیح دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خیمہ عبادت:

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عبادت گاہ کے لیے جیسے پردے، صندوق،  
 سامان رو بہلی، سنہری برتن چیرا سیں اور بعد ازاں کاہن اور کاہن کے ماتحتوں کی  
 وردیاں مقرر کی تھیں۔ اس کی تفصیل کتاب الخروج میں موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہود  
 میں عبادت گاہوں کا قیام نہایت دشوار ہو گیا۔

اچار ج دیاندا اور سندھیا:

پنڈت دیانند سرتی مہاراج نے سندھیا کے لیے ہون ضروری ٹھہرایا۔  
 ہر ایک ہون میں گھی کے اچھے ہر ایک چمچے، ہاتھ کا تھر بڑیکیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سندھیا کا  
 قیام اچھے اچھے گھروں میں بھی نہ ہو سکا، ادھر گھی کا نرخ بڑھتا گیا۔ اور ادھر مشکلات  
 کا اضافہ ہوتا گیا۔

سندھیا تین وقت ہونی چاہیے، اور دو وقت تو لا باہری ہے۔ دو وقتوں میں ۱۶  
 تولہ گھی صرف ہون میں جلانے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مشکل کیونکر پوری  
 ہو۔ کیونکہ اتنا گھی تو ہندوستان میں میسر نہیں آ سکتا۔

رشتی دیانتد اور سوختگی لاش:

ہر ایک لاش کے سوخت کرنے کے لیے بھی بیس سیر گھی ہونا چاہیے۔ اگر سب  
دھار مک پُرش اس حکم کی تعمیل پر دل و جان سے آمادہ ہو جائیں، اور گھی کا کھانا بھی  
ترک کر دیں، پھر بھی ہندوستان اتنا گھی روزانہ سپلائی نہیں کر سکتا۔

روزانہ اشنان:

ہندوؤں کی کتابوں میں روزانہ اشنان پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور وہ بھی  
کسی دریا کا اشنان، یا تالاب کا اشنان، یا کوئیں کے تازہ پانی سے اشنان،  
اس حکم کی تعمیل گنگا، جمنا کی درمیانی وادی کے باشندے اور وہ بھی قوی  
باشندے تو کر سکتے ہیں۔ مگر اس حکم کو یورپ کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا اور  
نہ ان ریگستانوں کے بسنے والوں سے اس پر عملدرآمد کی توقع کی جاسکتی ہے۔ جہاں  
پینے کا پانی بھی بدشور می ملتا ہے۔

الغرض اسلام نے اپنے عالمگیر و ہمگیر بنانے کے لیے ایسی ایسی رسمیات  
سے خود کو بالاتر رکھا۔

اسلام کے امتیازی اصول:

اسلام کے وہ اصول جو اس کی تعلیم کو ممتاز بنانے والے ہیں، بہت ہیں۔  
سب سے پہلے مسئلہ توحید کو لیجئے۔

توحید:

آج تک کسی قوم نے بھی خواہ وہ شرک کی انتہائی پستی میں گری ہوئی ہو۔ توحید  
کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے شرک ہی میں توحید ثابت کرنے کی مذیوحی حرکات کی ہیں

عیسائیوں کی تثلیث، باپ، بیٹا، روح القدس۔

آرین تثلیث۔ ایشور، مادہ، روح

سناتنی تثلیث۔ برہما، ایش، مہیشین (زر سول اسی تثلیث کی یادگار ہے)

افلاطونیوں کی تثلیث۔ خدا، نفس، عقل کلی۔ جو روح و مایہ اور اس کے آس

پاس عیسائی تثلیث سے پیشتر صدیوں موجود تھی، بخوبی رائج ہیں۔ تاہم یہ سب تثلیث

پرست کو شمش کیا کرتے ہیں۔ کہ توحید فی التثلیث کے ثابت کرتے ہیں کسی طرح

کامیاب ہو جائیں۔ تین پانی کا ایک پیسہ یا ایک پیسہ کی تین پائیاں اس لیے مقرر

کی گئی ہیں، کہ علم الاعداد سے تثلیث فی التوحید، اور توحید فی التثلیث کی دلیل پکڑی

جائے غیر مجھے ان کوششوں کے متعلق کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ صرف یہ گزارش کرنا

چاہتا ہوں۔ کہ توحید کا انکار کوئی قوم بھی نہیں کر سکتی۔

یہ مسلمہ ہے۔ کہ ایسا متحدہ عقیدہ جس مذہب میں زیادہ واضح زیادہ روشن

زیادہ خالص پایا جائے گا۔ وہی مذہب دیگر جملہ مذاہب سے بالاتر ثابت ہو جائے گا۔

نمبر ۱۰ توحید:

مسئلہ توحید کا نمبر یہ ہے۔ کہ انسان کو اپنا درجہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ

لگ جاتا ہے۔ کہ وہ تمام مخلوق کا سردار ہے۔ برو بھر پر اس کی حکومت ہے۔

زمین اور اس کے طبقات، عالم اور اس کا ماحول سب کچھ انسان کا مسخر، انسان

کا مطیع، انسان کا کارندہ ہے۔ اور کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جس کے سامنے اسے

چھکنا پڑے، کوئی شے بھی ایسی نہیں۔ جس کی عظمت کے سامنے انسان کو سر اگنڈہ

ہونا پڑے۔

اس شرف اور علو جاہ کے بعد وہ دیکھتا ہے۔ کہ مالک الملک رب الارباب  
خالق النکل کی عظمت و ہیبت کے سامنے وہ ایک قطرہ سے بھی ناچیز اور ایک ذرہ  
سے بھی زیادہ عاجز ہے۔ اس کے جسم کا کوئی بال اُس کی آنکھ کی کوئی حرکت اس کی  
سانس کی آمد و شد اُسی مالک کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ لہذا ایسے انسان کا دل اپنے  
پیدا کرنے والے کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کے لائٹا انعامات کو دیکھ کر  
اس کے دل میں لازوال محبت قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کی روح عرفان سے اور  
اس کے ارادے ذوق اطاعت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان اب نہ سردارِ  
عالم کے لقب سے مغرور بن جاتا ہے، اور نہ خلیفۃ الارض ہو جانے سے تکبر کا  
شاہد اُس کے اُیلٹہ خیال تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بندہ، سراقندہ، عاجز  
درماندہ، مسکین، محتاج کہلانے کو دل سے پسند کرتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ اس حالت  
میں ترقی کرنا جاتا ہے۔ اسی قدر زیادہ اس کی ماتحت مخلوق اس کی سرداری پر نازاں  
و فرحاں ہوتی جاتی ہے۔ الغرض تو جید سے بندہ کا براہ راست تعلق رب العالمین  
سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور توجید ہی کی طفیل بندہ کی سیادت و قیادت کو نیکون مکان  
پر ممکن ہو جاتی ہے۔

جملہ مذاہب کے علما انہیں پلٹھیں۔ غور کریں۔ کہ وہ توحید کا آبِ دلال بلکہ  
ماء الحیات کہاں ملتا ہے۔

اگر پانی میں شمس و خاشاک ملا ہوا ہو، پانی گندلا ہو۔ پانی کا رنگ بدل گیا ہو  
پانی کے مزے میں فرق آگیا ہو۔ تو ایسا پانی کبھی کوئی ایسا شخص جسے اپنی صحت کی  
قدر و قیمت معلوم ہے۔ ہرگز استعمال نہ کرے گا۔ اسلام سے باہر جہاں توحید ملتی

ہے۔ اس کی حالت بھی ایسے ہی پانی جیسی ہے  
رحمت، محبت، و داد:

ہاں اسلام رب العالمین کا عرفان، عقور الودود ہونے کی نشان میں عطا فرمانا  
ہے، وہ عزیز المقتدر بھی ہے اور اس قدرت و عزت اور حکومت اور سیاست کے ہوتے  
ہوئے کَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (انعام ۱۲) اُس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے  
کی بجلی میں جلوہ گرہ بھی ہے۔ مغفرت، بخشش، معافی، درگزر، انعام، اکرام، بود و عطا کے  
ساتھ وہ لحظہ بلحظہ نور افکن ہے۔

محبت کی اعلیٰ قسم "و داد" ہے۔ اور اسی و داد کی فراوانی و کثرت ساعت بہ ساعت  
ہر مخلوق کی تربیت فرما رہی ہے۔ اور اس کی حوصلہ اور فطرت کے موافق اُسے درجہ  
ارتقا پر لیے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عہل و انصاف کے خیالی جھگڑے سے بلند تر  
ہے۔ وہ گنہگاروں کو بخشنے کے لیے کسی بے گناہ کو جہنم اور عذاب میں مبتلا نہیں کرتا  
وہ اظہارِ رحم کے بہانہ سے اپنی برگزیدہ پاک مخلوق سے بیرحمی روا نہیں رکھتا۔  
اللہ تعالیٰ کو اس ضرورت نے کبھی مجبور نہیں کیا۔ کہ وہ کہشایا مسیح کی صورت  
بشری اختیار کرے اور پھر نجات عام کے لیے کوئی حیلہ نکال سکے۔

اسلام اور حماقت علم:

ہاں اسلام علم کا حامی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کی جو توصیف  
فرمائی ہے۔ وہ بھی یہ ہے اَشْرَكَ بِعِلْمِهِ (نساء ۳۳) اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔  
اسلام علم کا اتنا نشہ و گرسنہ ہے۔ کہ وہ غیروں سے بھی علم صحیح لینے کے  
لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا (انعام ۸۷) کیا تمہارے پاس



کوئی علم بھی ہے۔ تو ہمارے لیے اسے ظاہر کرو۔  
مسلمانوں نے اس آیت محکمہ کی تحت میں علوم و معارف کے جمع کرنے  
میں جو شغف دکھلایا، اور اہل علم کا عام اس سے کہ ان کا مذہب و ملت کیا تھا جو احترام  
کیا وہ دنیا بھر میں فقید المثال ہے۔

امریکن فاضل مسٹر ڈریور لکھتا ہے: مسلمان شائقین نے خلفائے اسلام کے  
عہد میں صرف اتنی ہی بات پر اکتفا نہیں کی، کہ عیسائی اور یہودی علماء کا احترام کیا  
کریں، بلکہ وہ تو ایسے اہل علم پر کامل اعتماد کیا کرتے، اور سلطنت کے بڑے بڑے  
عہد سے ان کو دیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے یوحنا بن ماسویہ یہودی کو جملہ بلاد  
کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا تھا۔ تختشبوع اور جبرئیل اور یوحنا بطریق اسپیل بن سالیور، اور ساپو  
بن سہل، سلمویہ بن بنان، خنین بن اسحاق العبادی، متی بن یونس المنطقی، روفائیل  
دا بن یامین وغیرہ ایسے فلاسفر ہیں، جنہوں نے خلافت بغداد میں کی تحت میں اہل  
فضل و علم، و اہل کمال پر تاجداری کی ہے۔ کروڑوں جمع کیے اور لاکھوں کی جاگیریں  
روام کے لیے حاصل کیں۔

کیا یورپ کوئی ایک مثال بتلا سکتا ہے۔ کہ اس نے غرناطہ و سپین کے  
مسلمین اساتذہ کو اپنے وطن پہنچ کر کبھی ایک دستار بھی روانہ کی ہو۔  
ہندو بھی کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ انہوں نے شہاب الدین غوری  
کے دور سے پیشتر کسی مسلمان عالم کو دربار میں جگہ دی ہو۔ مگر ہارون و مامون و معتصم  
کے درباروں میں ہندو پنڈتوں کے نام برابر مل جاتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کا علم کا حافی، اور اہل علم کا مرتبی رہا ہے۔ آج

یورپ میں فلاسفوں، اور سکالروں کی جو قدر و عزت پائی جاتی ہے۔ یہ وہ سبتی ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا تھا۔ ورنہ عیسائیت کی طبیعت علم و اہل علم کی دشمن رہی ہے۔

یورپ اور اس کے ماتحت افسروں کی تنگ نظری:

یورپ اور اس کے ماتحت افسروں کا صدیوں تک یہی دعویٰ رہا ہے، کہ بائبل ہی مخزن علوم ہے، اور بائبل کے بعد ان کو کسی علمی اکتساب کی اور علمی اکتشاف کی ضرورت نہیں۔

یورپ صاحب کو کہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہود لوگ فلسفہ ابن رشد کی تعلیم بلاد اسلام میں پکڑے ہیں اپنے وطن میں واپس آتے ہیں۔ تو فوراً ایک فرمان ۱۰۳۰ء مارچ ۱۴۹۲ء کو صادر ہوا کہ تمام یہودیوں کو تین ماہ کے اندر اندر ہسپانیہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنی جائداد کو فروخت کر سکتے ہیں۔ مگر تبادلہ میں سونا یا چاندی کا سکہ نہیں لے سکتے۔ جو جائداد تین ماہ کے اندر فروخت نہ ہوگی، وہ عیسائیوں کا مال سمجھا جائے گا۔

اخراج مسلمین:

فروری ۱۵۰۲ء میں ایک فرمان اٹھایا اور ماحول کے مسلمانوں کے خلاف جاری ہوا۔ ان کو بھی یہود کی شرائط کے ساتھ نکل جانے کا حکم تھا۔ اور مستزاد یہ کہ وہ کسی راستے پر سفر نہیں کر سکتے، جو اسلامی ملک تک پہنچا دینے والا ہو۔

اب عیسائیوں کی خود عیسائی عالموں کے ساتھ مدارت کا حال سن لیجئے۔

## عیسائیت کا اپنے قاضیوں سے سلوک:

(۱) پروفیسر برنڈو کو ایک لمبی قید کے بعد اس لیے ۱۹۴۰ء میں جلا دیا گیا۔ کہ وہ

صوفیہ کے مسئلہ وحدۃ الوجود کا قائل ہو گیا تھا۔

(۲) کولمبس کا سخت خلاف کیا گیا۔ جب کہ اُس نے بحر اطلانتک میں کسی بڑے علم

کی تلاش کے لیے سفر کا ارادہ کیا۔ اگر حکومت اس کا ساتھ نہ دیتی، تو وہ بھی پھانسی

پر لٹکایا گیا ہوتا۔ کولمبس کو اقرار ہے۔ کہ اُسے یہ خیال ابن رشد کی کتابوں کے

مطالعہ سے پیدا ہوا تھا۔

(۳) چیچک کا ٹیکہ مسلمانوں میں صدیوں سے جاری تھا۔ مسماۃ ماری مونٹا

جو اس ٹیکہ کو ۱۷۷۱ء میں یورپ لے گئی۔ پادری قوم چلا اٹھی اور انہوں نے ایک

متفقہ عرضداشت بادشاہ انگلستان کی خدمت میں پیش کی، کہ اس بدعت کا

انسداد کیا جائے۔

(۴) امریکہ میں بچہ چننے والی عورت کو مخدّر کرنے کا طریقہ ایجاد ہوا۔ تو علماء

عیسائیت نے فوراً اُسے کتاب پیدائش۔ باب ثالث کے حکم خلاف سمجھا جس

میں بتایا گیا ہے۔ کہ عورت دکھ کے ساتھ بچہ بنا کرے گی، اور اس اکتشاف کے

خلاف سخت جدوجہد کی گئی۔

(۵) اسی طرح کے بلیسیوں واقعات ہیں۔ کوئی پروفیسر زین کی کر ویت تسلیم

کر لینے پر، کوئی ہیئت دان قوس قزح کو پانی میں سے آفتاب کی شعاعوں کا اثر و عکس

بتلانے پر زندہ جلا دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا۔ مگر انہیں مسائل کی جب اشاعت مسلمانوں

میں ہوئی (اور یورپ سے بہت پہلے ہوئی)، تو کسی کے ناک سے نکسیر بھی نہ پھوٹی،

اسلام کا اس قدر علم دوست ہونا ہی اسے دنیا کا تبلیغی مذہب بنانے کے لیے کافی ہے۔  
اسلام اور برہان :

اسلام دلیل و برہان کی برتری کا قائل ہے۔ اور ہر ایک مسئلہ کے لیے خود بھی برہان پیش کرتا ہے اور اپنے مخاطب سے بھی یہی خواہاں ہے۔ کہ وہ بھی اپنے مسلمات کو برہان سے ثابت کرے، قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (نور) کہہ دیجئے۔ کہ تم اپنی برہان پیش کرو۔ اگر تم سچے ہو، آیت مذکورہ پر گہرا غور کرو کہ صداقت و برہان میں کیسی قربت قرار دینا قائم فرمادی گئی ہے۔

اسلام اور اخوت :

ہاں اسلام اخوت کا بانی ہے۔ انگلستان کو اپنی مجلس معبر و ریلڈ پر ناز ہے۔ یہ ناز شاید یورپ کے سامنے بجا بھی ہے۔ مگر اسلام کے سامنے اس کی وقعت کیا ہے۔ جو صدیوں پیشتر یہ حکم سنا چکا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (حجرات) مومنین بالیقین بھائی بھائی ہیں۔

آخ بھائی کو کہتے ہیں۔ اور اس کی جمع اخوان بھی آتی ہے۔ اور اخوة بھی۔ لغت عرب کے ماہرین واقف ہیں۔ کہ اخوان محبت کے بھائیوں۔ اور اخوة خون کے بھائیوں کو کہا جاتا ہے۔ وَجَاءَ اِخْوَةَ يُوْسُفَ فَاذْخَلُوْا عَلَيْهِ (یوسف) یوسف کے بھائی جو ایک باپ سے تھے۔ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے۔

آیت پر غور کرو۔ کہ اس اخوة رُوحی اور قرآنی قلبی کا سبب ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ کیا کسی شور و گویا کسی چٹال کو بھی کسی برہمن نے دھرم کا بھائی کہنے کی جرأت کی ہے؟

جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبد اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے (غالیاً انہی سے) فرمایا گیا کہ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تیری ماں بنے، اور میں تیرا باپ بنوں؟ اللہ اکبر کیسافرحت بخش فقرہ تھا۔ تمام عمر ان کا یہ حال رہا۔ کہ جب یہ فقرہ باو آجاتا۔ تو خوشی کے مارے چہرہ اور غوائی ہو جاتا۔

### اسلام اور مساوات:

اسلام مساوات کا حامی ہے۔ عمر فاروق جیسا تلمیذہ سر منبر کہا کرتا اَخْتَقَّ سَيِّدَنَا اَبُو بَكْرٍ سَيِّدَنَا بَلَالٍ۔ آقا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آقا بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق تو یقیناً عمر رضی اللہ عنہ کے آقا تھے۔ فاروق رضی اللہ عنہ نے صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کی تھی۔ مگر بلال رضی اللہ عنہ کیوں نہ آقا بنے۔ اس کو اسلام کی حرمت کے سوا اور کوئی حل نہیں کر سکتا۔

جنگ بدر میں سوار یوں کی قلت تھی۔ ایک ایک اونٹ تین تین کس کے حصہ میں آیا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی مرتضیٰ و ابوذر غفاری رضی اللہ عنہما کے حصہ میں ایک اونٹ آیا تھا۔ دو سوار ہو جاتے اور ایک پیدل چلتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نوبت پر پیادہ پا چلتے۔ اور ان دونوں فدائیوں کو حکماً اونٹ پر سوار ہونا پڑتا۔ کیا ایسی مساوات کی کوئی مثال کسی دوسری جگہ بھی ہے۔

### اسلام پر اعتراضات:

اسلام کی ان سب خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یا ان سب کا علم رکھتے ہوئے

بھی بہت لوگ ہیں۔ جو اسلام پر اعتراضات کرنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔

### اسلام اور تعدد زوجات :

اس زمانہ میں عیسائی، ہندو، پارسی، بالاتفاق اسلام کے مسئلہ تعدد زوجات پر زبان کشتائی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی پارسی اپنی مذہبی کتاب سے تعدد زوجات کے خلاف کوئی حکم نکال کر تو دکھائے۔

### بائبل اور تعدد زوجات

آج یورپ میں ایک بیوی کا رواج پایا جاتا ہے۔ مگر اس کی بنیاد تو وہ قانون ہے جو سو سو برس صدی میں بنایا گیا۔ نہ کہ مذہب عیسائیوں میں تو ایسے فرقے امریکہ میں اب تک موجود ہیں۔ جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ حقیقتاً ہی کی کتاب سے استدلال کرتے ہیں۔ جہاں خدا نے اپنی دو جوڑوں کا حال بیان کیا ہے۔ نیز متی کی انجیل سے دلیل پکڑتے ہیں۔ جہاں مسیح نے ایک دولہا کے انتظار میں دس کتواریوں کا شب بیداری کرنا، پانچ کا سو جانا، پانچ کا دولہا کے ساتھ نکاح کے مکہ میں داخل ہونا بیان کیا ہے۔

انیسویں صدی کے نصف آخری کا واقعہ ہے۔ کہ امپریز جرمنی ولیم فسٹ کی ۳۱ جوڑوں کو حقیقتیں۔

### ہندو دھرم اور تعدد زوجات :

سری رام چندر کی اہمات تلتہ، راجہ پانڈو کی دو مہارائیاں۔ سری کرشن جی کی آٹھ مہارائیاں (کرشن چتر مصنفہ لالہ لاجپت رائے) سب کو معلوم ہیں۔  
منوسمرتی میں ہے۔ ایک مرد کی بہت سی عورتوں میں سے اگر ایک بیٹے

والی ہو۔ تو منوجی نے ان سب کو بیٹھے والی کہا ہے۔ ادھیاء ۹ فقرہ ۱۸۳۔ منو سمرتی  
ادھیاء ۹ کے فقرات (۸۰) و (۸۱) و (۸۲) میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے  
کا ذکر ہے۔

راجا اور عورتیں:

عمرہ۔ منتخب۔ ہارسنگار و الیاں، چپ چاپ رہنے و الیاں، پنکھا کرنے  
والیاں، پانی دینے و الیاں، خوشبو لگانے و الیاں، عورتیں راجا کی خدمت کریں  
منو سمرتی ادھیاء ۵ فقرہ ۲۱۹۔ کھانا کھا کر راجہ کچھ دیر محل میں عورتوں کے ساتھ چہل  
قدمی کرے۔ ادھیاء ۷ فقرہ ۲۲۱۔ محل میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا کھانے کو  
جاوے ادھیاء ۷ فقرہ ۲۲۲۔

یہود اور تعدد زوجات

یہود اپنے تسلیم کردہ انبیاء علیہم السلام، سیدنا ابراہیم و یعقوب و داؤد  
و سلیمان علیہم السلام کے حالات پڑھیں۔ آخری حوالہ کے ساتھ ایک ہزار بیویوں  
کا ہونا معلوم ہو جائے گا۔

مصریوں۔ بابلیوں۔ پارسیوں میں بھی تعدد زوجات کے نمونے پائے  
جاتے ہیں۔

الغرض دنیا میں کسی قوم، کسی مذہب کے پاک نوشتہ نے تعدد زوجات  
کے خلاف ذرا بھی اشارہ نہیں کیا۔

اسلام کا حکم و جہد:

البتہ قرآن مجید ہے۔ جو دو تین، چار تک کا ذکر فرما کر ارشاد کرتا ہے۔

فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً - (نساء ۱۴)۔ یعنی اگر بیوریوں کے درمیان عدل نہ کر سکتے کا اندیشہ بھی ہو۔ تب صرف ایک بیوری کرو۔

ہر ایک شخص آگے بڑھے۔ اور ”تب صرف ایک بیوری“ کے الفاظ اپنی کتاب پاک سے نکال کر دکھائے۔

### اسلام اور غلامی :

غلامی کا وجود تو اسلام سے بھی ہزاروں سال پیشتر ہندوستان، چین، مصر، فلسطین، یورپ کی تواریخ سے ثابت ہے۔ میں پوچھتا ہوں۔ کہ ہم پر اعتراض کرنے والوں میں سے کسی کے مذہب نے بھی اس مسئلہ کی اصلاح یا اس کی مخالفت میں زبان کھولی ہے۔؟

مقدس پولوس تو یوں فرماتے ہیں۔ ”اے غلاموں! تم اپنے آقاؤں سے ایسے ہی تھر تھراتے رہو۔ جیسے خدا سے۔“

منوچی مہاراج فرماتے ہیں: ”کہ شوروں کے نام واس پر رکھے جاویں ادھیام ۲۔ فقرہ ۳۶۔ رشی دیانند جی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔“

غور کیجئے کہ غلامی یہ ہے۔ کہ ہزاروں سینکڑوں سالوں میں لاکھوں پشتوں گذر جائیں۔ مگر غلامی کا خاتمہ نہ ہو سکے۔

مسلمانوں کی غلامی کو سمجھنا ہو۔ تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش پاک میں ڈوب چکے ہیں۔ ایک سنن علیہ السلام جو حضور کے نواسہ ہیں۔ دوسرے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جن کو دنیا نے ضریر غلام ابن غلام سمجھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں: ”اے رب میں ان دونوں سے محبت کرتا



ہوں۔ اور جو کوئی ان سے محبت کرے۔ تو بھی ان سے محبت کرے۔

سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو خاریفہ کے غلام تھے۔ مگر راہ ہجرت میں گروہ ہماجرین کے

وہ پیش نماز تھے۔

زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن زید تھے۔ مگر سر زید بن زید میں جنت طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے سے بھائی النبی کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔

صہیب رومی رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ اور فاروق اعظم نے اپنی مرض الموت میں

انہی کو مسجد نبوی کا امام بنا کر انتخاب فرمایا تھا۔

عکرمہ وقتادہ رضی اللہ عنہما غلام ہیں۔ اور کتب تفسیر میں ہی سید المفسرین کے

لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کنیز کا زادہ تھے۔ لیکن آج صوفیاء کے پیارے خاندان

چودہ خاندانوں کے مسلمہ امام ہی ہیں۔

نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے

ہیں۔ کہ آسمان کے تلے روایت حدیث کا جو سلسلہ سب سے زیادہ صحیح ہو وہ ہے

وہ مالک بن نافع۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا سلسلہ ہے۔

امامت دینی کے بیدار بیا سیادت دنیوی کے لظا اثر پر غور کرو۔

عمود سیگنگین غلام بن غلام تھا۔ لیکن شاہان خوارزم و بخارا اور ترکستان اس

کی اطاعت پر مقتدر تھے۔ امیر المؤمنین اس سے عین الدولہ کے لقب سے یاد کرتے تھے

ذوالیمینین طاہر غلام تھے۔ لیکن ماموں رشید کے نسا کر کا فائدہ اعظم وہی

تھا۔ شہر قابرہ اور وہاں کی مشہور عالم یونیورسٹی کا بانی جو ہر غلام تھا۔ جبرالٹر اور

مادرائے جبرالٹر کا کاغذ اسلامی طارق ہے۔ جو غلام تھا۔ اسی کے نام پر اس پہاڑ کو جبل الطارق کہا گیا جسے آج مغربی زبان کے تصرفات نے جبرالٹر بنا دیا ہے۔ ہندوستان کا پہلا اسلامی بادشاہ ایک تھا۔ جو غیاث الدین غوری کا غلام تھا۔ الشمس اور بلبلن بھی غلام تھے۔

مصر میں بھی خاندانِ غلامان کی حکومت بہت لمبی رہی ہے۔ جیسا کہ تاریخ ہندوستان میں بھی سلطنتِ غلامان کا علیحدہ ہی باب دکھلایا جاتا ہے ان حوالجات سے یہ ثابت ہو گیا۔ کہ جب کوئی شخص مسلمانوں کا غلام بنا۔ تو اسلام نے اس کے لیے بادشاہت اور امامت کے دروازے کھول دیے۔ یہ خود اس کی قابلیت ہے۔ کہ کتنی ترقی کرے اور کس طرف ترقی کرے۔

بہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کہ لفظ غلام، لفظ داس کا ترجمہ نہیں۔ داس کا ترجمہ تو عید ہے۔ جو اسلام میں حرام کر دیا گیا۔ کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا عید نہ بنے۔

غلام کا ترجمہ تو جوان ہے۔ اور یہ وہ پیارا محبت اور بہترین آرزوؤں کے مجموعہ کا لفظ ہے۔ کہ عرب والدین اپنی اولاد کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ اگر دنیا کی کسی قوم، کسی مذہب نے ان مصیبت زدگان کی حالت درست کرنے کے لیے اسلام کے برابر مساعی کی ہوں۔ تو ان کا اظہار ہونا چاہیے۔

لیکن اسلام ان ترقیات پر بھی اُن کی حالت سے غافل نہیں ہو جاتا۔ بلکہ فکرتِ رقبہ، عتاق، کتابت کے مزید حقوق غلاموں کو عطا کرتا ہے۔

آزادی غلام کے معنی یہ نہیں کہ قیدی کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اور اس کے

بعد سپر ٹنڈٹ جیل کو ایک منٹا کے لیے یہ خیال نہ آئے گا۔ کہ اس رہائی یافتہ کی آئندہ زندگی کا کیا سامان ہوگا۔ لیکن اسلام تو اس آزاد کنندہ اور آزاد شدہ کے درمیان رشتہ و لاد و لا قائم کرتا ہے۔ اور اس رشتہ کا اثر یہاں تک محکم ہوتا ہے کہ آزاد شدہ، آزاد کنندہ کا وارث ہو سکتا ہے۔ اور آزاد کنندہ، آزاد شدہ کا وارث بن سکتا ہے۔ اور یہ وہ حقوق ہیں۔ جو خون کا رشتہ پائے جانے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کے منصب کو بلند کرنے میں جو مثال قائم فرمائی۔ وہ عبدیم المثال ہے۔ یعنی اپنی حقیقی چھو بھٹی کی بیٹی کا نکاح ایسے مرد صالح سے کر دیا۔ جو سب کے سامنے چار سو درہم میں خریدا گیا تھا۔

اس مبحث کے خاتمہ پر منوجی ہمارا ج کا حکم یاد رکھنا چاہیے: ”برہمن شورو کا مال بھین لے۔ کیونکہ شورو کا کچھ بھی نہیں۔ شورو کا مال ہر حالت میں برہمن کے لیے حلال ہے۔“ (ادھیامہ، فقرہ ۴۱۷)

میں کہتا ہوں، کہ یہ اسلام ہی ہے۔ جس نے غلامان (اسیران جنگ) یا زر خریدگان یا اولاد زر خریدگان یا ہمہ میں آئے ہوئے غلاموں کو انسانیت اور تمدن اور حقوق میں آزاد ترین انسانوں کے برابر بنا دیا۔ اور اس لیے اسلام ہی دنیا کا تبلیغی مذہب ہے۔

یہ یاد رکھیے۔ کہ اسلام نے کسی جرم کی سزا میں کسی آزاد کو غلام بنانے کا مستوجب قرار نہیں دیا۔ جس کو منوجی ہمارا ج نے ادھیامہ، فقرہ ۴۱۵ میں نیز دیگر مقامات پر تجویز فرمایا ہے۔

## اسلام اور پردہ نسواں :

کہا جاتا ہے۔ کہ اسلام میں اس لیے تبلیغی مذہب ہو سنے کی صلاحیت نہیں۔ کہ اس میں عورتوں کو قید رکھنے اور گھر کی چار دیواری کو جیل کی چار دیواری بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔

میں باور کرتا ہوں۔ کہ اعتراض بہت کچھ ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اول تو یہ سمجھنا چاہیے۔ کہ پردہ عورت ذات کا فطری خاصہ ہے۔ جن ممالک میں عورتوں کو مردوں کے برابر آزاد سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کی عورتوں کی ملاقات اور ان کے گھر میں آنے جانے کے آداب زیادہ خاص ہیں

دوم۔ ہندوستانوں کو ہندوستان کے واحد متقن مذہب منوجی مہاراج کی سنا چاہیے۔

(۱) عورت کھلی رکھنے کے قابل نہیں۔ اوجیا ۹ فقرہ ۳۔

(۲) عورتوں کو ذرا ذرا سی برسی صہتوں سے بچانا چاہیے۔ غیر محفوظ عورتوں کی طرف کے خاندان کو بدنام کرتی ہے۔ اوجیا نمبر ۹ فقرہ ۵۔

(۳) عورت نہ شکل کو دیکھتی ہے نہ عمر کو۔ مرد خواہ خوب صورت ہو یا بد صورت یہ اسی سے پھنس جاتی ہے۔ ۹-۱۲ منو سمرتی۔

فقرات بالا سے بخوبی ظاہر ہو گیا۔ کہ عورت کے پردہ کا ذکر منوجی نے بھی کیا اور ضروریات پردہ کی وجوہ اور دلائل بھی بتلائے جسے زمانہ حال کا فلاسفر کہہ دے گا۔ کہ یہ توصیف طور پر عورتوں کی خود داری اور اعتماد پر حملہ ہے۔

اب اسلام کا حکم معلوم کرو۔ اور اس کی وجہ بھی، احکام اسلامیہ میں خصوصیت

پائی جاتی ہے۔ کہ ہر ایک حکم کی غلطی و غایت بھی بیان کر دی ہے۔ ذرا ذیل کی مثالوں پر غور کرو۔

نماز کا حکم دیا تو اس کی وجہ بھی بتلا دی، اَفِيهِ الْقَلْبُ لِيَذْكُرِي (ظن) میری یاد کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ روزہ کا حکم دیا۔ تو اس کا ثمرہ بھی بتلایا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ) روزے رکھو۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو اس کی غایت بھی بتلا دی۔ لِيَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شُكْرًا (مائدہ) شکر کرو گے۔ تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا۔ حج کا حکم دیا تو اس کے فوائد بھی بتلائے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (حج ۶۱) تاکہ اس اجتماع سے قومی۔ ملی۔ طبعی۔ مادی۔ روحانی فائدوں کا مشاہدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو جب ستر اور پردہ کا حکم دیا۔ تو اس کی وجہ بھی بتلا دی: فَلَا يُؤْذِينَ اَنْ كُوْنِي اَنْ سِيَّ جِيْظِرَةٌ كَرِيْمَةٌ (نور ۳۱) ایک منصف معلوم کر سکتا ہے۔ کہ اسلامی پردہ کا حکم تو عورتوں کے احترام کے لیے ہے۔ اور منوجی ہمارا حج کا حکم دیکھو۔ وہ بالکل دوسرا رخ ظاہر کرتا ہے اسلامی حکم سے تو گرد و پیش کی برسی سوسائٹی کے بُرے عیروں کی برائی کا پتہ لگتا ہے۔ اور سہرتی میں برائی کو عورت کی ذات میں بتایا گیا ہے۔

اگر ہر مذہب کا شخص قرآن پاک کے اس حکم کا پابند ہو جائے۔ کہ ہمیشہ نیچی نگاہ رکھتے ہوئے چلا کریں اگر سب مرد سیدنا مسیح علیہ السلام اور سیدنا و مولانا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے اس متفقہ ارشاد کو پیش نظر رکھیں کہ بیگانی عورت کو دیکھنا آنکھ کا ناس ہے۔ اور برسی عوامش کا دل میں آنا دل کا زنا

ہے۔ تو بے شک شریف خوانین کو فلائیو ڈین کے اندیشہ سے رہائی مل سکتی ہے۔  
 اب میں معترض سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے گرو و پیش کی آبادی دل کی پاکیزگی  
 اور اخلاق کی طہارت میں مندرجہ بالا درجہ حاصل کر چکی ہے۔

اگر ہمارے دوست کی زبان اعتراضات صحیح کے لیے نہ کھل سکے۔ تو ان کو اسلام  
 پر اعتراض کرنے سے پیشتر خود ایسی سوسائٹی پر اعتراض وارد کر لینا چاہیے۔  
 یہ مجھے مناسب نہیں کہ اس مقام پر یورپ اور ایشیا کے حسن و عشق کے  
 قصوں اور سرگذشتوں کا ذکر کروں۔ بہر حال مسئلہ کا حل خود انہی معترضین کے ایمان و  
 تقویٰ اور ضمیر و راستبازی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

ہاں نہایت وثوق سے یہ فقرہ لکھنے کی جرأت کی جاتی ہے۔ کہ اسلام کا صنف  
 لطیف کے حفظ و احترام میں ایسا حکم جاری فرمانا بھی اس کے عام تبلیغی مذہب ہونے  
 کی دلیل ہے۔

### اسلام اور جنگ:

کہا جاتا ہے کہ اسلام جنگجو مذہب ہے۔ اور اس لیے وہ دنیا کا تبلیغی مذہب  
 نہیں ہو سکتا۔

میں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ کہنے والے کے سامنے کون سے واقعات تھے۔ جن  
 کی بنیاد پر اس نے اسلام کو جنگجو کہنے کی جرأت کی۔

کیا ہمارا ابا نجر و دست ان من ظالم کو بھول گیا۔ جو نبوت کے ۲۳ سال میں سے  
 ۱۵ سالوں میں عرب کے یہودی۔ عیسائی۔ بت پرست اور دہریہ وغیرہ نے جماعت  
 واحد کی شکل میں متحدہ ہو کر لگاتار مسلسل جاری رکھے۔ نقصان مال۔ نقصان عزت

نقصان جان، نقصان ثمرات، نقصان اولاد، کونسی شوق ظلم کی ہے۔ جسے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔

کیا ہمارا بھروسہ ایسی مظلوم قوم، رازدہ از وطن، مخرج از دیار کے حال پر ذرا سارحم بھی اپنے دل میں نہیں پاتا۔

کیا وہ مصلحین کے لیے صرف یہی ایک تجویز جانتا ہے۔ کہ بھیڑ بکری کی طرح چپ چاپ کند کار دے تھے اپنا سر رکھ دیا کریں۔

ہاں ان سے ایشیا کے ایسے نمونوں کی توقع رکھنا بھی غلط نہیں۔ اعدا اس کا ثبوت بھی ۵ سال تک برابر دیا گیا۔ لیکن تبلیغ کا دنیا پر سے ناپید ہو جانا قطعاً ناقابل برداشت ہے۔

اسلام کی صلح پسندی اس حکم سے ظاہر ہے: اَدْخَاوَانِی السَّلَامَ كَأَقْدَانِی (بقرہ)  
اسے لوگوں کو صلح کی کو اپنا مسدک بناؤ۔

اسلام کی نگاہ میں ایک ایک انسان کی جو قدر و قیمت ہے۔ وہ آیات ذیل سے واضح ہو جاتی ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا آخَى النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخَى النَّاسَ جَمِيعًا (ما شدہ ۵۶) اگر کوئی شخص کسی شخص کو قصاص یا جرم بلوہ کے خلاف قتل کرتا ہے۔ تو وہ ساری دنیا کا قاتل ہے۔ اور جو کوئی شخص ایک جان کو بھی بچا لیتا ہے وہ سب کے سب کا بچانے والا ہوتا ہے۔ سعدی شیرازی نے تعلیم اسلام کو اس شعر میں بیان فرمایا ہے۔

بمردی کہ ملک سرسبز زمین

نیرزو کہ غوسے چکدہ بر زمین

اگر ہمارے دوست کا اشارہ اُن غزوات اور سرایا کی جانب ہے جو ہند  
نہوئی میں ہوئے تو میں اعتراض کرتا ہوں کہ ۲۰۰۰ ہجری سے ۹۰۰ ہجری تک  
بے شک مسلمانوں کو اپنے اعلا سے اُلجھنے کی ضرورت ہوئی۔ میں نے ان  
غزوات اور سرایا کی تعداد قائم کرنے میں ارغائے خناں سے کام لیا ہے۔ اور  
کوئی ایسا سر یہ بھی جس میں شخص واحد کا بھی قتل ہو اور مقتول خواہ مسلم تھا یا غیر مسلم  
یا وہ تعاقب بھی ہو ڈکیتی پیشہ لوگوں کا کیا گیا۔ اس تعداد سے باہر نہیں رکھا، ان  
کی مجموعی تعداد (۸۱) ہوئی۔ اب اتلاف نفوس کا شمار کیا گیا۔ جو جانبین سے ہوا  
ان کا شمار (۱۰۱۸) نکلا یعنی فی جنگ (۱۲) جانبین کے مقتول تھے۔

دیگر مذاہب کے مقتول :

(۱) اب کیا میں مشرک سے اگر وہ ہندو ہیں۔ کور و پانڈوں کی ۸۰ دن کی  
لڑائی کے مقتولوں کی تعداد دریافت کر سکتا ہوں۔

(۲) کیا میں معترض سے اگر وہ بلاییل کا ماننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ اور  
یوشع ابن نون کے مقتولوں کی تعداد دریافت کر سکتا ہوں۔

(۳) کیا میں معترض سے اگر وہ مسیحیت سلیمہ کا پیرو ہے، رومن کیتھولک کے  
ہاتھوں سے پراسٹنٹوں کے شہیدوں کی اور پراسٹنٹوں کے ہاتھوں سے  
رومن کیتھولک کے کشتوں کی تعداد معلوم کر سکتا ہوں۔ کیا اکیسے سپین کا محکمہ حفظ  
بدعات مقتولانِ سرایا سے دو سو گنا زیادہ افراد کو زندہ نہیں جلا چکا تھا۔



(۴) کیا میں معترض سے اگر وہ چینی مذہب ہو۔ تو ہندوؤں کے کشنگانِ ظلم کی تعداد کا سوال کر سکتا ہوں۔

(۵) کیا میں معترض سے اگر وہ آریں نسل سے ہے۔ قدیم ہندوؤں اور ہندوستان کے اصلی باشندوں کے قبیلوں کا کوئی اندازہ پوچھ سکتا ہوں۔

(۶) اسی طرح فرانس اور امریکہ میں جمہوریت قائم کرنے والوں سے اطلاقِ نفوس کا شمار، اور۔

(۷) اسی طرح اب زمانہ حال میں اہل چین سے ہلاکتِ نوع انسانی کی تعداد معلوم کی جاسکتی ہے۔؟

اگر ان تمام بربادیوں اور تباہیوں کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر (۱۰۱۸) کی تعداد کس حساب میں رہ جاتی ہے۔ جبکہ اس مختصر قربانی کے بعد فرانس سے سرچند بڑے رقبہ کو بجائے وحشی کے متمدن اور بجائے لامذہب کے تمدن بنا دیا گیا ہو۔ جب کہ ایسے ملکوں میں جن کے اندر قدم رکھنے کی سخت نصہ اور سکندر جیسے فاتحین نے بھی جرأت نہ کی ہو۔ اور جہاں کبھی کسی مذہب اور کسی آئین کی حکومت قائم نہ ہوئی ہو۔ وہ امن بسید اور ایسی مصلحت عامہ قائم ہو گئی ہو۔ جس کے برابر آج تک کسی ملک میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔

میں بزور کہوں گا کہ مظلوم ہو کر لڑنا، مجبور ہو کر لڑنا، عدل اور رحم کی حمایت کرتے ہوئے لڑنا اسی اسلام کا کام ہے۔ جو دنیا کا تبلیغی مذہب ہے۔ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلمان اور صلاحیت حکمرانی :

مسلمانوں نے سیام، و آسام، برہما۔ ہندوستان، چین و تاتار، ترکستان

خراسان - ایران - منگولیا - ماوراء النہر - سائبیریا اور روس - ہنگری ، اسٹریا ، ہسپانیہ  
یونان ، انگلیزیا ، ایشیا کے کوچک ، عرب - مصر ، سوڈان ، افریقہ میں صدیوں  
تک سلطنت کی ہے۔ اور عملاً دکھلادیا ہے۔ کہ اس عالمگیر مذہب میں بحریہ  
اور خشک و تر پر حکومت کرنے کی کتنی قابلیت موجود ہے۔

فرانس و امریکہ کا نوآبادیوں کے قیام میں ناکام رہنا۔ جرمن کا نوآبادیوں  
کی حفاظت و حمایت میں ساقط ہو جانا۔ زار روس کا اپنے ملک میں ہر دلعزیزی  
حاصل نہ کر سکتا ہماری اس قابلیت کے مقابلہ میں قابل غور ہوگا۔

اسلام اور علماء و اولیاء :

اسلام کے سایہ میں جو لاکھوں علماء پلے۔ اسلامیوں میں جو ہزاروں اولیاء  
اللہ ظہور پذیر ہوئے مسلمانوں کی تصانیف ان کے کتب خانے ان کے اعلیٰ  
تمدن ، اسلام کے تبلیغی مذہب ہونے کی زبردست شہادتیں ہیں۔

کیا کوئی اور مذہب اس مجموعی شان و تجمل میں خود کو نمایاں کر سکتا ہے انوع  
بشر کی تاریخ میں تو ایسا مکمل نمونہ پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔

ایک التماس جملہ ادیان کی خدمت میں :

اب میں اپنے مضمون کو ختم کرنے والا ہوں۔ لیکن خاتمہ سے پیشتر دنیا کے  
جملہ ادیان و مذاہب سے ایک التماس بھی کرتا ہوں۔ کہ اگر ان کو اب بھی اسلام  
کے عالمگیر مذہب ہونے میں شک و ریب ہے۔ تو آؤ اس اختلاف کو ہمیشہ کے  
لیے ایک دوسرے طریق سے جو سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سب کے لیے  
مساوی ہے، طے کریں۔

دنیا کے جملہ متمدن ممالک اپنے بڑے بڑے عالموں اور مدبروں کو جمع  
 کریں۔ ہر ایک بڑا عظیم اور ہر ایک شاندار مذہب کا نمائندہ اس کانفرنس میں  
 موجود ہو۔ اور پھر وہ خالی الذہن ہو کر ایک ایسے مذہب کا جو جملہ اقوام عالم  
 کے لیے دین واحد بننے کی صلاحیت رکھتا ہو قانون اساسی مرتب کریں۔ اس  
 قانون اساسی میں مشہور مشہور مسائل۔

مسئلہ عرفان حمدانی۔

مسئلہ صفات ربانی۔

مسئلہ بقائے روح و ارتقائے روح۔

مسئلہ امتیاز خالق و مخلوق۔

مسئلہ سزا و جزائے اعمال۔

مسئلہ نجات اور وسائل نجات۔

مسئلہ دعا و قبولیت۔

مسئلہ وحی و نبوت۔

حقوق عمران۔

حقوق قوم۔

حکومت شخصی و جمہوری۔

رہبانیت و تامل۔

حقوق ازدواج۔

طلاق و وراثت۔

امارت و شورلی۔

وغیرہ وغیرہ مسائل کے عنوان قائم کرنے کے بعد ہر ایک عنوان کے تحت میں اصول کلیہ کا انتخاب فرمائیں۔ فہرست ہذا میں کمی بیشی کا انحصار بھی کانفرنس کی مقبولہ تجاویز پر رکھا جائے۔

میں اعلان کرتا ہوں۔ کہ جس وقت ایسی فاضل کانفرنس کے منظور کردہ اصول و قواعد شائع ہوں گے۔ ان سب کو ہاتھ کالم میں ایک طرف لکھ کر میں دوسرے کالم میں بالمقابل ایک ایک آیت قرآن مجید اور ایک ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر شائع کروں گا۔ اور دوسرے مذاہب کے علماء کو بھی لازم ہوگا کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں۔ اُس وقت دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام عالم کے دین واحد کے لیے صرف وہی اصول اصول بن سکتے ہیں۔ جو اسلام نے پہلے ہی سے قرار دے رکھے ہیں۔ اور ان مسائل کا حل اسی طریق سے ہو سکتا ہے۔ جس طریق سے اسلام نے فرمایا ہے۔

اس وقت میرا اور میرے سب دُنویوں بھائیوں کا یہ حق ہوگا۔ کہ جَاءَ الْحَقُّ  
وَذَهَبَ الْبَاطِلُ كَعَرَّةٍ لَّغَاءٍ۔ اور الْحَقُّ بَعْدُ وَلَا يُعْلَىٰ كِي صَدَائِهِ جَانِ نَحْسِ قَلْبِهِ  
مردہ تک پہنچائیں۔

تجویر مذکورہ قرآن مجید کے سکھلائی ہے :

معتزہ المسلمین! یہ تجویر جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہی تخیل کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ذیل سے مستنبط ہے۔


جملہ مذاہب عالم بھی اپنی کتابوں میں نظر غائر ڈالیں۔ کہ انہوں نے بھی ایسی

کوئی تدبیر بتلائی۔ اور جملہ اقوام و ادیان کو اتفاق و اتحاد کے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے  
 ہونے کی کہیں دعوت دے دی ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: قُلْ اِنِّيْ اَعْظَمُكُمْ بِوَاٰحِدَةٍ  
 اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَفَرَادٰی ثُمَّ يَتَفَكَّرُوْنَ وَاَمَّا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ (سبا، ۷)  
 ہیں تم سے ایک فتنی بات کہتا ہوں۔ کہ خدا راہل بل کر یا جُدا جُدا بیٹھ کر غور کرو کہ  
 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ کس شان کے ہیں۔ ان کی تعلیم کیا ہے۔ اور  
 ہدایت کیا؟


اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

کہ دل آرزو شوی ورنہ سخن بسیار است

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔



(القاضی) محمد سلیمان سلمان منصور پوری



# کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا یا گیا؟

یہ مضمون دراصل ایک لیکچر ہے۔ جو قاضی صاحب موصوف نے انجمن نعمانیہ لاہور کے سالانہ اجلاس ۱۹۹۹ء میں دیا تھا۔ بعد ازیں بعد اجاب کے اصرار پر اسے رسالہ کی صورت میں شائع کیا گیا۔ جس کے چار ایڈیشن یکے بعد دیگرے ختم ہو گئے۔ اب چونکہ یہ رسالہ ناپید تھا اس لیے ”رسائل عشرہ“ میں شائع کیا جا رہا ہے

مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ! رَحِمَكُمُ اللَّهُ۔

اسلام کے معتز ضمیمین اسلام کی بے نظیر و شان دار ترقیات کو جو الحق یقول و لا یقولی کا مصداق ہیں، دیکھ کر بسا اوقات کہا کرتے ہیں۔ کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا گیا ہے۔ اس فقرہ کے استعمال سے شاید یہ لوگ خیال کرتے ہوں گے۔ کہ اسلام کی صداقت پر کوئی دھبہ لگا سکیں گے۔ لیکن قبل ازیں کہ فقرہ مذکورہ کا کوئی اثر اسلام تک پہنچے۔ قائل کی نسبت ہر ایک واقف شخص امور مندرجہ ذیل کا فیصلہ کر سکے گا:

(۱) تاریخ اسلام سے ناگاہ ہے۔

(۲) جن اسباب سے قومی اقبال و ادبار و البتہ ہوتے ہیں۔ اور جن وجوہ پر ترقی و تنزل اقوام کا مقیاس الحرارة کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ ان سے بے خبر ہے۔

(۳) وہ نہیں جانتا کہ صداقت میں کیسی اعلیٰ طاقت ہے۔ اور اس کے پرزور ہاتھ وسعت پذیر ہی و کشور کشائی میں کیسے طاق ہیں۔

ہم ایسے شخص کو جو اسلام پر ایک اعتراض کرنے سے خود ہی اعتراضات چند در چند کا مور و اور محققین کا نشانہ ملامت بن گیا ہو۔ قابل نفرت نہیں۔ بلکہ ترحم خیال کرتے ہیں۔

واقعات اس کے اعتراض کی لغویت کو خود ثابت کر دیں گے۔ اس بارہ میں بعض منصف عیسائیوں نے بھی قلم فرسائی کی ہے اور اپنی سلیم الطبعی کا ثبوت دیا ہے۔

## با انصاف انگریزوں کی رائیں

گاڈ فرے بیکنس اپنی کتاب کے (فقروہ ۵-۱۵۲) میں تحریر کرتے ہیں۔ کہ جب پادری اور عیسائی بیان کرتے ہیں کہ محمد کے مسائل کی کامیابی صرف بوجہ شمشیر ہوئی ہے۔ تو ظاہر اودہ علمت کو بجائے معلول کے استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ تلوار چلانے کی علمت ہاتھ کی حرکت ہے۔ اور ہاتھ کی حرکت کا باعث دینی حرارت ہے۔ اور دینی حرارت کا موجب وہ پختہ اعتقاد ہے۔ جو آنحضرت صلعم کے مسائل کی صداقت پر ان لوگوں کا تھا۔

انسائیکلو پیڈیا برطانیہ کا ایک مضمون نگار لکھتا ہے۔ کہ تلوار تو ابتدا ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں تھی۔

مسٹر جان ڈیون پورٹ لکھتے ہیں:

یہ خیال کرنا کہ تعلیم قرآنی کی اشاعت صرف بجز شمشیر ہوئی تھی۔ سخت

غلطی ہے۔ جن لوگوں کی طبیعتیں تعصب سے مترا ہیں۔ وہ بلا تامل تسلیم

کریں گے۔ کہ دین محمدی مشرقی دنیا کے لیے ایک حقیقی برکت تھا۔



اور اس وجہ سے خاص کر اس کو اُن خونریز تدبیروں کی حاجت نہ پڑی ہوگی۔ جن کا استعمال بلا استثنا و بلا امتیاز کے حضرت موسیٰؑ نے بت پرستی کے نیست و نابود کرنے کے لیے کیا تھا۔

فقرات بالا سے بخوبی واضح ہے۔ کہ جب کسی غیر قوم کے منصف شخص نے اپنی معلومات کو صرف تاریخ سے بڑھایا ہے۔ اور اُس میں عصیت اور بچپن کے سنے سناٹے خیالات کو شامل ہونے نہیں دیا ہے۔ تو اس کو صاف طور پر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ معترضین نے اشاعت اسلام پر اعتراض کرنے میں صداقت۔ اور واقفیت سے کام نہیں لیا۔ اس مضمون میں چند امور پر آپ کی توجہ منعطف کرنا چاہتا ہوں۔

## نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بت پرستوں کے ظالم و ستم

اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برداشت اور تحمل کا خیال کیجئے۔ جو اشاعت اسلام میں گونا گوں تکالیف و مصائب پر فرماتے رہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فطرت اور طبیعت کا سچا میلان آپ کو نظر آجائے گا۔

جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ توحید شروع کیا تھا۔ کل قوم اور جملہ قبائل میں عداوت کی گویا آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کوئی راہ چلتے سر مبارک پر مٹی گراتا۔ کوئی در مبارک پر خون و سنڈاس گرا جاتا۔ کوئی پتھر سے جسم مبارک کو زخمی کرتا۔ کوئی نماز تہجد کے لیے بیت اللہ جاتے کے وقت اندھیری راتوں میں سر راہ کاٹے بچھا جاتا۔

سہمیں بدنئے کش ز گل آزار بود      وز سایہ سنبل رخس افکار بود

بنگر پھر رسد بر دلش از غم کہ ریش از دست ستمگراں پیر از خار بود  
 اہل مکہ کی سنگ دلی سے آزر وہ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عورت  
 دین حقہ کے لیے قید بنی بکر بن وائل کی جانب تشریف لے گئے۔ انہوں نے پہلے  
 ٹھہرنے کی اجازت دی۔ مگر پھر وہاں سے چلے جانے پر مجبور کیا۔ پھر تحقیق میں  
 ایک ماہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ وہاں کے شہریوں نے لڑکوں اور  
 غلاموں کو سکھا دیا کہ حضورؐ کو جہاں دیکھ لیا کریں، پتھر مارا کریں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سنگباری سے لاچار ہو کر بیٹھ جاتے۔ تو  
 وہ پتھر مارنے سے ختم جاتے۔ جب حضورؐ آگے چلنا چاہتے۔ تو پھر پتھر اور  
 شروع کر دیتے اور ساتھ ہی قہقہہ بھی لگاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
 اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بناتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی  
 پیچھے، کئی دفعہ ان کا سر پتھروں سے کھل گیا۔

زور اختیار و از دیوار سنگ بار محمّد بلائے در و منداں از در و دیوار محمّد  
 کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں۔ کہ مخالفین کے اس قدر ظلم و جور کی برداشت آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بپا رنگی، اور در ماندگی کی وجہ سے کرتے تھے۔ سب کو معلوم ہے  
 کہ جب سنہ نبوت میں کل قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق  
 کر کے بنی ہاشم کو اپنے ساتھ متفق ہونے کو کہا تھا۔ تو انہوں نے حقوق قرابت کا لحاظ  
 کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ اور جب قریش نے بنی  
 ہاشم کے ساتھ اسی رفاقت کی وجہ سے نشست و برخاست و دوستی، رشتہ و ناٹھ  
 بند کر دیئے تب بھی انہوں نے شعب ابوطالب میں محصور ہو کر قیدیوں جیسے تین سال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر پورے کیے۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ آنحضرت صلعم کی رفاقت میں اس قدر مستعد تھا۔ اور نبی ہاشم کے سوا مسلمانوں کی تعداد مزید برآں تھی۔ لیکن تاہم مکہ میں حضور ہر طرح کے جو رسوں کو برداشت فرماتے رہے۔ اور کبھی اپنے قبیلہ یا فرمان برداروں سے مدافعت کے لیے ارشاد نہیں فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ طبعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صلح جو اور ظالموں سے درگزر کرنے والے تھے۔

## آنحضرت صلعم کی درگزر اور عفو کے نمونے

وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہؓ (اسد اللہ و سولہ) کو دھوکا سے مار کر ناک کان وغیرہ کاٹے، کلہو نکالا۔ پھر بھی جیب سامنے آکر معافی کا خواستگار ہوا۔ تو معاف کر دیا۔

بہار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے نیزہ مارا۔ وہ ہودج سے گر گئیں حمل ساقط ہو گیا۔ اور اسی صدمہ سے کچھ عرصہ بعد مر گئیں۔ جیب پیار نے سامنے آکر عفو کے لیے التجا کی۔ تو معاف کر دیا۔

ایک درخت کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تلوار شاخ سے لٹکادی۔ ایک دشمن آیا۔ تلوار نکال کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ بول گیا، اور بولا، اب کون تم کو بچائے گا، فرمایا "اللہ" وہ شخص بیہوش نہ رہا، چکر چکھ کر گر پڑا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی۔ فرمایا۔ کہ اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ حیران ہو گیا۔ فرمایا، جاؤ میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ بلکہ بتلانے آیا ہوں

کہ دشمن پر یوں رحم کیا کرتے ہیں:-

خیال فرمائیے۔ کہ جب سگی بیٹی، حقیقی چچا اور خاص نفس مبارک کے قاتل کو معاف کر دیا۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی بات باقی رہ گئی۔ جس سے منکسر المزاجی اور امن پسندی کا اظہار ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد آپ ان پاک نہادوں کے حالات پر نظر ڈالیں۔ جنہوں نے سبقت کر کے داعی ربانی کو بیک کہا۔

## صحابہ کی استقامت اور استقلال

یہ امر صاف اور روشن ہے۔ کہ اجبار و اکراہ سے نفرت و بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اور بیزاری اور نفوری سے عداوت کی زہر بڑھتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بقرض محال تسلیم بھی کر لیں۔ کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا گیا تھا۔ تو خیال کر دو، کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا۔

اس کا لازمی اور ضروری نتیجہ یہ ہوتا۔ کہ وہ سب لوگ جن سے بزور شمشیر کلمہ پڑھوایا گیا تھا۔ اسلام کے لیے مارا آستین کا کام دیتے۔ اور موقع ملنے پر اسلام کو بن ذریعہ سے اکھاڑ پھینکنے میں سعی کرتے۔ لیکن جن لوگوں نے تاریخ اسلام کو پڑھا۔ اور مسلمانوں کے خلوص و صدق کے تاریخی واقعات کو ملاحظہ کیا ہے۔ انہیں نہایت ہی دل فریب چہشتان کا ایک نظارہ دیکھنا نصیب ہوگا۔

ایک بار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سر بہ سجدہ تھے۔ ظالم عقبہ بن ابی معیط نے آکر گردن میں چادر ڈال کر ایسے زور سے پلٹا دینے شروع کیے

کہ گلوے مبارک گھٹ کر اکھبیں باہر نکل آئیں اللہ اکبر حضور کا استغراق بھی کیسا تھا۔ کہ جو  
 سر مالک کے سامنے جھک چکا تھا۔ اُس میں باوجود اس قدر جسمانی تکلیف کے بھی  
 ذرا ادھر ادھر جنبش نہ ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ جنہوں نے اُسے  
 دھکا دے کر ہٹایا۔ اور زبان سے یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی۔ اَنْفُتُلُوْنَ دَجَلًا اَنْ  
 يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ کیا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جرم  
 میں مارتے ہو۔ کہ وہ پروردگار عالم کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ اور اپنی سچائی کے لیے تمہارے  
 سامنے بیانات (معجزہ و براہین) بھی پیش فرماتے ہیں۔ یہ شستی اور اس کے (اعوان)  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق رضی اللہ عنہ سے چپٹا گئے۔ ایک ڈاڑھی  
 کھینچتا تھا۔ دوسرے نے سر کے بال پکڑ رکھے تھے۔ ایک زرد کو سب کر رہا تھا جی کہ  
 صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور وہ ان کو نیم مُردہ کر کے چلے گئے۔  
 صدیق وہ شخص تھے۔ جن کے ناجزائز تعلقات نہایت وسیع تھے۔ سینکڑوں اشخاص  
 کا ان سے داد و ستد تھا۔ بیسیوں ان کے مقروض تھے۔ بائیں ہمد نہ ہی مخالفت کی وجہ  
 سے ایسے مقتدر شخص کی یہ حالت کی جاتی تھی۔ رہے ضعیف مسلمان، ان بے چاروں  
 کی کچھ نہ پوچھو۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اپنے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ  
 سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل نے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  
 کی راتوں کے درمیان نیزہ مار کر ان کا شکم چاک کر دیا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو  
 ٹوک شمشیر و سنان نیزہ سے زخمی اور پتھروں سے سنگبار کر کے شہید کیا۔ عمار رضی  
 اللہ تعالیٰ عنہ کو خداوند تعالیٰ نے ابھی دنیا پر باقی رکھنا تھا۔ وہ اگرچہ باپ کے ساتھ ہر  
 ایک دکھ میں شریک تھے۔ مگر حیاں برہو گئے

بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں سونپ دی جاتی۔ وہ ان کو گلی کو چھ، محلوں بازاروں میں کھینچتے کھینچتے لیے پھرتے۔ جب دوپہر ہو جاتی۔ تو گرم پتھر پر لٹا کر ایک دوسرا گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا۔ لیکن یہ تھے اللہ کے مقبول بندے، انہوں نے زبان سے آواز نکلتی تھی تو ہوا اللہ اَحَدًا أَحَدًا۔

زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سردار زاوہ تھے۔ ۴ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے باپ اور چچا کو خبر ہوئی۔ تو ان کو کھجور کی صفت میں لپیٹ کر کھڑا کر دیتے۔ اور نیچے سے دھواں کو دیتے کہ کسی طرح اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن اسلام وہ چیز نہ تھا۔ جو ان سابقین کے دل سے نکل جاتا۔

عبداللہ بن خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہم دل عیسائیوں کے ہاتھ میں اسیر ہو گئے تھے۔ قیصر کے سامنے کیے گئے۔ اس نے ترک اسلام کا حکم دیا۔ انہوں نے انکار کیا قیصر نے خفا ہو کر حکم دیا۔ کہ پھانسی کے تختے کے ساتھ باندھ دیے جاویں۔ تین شبانہ روز کے بعد اتار کر پھر ترک اسلام کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ استقلال کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس وقت کھولتے ہوئے پانی کی دیگ میں ان کو بھٹلایا گیا۔ تمام بدن پر پھپھوے پڑ گئے۔ لیکن ثبات و استقلال میں ذرا جنبش نہ ہوئی قیصر نے کہا، چھوڑ دو۔ پھر پاس بلا کر کہا۔ کہ تم کو اسلام کے لیے نہایت تکلیف دی گئی۔ تم اس سے باز نہ آئے اس کی وجہ فرمایا۔ کاش میں دنیا میں سو دفعہ پیدا کیا جاؤں اور ہر دفعہ اسلام کے لیے ایسے ہی مصائب خوشی کے ساتھ گوارا کرتا رہوں۔

حذیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا تھا۔ جب پوچھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تو کیا سمجھتا ہے؟ تو فرماتے رسول اللہ۔

جب وہ پوچھتا کہ میری رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ یا نہیں؟ تو فرمادیتے کہ مجھے اور کوئی بات سنائی نہیں دیتی۔ مسیلمہ کذاب نے خفا ہو کر حکم دیا۔ کہ ان کا ایک ایک جوڑ بند بند سے جدا کرتے رہو۔ اور پھر ایک ایک عضو کے کاٹنے کے بعد یہی سوال کرتے رہو، مگر اس اللہ کے مقبول نے اپنے جواب کے یہی لفظ رکھے۔ کہ محمد کو اللہ کا رسول جانتا ہوں۔ اور دوسری بات کوئی مجھے سنائی نہیں دیتی۔

جیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیع الارض کو قریش نے بکڑ لیا۔ کچھ عرصہ تک قید رکھنے کے بعد پھانسی دینے کے لیے باہر نکالا۔ پھانسی کے نیچے جا کر کہا۔ کہ اسلام چھوڑ دو۔ تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، بخدا سے رب العزت اگر روٹے زمین کی سلطنت بھی میرے سامنے پیش کرو۔ تو ترک اسلام کا نام نہ لوں۔ قریش نے کہا۔ بھلا تو پسند کرتا ہے۔ کہ اپنے گھر میں صحیح و سلامت ہونا۔ اور یہاں تیری جگہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قید ہوتے۔ فرمایا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کہ حضور کے پائے مبارک میں ایک کانٹا لگ کر بھی میری جان بچ جائے۔ پھانسی پر نہایت استقلال اور کشادہ پیشانی کے ساتھ چڑھ گئے۔ اور چند اشعار سریلی آواز میں پڑھ کر سناٹے سے

جب تکلتی جان ہے اسلام پہ      تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی  
کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان      چاہیے مجھ کو رضا حسان کی  
آرزو نہاں میر سے سینہ میں تھی      اس دل مشتاق پر ارمان کی  
آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزع      داعی حق ہادی ایمان کی!  
اسے خدا پہنچا میرا ان کو سلام      جان جن پر میں تے ہے قربان کی

اسے اہل انصاف میں تم سے پوچھتا ہوں۔ کہ یہ محبت، یہ استقامت کیا ان

لوگوں میں ہو سکتی ہے جن کا پیارا آبائی مذہب بزور شمشیر چھڑایا گیا ہو۔ اور جسے مجبور کر کے نئے دین کا کلمہ گو بنا یا گیا ہو۔ لاواللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلوص اور جاں نثاری کے واقعات کہاں تک سنو گے۔ اور ان کے فدائیانہ جوش کا کہاں تک اندازہ لگاؤ گے۔

آغازِ بخت سے لے کر پانچ سال تک مسلمانوں نے نہایت دلیری و استقلال سے گونا گوں نکالیت کو برداشت کیا۔ لیکن جب پیارا وطن دشمنوں کی آتشِ غضب سے آگ کا تنور بن گیا۔ تو سب نے وطن چھوڑ کر اتار پاب سے منہ موڑ کر حبش کی راہ لی۔

قدیم عرب بھری سفر سے اکثر گریزاں تھے۔ لیکن اپنے دین کے بچاؤ کے لیے تمام خطرات کو خوشی خوشی سے برداشت کر کے افریقہ کو چلے گئے۔ ان مصیبت زدوں نے ایک دفعہ سن پایا تھا کہ آنحضرتؐ کی قریش کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ اور مسلمانوں کا ستانا قوم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر وطن کی محبت میں حبش سے چل پڑے۔ لیکن عرب کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی معلوم ہو گیا۔ کہ مکہ میں جس قدر مسلمان ہیں۔ وہ چکی میں پڑے ہوئے دانہ کی طرح نکالیت میں پے جاتے ہیں۔ تو یہ بیچارے پھر واپس ہو گئے۔

اسے سامعین! کیا جو لوگ تلوار کے ذریعہ سے مجبور کیے جاتے۔ وہ اسی صفت کے ہوا کرتے ہیں؟

مسلمانوں کی مصیبتوں کا پیا لہ لبریز ہو چکا تھا۔ اور سینکڑوں مسلمان قریش کے ظالمانہ تعصب کے بھینٹ بنائے جا چکے تھے۔

آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تنگ ہو کر قریباً ۳۰۰ میل کے فاصلہ پر تشریف لے گئے۔ مدعا یہ تھا۔ کہ خدا کی عبادت اور سچی تعلیم کی اشاعت کا جہاں



بھی موقع ملے۔ وہی ہمارا وطن ہے۔ دشمنوں کو ان کا زمین کے پردہ پر رہنا شاق تھا۔  
 چڑھائی کی تیاری کرنے لگے۔ اس وقت نبوت سے چوداں سال کے بعد مسلمانوں کو  
 بھی مدافعت جنگ کی اجازت ملی۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آسکے تھے۔ ان کی تعداد ۲۱۲  
 تھی۔ یہ بدر کا ذکر ہے۔

اس کے بعد احد کی لڑائی مشہور ہے۔ کل عرب نے گیارہ من تین سیر سونا، اور  
 ایک ہزار اونٹ چندہ میں اکٹھے کیے۔ اور پانچ ہزار جوان کا زاریہ دیدہ، جنگ آزمودہ  
 اس رقم سے مسلح بنائے گئے اور تین سو میل سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مسلمان  
 بالکل بے سروسامان تھے۔ نیز تعداد میں کم (صرف سات سو) پھر بھی کیسے جوش اور  
 استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کہ پہاڑ بھی اس ثبات و استقامت کو دیکھ کر لرز گئے۔  
 حنظلہ (غیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایک رات کی بیابانی ڈھلوان کو چھوڑ کر میدان  
 جنگ میں پہنچے اور شادی کے جوڑے کو اپنے ہی خون سے رنگین بنایا۔

مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے لاڈلے اور پوتڑوں کے امیر تھے  
 دو دو سو روپے کی پوشاک زیب تن کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہو کر ایسا زہد اختیار  
 کیا۔ کہ بکری کی کھال سے بدن چھپا لیتے۔ اور حملہ حریب سے زیادہ اس میں خوش  
 رہتے۔ احد میں اسلامی جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ حریف نے دست راست کو زخمی  
 کر دیا۔ تو علم دوسرے ہاتھ میں تمام لیا۔ جیب وہ بھی تیروں سے شل ہو گیا۔ تو دونوں  
 ہاتھوں کے سہارے اور سینہ کی اڑ سے نشان کو تمام رکھا۔ آخر جیب حلق پر تیر کھا کر گھوڑے  
 سے گرے۔ تو کلمہ طیب پر ہی جان دیدی۔

گرنش قدم یار گرامی کنسم گوہر جان بچہ کار و گرم باز آید

اس جنگ میں ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی، بیٹا، شوہر شہید ہو گئے  
تین کوس پر شہر تھا۔ نجر چاہنچی۔ وہ شام کو سر راہ اکھڑی ہوئی۔ پوچھا کیا رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں۔ اگر حضور زندہ ہیں۔ تو مجھے کسی شخص کی موت کا  
غم نہیں ہے۔

من و دل گرفتہ شدیم چہ پاک غرض اندر میان سلامت تست  
عمر و بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں شہرت شہادت پیا تھا۔  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کی ماں سے چند کلمات تعزیت فرمائے وہ  
بولی۔ کہ جب حضور کو خداوند تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اب میں ہر ایک مصیبت کو باسانی  
برداشت کر سکتی ہوں۔

طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جنگ میں ۵۷ زخم لگے تھے۔ ایک تلوار کا سر  
پر ایسا وار لگا۔ کہ لڑکھڑا کر گر گئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن کے منہ میں پانی  
ڈالا۔ ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی پوچھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے  
ہیں۔ انہوں نے کہا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تمہاری نجر گیری کے  
لیے بھیجا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ”اوہ مجھے اپنی جان کی کچھ پرواہ نہیں“  
عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تھے۔ دشمن نے پس پشت سے  
آکر جان ستان نیزہ مارا۔ تو اُن کے منہ سے یہ نکلا۔ فزت ورب الکعبہ :  
رب کعبہ کی مجھے سوگند ہے بل گیا مجھ کو میرا دل بند ہے۔

سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلصان درگاہ میں سے تھے۔ ایک صحابی  
نے انہیں زخموں سے چوڑا، لہو میں شرابور جان کنی کی حالت میں پایا۔ کہا میری مصیبت

وہیت سن لو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں جا کر خادم درگاہ سعد کا سلام کا عرض کر دینا۔ اور گزارش کر دینا کہ خداوند کریم حضور کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضور کے طفیل ہم کیسے کیسے مراتب رفیع کو پہنچ گئے۔ نیز میرے اجاب سے کہہ دینا کہ اگر خدمت گزاری اور فرمانبرداری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ قصور رہ گیا تو خدا کے سامنے تم سے کچھ جواب بن نہ پڑے گا۔

اللہ اکبر۔ محبت بھی کیا ہی نشہ ہے، اور اخلاص میں بھی کیا ہی مزہ ہے۔ کہ زخمی ہو کر سانس تو ٹوڑ رہے ہیں۔ اور شکر گزار ہیں۔ جان نثار کر رہے ہیں اور غدر خواہ ہیں۔ ۵

یک جان چہ متاعیت کہ سازیم فدایت اماں چہ تو اں کر دکہ موجود ہمیں است  
سامعین آپ نے خیال فرمایا۔ کہ جو حسن ارادت اور خلوص عقیدت ان لوگوں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھا۔ اسے تلوار کی کاٹ، اور نیزہ کی بھالی، نیز کی پیکان بھی کم نہیں کر سکی۔ وطن کی دوری، اجباب کی جدائی، اقارب سے بھوری، تنگ دستی، بیماری، قوم کی مخالفت، ملک کی عداوت بھی، ان کے استقلال و ثبات کو جنبش نہیں دے سکی۔

## عام مسلمانوں کا استقلال و استقامت

خیر تخلصین صحابہ تو بلا واسطہ نور نبوت کے فیضان سے مستنیر تھے۔ ان کے احوال کو چھوڑ کر ادنیٰ مسلمان کے حال پر غور کرو۔ ابرس کی عمر سے لے کر مرتے دم تک ایک دن میں پانچ دفعہ عیادت کو اس پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہتا کہ

نہ موسموں کا تغیر، نہ عمر کا اقتضا، نہ سفر نہ بیماری، نہ جنگ کی آشوباری غرض کہ کوئی چیز بھی اسے روک نہ سکے کیا خلوص کا کچھ کم نمونہ ہے۔ (نماز)

آٹھ سال اپنی آمدنی کا پورا چالیسواں حصہ بنی نوع کی دستگیری کے لیے مدت عمر تک نکالتے رہنا کیا کچھ کم نفس کشی ہے۔ (زکوٰۃ)

گرم سے گرم ملک، اور گرم سے گرم موسم میں ۱۸-۱۸ گھنٹہ تک روٹی پانی، جملہ مفتضیات طبع کو چھوڑ کر پہلے کی بہ نسبت سہ چہار چہار چہار زیادہ عبادت میں لگنا، ایک ماہ تک مصروف رہنا کیا سچائی کا معیار نہیں۔ (روزہ)

ہزاروں کوس سے بحر و بر کو پھرتے، آفات ارضی و سماوی کو بھیلنے، پیادہ سوار سفر کرتے ہوئے دربار الہی میں حاضری کے لیے عرفات تک پہنچنا۔ کیا جان و مال کا تار کر دینا نہیں ہے۔ (حج)

اب میں پوچھتا ہوں۔ کہ جو لوگ بزور شمشیر مطیع کیا جایا کرتے ہیں اور نہ ہر جیسی پیاری چیز جن سے چھین لی جایا کرتی ہے۔ وہ لوگ اسی نمونہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ساگرا من کا جواب نفی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جس تعلیم نے لوگوں کو اس نمونہ کا بنا لیا تھا۔ اور جس ایک واحد شخص (فداہ ابی وانی) کی آواز نے ایسی جماعتوں کے دل و جان پر اپنا تصرف کر لیا تھا۔ اسے اپنے اس تجربہ شدہ طریق میں کب ناکامیابی ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ اس آسان اور کامیاب طریق کو چھوڑ کر بزور شمشیر تعلیم پھیلانے کو اٹھا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے جنگ جیسی جان جو حکم چیز کو پسند کر لیا تھا۔ جہاں تک غور کرو گے، اس کا جواب سخت سے سخت مخالف کو بھی نہ ملے گا۔

## اسلامی تعلیم کا دیگر مذاہب کی تعلیم سے مقابلہ

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ اسلام کی جس تعلیم کا بزور شمشیر پھیلا یا جاننا بیان کیا جاتا ہے۔ کیا وہ تعلیم فطرت انسانی سے اس قدر مخالفت رکھتی ہے؟ کہ اگر تلوار ہاتھ میں نہ لی جاوے۔ تو اس کی اشاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا وہ تعلیم ایسی ہیچیدہ اور فہم انسانی سے بالاتر ہے۔ جس کے لیے دل و دماغ میں تلوار کی برق نما چمک کے بغیر جگہ نہیں مل سکتی۔ کیا وہ تعلیم ان مذاہب سے جن کی اشاعت محض وعظ و پند کے ذریعہ سے ہوتا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسی کھٹیل ہے۔ جس کی اشاعت کے لیے حیوانی جوش سے کام لینا پڑا۔

دنیا کے بڑے بڑے مذاہب مروجہ حال پر نظر ڈالو، ہر ایک مذہب میں سے

زیادہ اہم دو مسئلہ ہوتے ہیں۔

(۱) معرفت خداوندی

(۲) نجات

ان دو مسائل کو ہر ایک مذہب کے اندر تلاش کرو۔ اور موازنہ کرتے جاؤ۔ کہ اسلام کے مقابلہ میں ان کا بیان بلحاظ وضاحت و دل نشینی اور باعتبار عمدگی و تاثیر کیا درجہ رکھتا ہے۔

سب سے پہلے عیسائیت کو لو۔ جو دنیا کے ہر شش براعظم پر پھیلی ہوئی ہے۔ معرفت خداوندی کے متعلق اس مذہب کی بنیاد تثلیث پر ہے۔ تثلیث کی جو شرح اٹھانا سب کے عقیدہ میں کی گئی ہے۔ اس کے چند فقرہ قابل غور ہیں۔

یا سپا ایک اقنوم، بیٹا ایک اقنوم، اور روح قدس ایک اقنوم۔ مگر باپ، بیٹے اور روح القدس کی الوہیت ایک ہی ہے۔ جلال برابر، عظمت ازلی یکساں، جیسا باپ، ویسا ہی بیٹا، ویسا ہی روح قدس۔

روح قدس غیر مخلوق	بیٹا غیر مخلوق	باپ غیر مخلوق
روح قدس غیر محدود	بیٹا غیر محدود	باپ غیر محدود
روح قدس ازلی	بیٹا ازلی	باپ ازلی

تاہم تین ازلی نہیں، ایک ازلی۔ تین غیر محدود نہیں، ایک غیر محدود۔

یونہی باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق، روح قدس قادر مطلق

ویسا ہی باپ خدا، بیٹا خدا، روح قدس خدا، اس پر بھی تین خدا نہیں

بلکہ ایک خدا۔

نجات کی بنیاد کفارہ پر ہے۔ یعنی خدا کے عدل نے بندوں کو گناہ کی سزا دینا چاہا۔ اور خدا کے رحم نے ان کو چھوڑ دینا۔ اب اگر چھوڑتا ہے۔ تو عدل کے خلاف ہے۔ سزا دینا ہے تو رحم کے خلاف۔ اس لیے خدا کے اکلوتے بیٹے نے جامہ بھری پہنا، صلیب پر چڑھا۔ ملعون ہو کر تین روز جہنم میں رہا۔ اور سب گنہگاروں کے گناہ اپنے سر سے لیے۔

سرکٹری، ایم اے۔ جولا ڈفرن کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ تاریخ روس میں لکھتا ہے۔ کہ تشلیت کا مسئلہ۔ فہم انسانی سے بالاتر ہے۔

صاحبان۔ جب ایسا فاضل بھی اسے فہم انسانی سے بالاتر بتاتا ہے۔ تو میں حیران ہوں۔ کہ عیسائیت کے دلدادہ اس مسئلہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یا سمجھے بغیر کیونکر

اس پر ایمان لے آتے ہیں۔

کیا یہ یقین ہو سکتا ہے۔ کہ تثلیث کا عقیدہ اور کفارہ کا مسئلہ تو جو عقل اور فطرت کے بھی برخلاف ہے۔ اور معتقدان تثلیث کے مرد و جانہ اور روزانہ برتاؤ کے بھی برخلاف ہے، ایسا عام فہم و عام پسند ہو جائے۔ جس کو بلا کسی خارجی وجوہ کے ہزاروں مانتے چلے جائیں۔ اور اسلام کے سادہ قابل فہم اصولوں کی اشاعت کے لیے تلوار ہی کی ضرورت ہو؟ کیا عیسائیوں نے تلوار کا استعمال نہیں کیا؟ کیا اُس کی اشاعت اسی فیاضی اور حمدی کے ساتھ ہوئی ہے۔؟ جس کی تعلیم مسیح علیہ السلام نے دی تھی؟ ہرگز نہیں۔

## عیسائیوں پر عیسائیوں کے ظلم

عیسائی مورخین نے خود اقبال کیا ہے کہ رومن کلیچو لکس نے عدالت مقدسہ کے نام سے عدالتیں مقرر کر کے چودہ صدیوں تک غیر منقطع سلسلہ خونریزی کا قائم رکھا تھا۔ رہا فرقہ پراٹسٹنٹ جو پہلے فرقہ سے ثلاثتہ ہے۔ اس کی بابت مسٹر ہالم لکھتے ہیں کہ اس مذہب کے مختلف فرقوں سے جو سب سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بزرگانِ خدا پر دین میں زور نہ برتنی کرتے ہیں۔

آنریبل سید امیر علی صاحب جج تحریر کرتے ہیں کہ جیسا کالون نے سرویس کو صرف اس وجہ سے زندہ جلادیا کہ اُس کے اعتقادِ تثلیث کے بارے میں تجمہور علماء کے برخلاف تھے۔ تو سب پراٹسٹنٹ فرقوں نے کالون کے اس فعل کی بڑی تعریف کی تھی۔ اور نین مہنقوں نے اس کی تعریف میں جداگانہ رسالے لکھے تھے۔

انصاف اس امر کا مقتضی ہے۔ کہ جس قوم میں ایسی شرمناک حرکات سرزد ہو چکی ہوں وہ دوسرے کو الزام نہ لگائے۔ بیشک مسلمان بادشاہوں کی بھی بعض ایسی نیبیریں مل سکتی ہیں۔ جنہوں نے مخلوق خدا کو بیدردی کے ساتھ تہ تیغ کیا تھا۔ لیکن ان کے فتوے کسی مقدس عدالت کے جاری کردہ نہ ہوتے تھے۔ اور ان کے قتل عام میں کسی مذہب کی کچھ تخصیص نہ ہوتی تھی۔

اب بدھ مت کو لیجئے جو کثرت اشاعت میں مشہور ہے۔ معرفت خداوندی کے متعلق اس مذہب میں مجھے کوئی بات نظر نہیں آئی۔ بعض کا یہ قول کہ یہ مذہب بہستی خدا کا قائل نہیں۔ شاید صحیح ہو۔

رہی نجات اس کا طریق حصول یہ بتا گیا ہے۔ کہ جو اس پنجگانہ اور ان کی محسوسات سے اپنے آپ کو بالا تر رکھو۔ ایسی بے کیفیت حالت کا ہی نام نجات ہے جسے زوال کہتے ہیں۔ اس کے حاصل ہونے پر انسان آواگون سے رہائی پاتا ہے۔ آپ خیال فرمادیں۔ کہ وہی اصولوں کو جو جس کے الفاظ ٹھیک ایسے ہی بے معنی ہیں۔ جیسے اُن کی حالت نجات بے کیفیت ہے۔ ایسا عام فہم و دلچسپ تسلیم کیا جائے۔ جس کی اشاعت کے لیے تلوار کی ضرورت نہ ہو۔

مگر اسلام کو اس کی حاجت ضرور پڑی ہو۔

الفاظ میں نزاکت اور خیال میں لطافت پیدا کر لینا اور بات ہے۔ لیکن

کسی مذہب اور دین کو بطور دستور العمل پیش کرنا اور بات ہے۔

یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ کہ اول تو خود بدھ نے اپنے خیالات میں تین پلٹے

کھائے، پھر اس کی آخر عمر میں اس کے چلیے دیودت نے اس کے سامنے پانچ ترمیمات



اس کے احکام میں پیش کریں۔ پھر اس کی وفات کے بعد اس کی مصنفہ کتاب پائی مورکھ میں  
 کی ویشی کی گئی۔ پھر ایک صدی کے بعد ایک اور جلسہ کیا گیا۔ اور جو احکام ناقابلِ تعمیل  
 تھے۔ ان کو نرم بنایا گیا۔ پھر تیسرا بڑا جلسہ راجہ اشوک نے کیا۔ اسی میں جو اصول  
 بالالتفات منظور ہوئے۔ وہ پتھر کی ستونوں اور پتھروں پر کندہ کر دیئے گئے۔

## بدھ والوں کے ظلم

بدھ اور اس کی تمام شاخیں نرم دلی کم آزار ہی میں مشہور ہیں۔ لیکن انہوں نے  
 اپنی حکومت کے ڈیڑھ ہزار سال میں ہندوؤں کی قوموں اور علموں کے نیست و نابود کرنے  
 میں جو مسلسل اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ پوشیدہ نہیں۔

آریہ کے متعلق بھی ایک فقرہ سن لیجئے۔ یہ لوگ روح و مادہ اور بدیشتر کو انادی  
 مانتے ہیں۔ معرفتِ خداوندی کا حال اسی سے سمجھ لو۔ کہ خالقِ مطلق یعنی مانعِ جانتے ہیں  
 ۔ ہی نجاتِ ابدی اسے کروڑوں بھونوں میں ہونے کے بعد اعمالِ محدودہ کی نقدی  
 دے کر خریدنا چاہتے ہیں۔ اور وہ نجات بھی ایک محدودہ وقت کے لیے تسلیم کرتے  
 ہیں۔ یہی خرنیزہ بیدی خیال کرو۔ ہندوستان کی قدیم قومیں جو آریہ سے پہلے برسرِ عروج  
 حکومت تھیں۔ کہہ رہی ہیں؛ ان بے چاروں سے نہ صرف حکومت ہی چھینی گئی۔ بلکہ زمین  
 کو باہم وسعت ان کے لیے تنگ بنایا گیا۔ اگر کسی قوم کا کچھ تقیہ رہا بھی گیا ہے۔ تو وہ  
 اب خانہ بدوش ہیں۔ اور ان قوموں کو پاکسٹان بھیجے جاتے ہیں۔ کہ وہ ہندوؤں کے کپڑے  
 تنکے کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ ان بے چاروں کا نام ہمیشہ کے لیے شورویا چٹال  
 رکھا گیا ہے۔ اور ملک ہندوستان میں دس کروڑ آدمی ایسی ناپاکسٹان کی سر

کر رہے ہیں۔

اب آپ اسلام کی طرف آئیے۔ تعلیم کی سادگی کا تو یہ حال ہے۔ کہ تمام دین کا عطر روح ایک مختصر جملہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے جہاں کسی سے سچے دل سے یہ الفاظ پڑھے فوراً اللہ تعالیٰ کے ازلی بیٹاق لَا اِقْضَا مَرَلَهَا میں داخل اور صادقین کے زمرہ میں شامل ہو گیا۔

## تعلیم اسلام کی سادگی

ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو مکلف ہونے کی قابلیت رکھتا ہے، اتنی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے رسول ہیں بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اور اپنی سمجھ پر نجات اخروی اور فوز عظیم حاصل کر سکتا ہے۔

واضح ہو کہ فقرہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ معرفتِ ثبوتیہ و سلبیہ کے لیے کلمہ جامع ہے سَلْبِيَّةٌ معاصی کے ہٹا دینے کے لیے اور ثبوتیہ سکینہ کو قائم اور جزا کو مشتمل کر دینے کے واسطے مفید ہے۔

یہی کلمہ ہے جو شرک جلی کو دور کر دیتا اور شرک خفی کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور یہی کلمہ ہے جو ان تمام جالبوں کو کہ معرفتِ خداوندی تک پہنچنے میں بندہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اٹھا دیتا ہے۔

کلمہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اس علاقہ رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو رحمن کو اپنے

لے ایسا عہد جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔

بندوں سے ہے نیز اس سبب عظمیٰ کی یاد دلاتا ہے جو ظلمت میں گرے ہوئے عالم کو نور میں لانے والا ہے۔

یہی کلمہ توحید کی بنیاد کو مستحکم کرتا ہے۔ اور رسول کو ثالث ثالثہ یہ جزو اللہ تینین کرنے سے روکتا ہے۔ معافی معاف و کبائر کا ذریعہ تو یہ ہے۔ اور نجات کا انداز اس مالک کی رحمت ہے۔ جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ کہ ماں اپنے بچہ پر اس سے ستواں حصہ بھی نہیں۔ اعمال صالحہ بندہ کے لیے نور و قرب کے ازویاد اور رحمت آلبیہ کے شایاں بنا دینے والے ہیں۔

انہیں مختصر جملوں پر غور کرو۔ کہ نہ تو اعمال کو حصول نجات میں وہ درجہ دیا گیا ہے۔ کہ رحمت الہی کی بھی بندہ کو پرواہ نہ رہے۔ اور نہ فضل و رحم کے ایسے معنی بتائے گئے ہیں۔ کہ شریعت کو لفظ لعنت سے تعبیر کرنا پڑے۔

معرفت خداوندی کے بارہ میں اسلام براہ راست فطرت سے خطاب کرتا ہے۔ اور محبت و طمانیت سے ملی ہوئی تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلی دکھلاتا ہے اور سو معرفت یا حجاب طبیعت کو فطرت سلیمہ کے چہرہ سے ہٹا کر باطن کو محبت و انبساط کی بھری ہوئی حالت سے معمور کر دیتا ہے اور نجات کے لیے پہلے تو اعمال صالحہ اور مصالح عالیہ کے لیے براہ گنجینہ کرتا اور پھر پورے ذوق و وجدان کے ساتھ رحمت ربانی کے سامنے بندہ فانی کو خاشع و خاضع بنا دیتا ہے۔

رہی اس کی عمدگی و قوت تاثیر وہ اس ملک پر نظر ڈالنے سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ جہاں اس کے ایک حصہ پر اسلام نے اور دوسرے حصہ پر کس اور

سدا پلوں نے اپنے خطوں میں جسے عیسائی لوگ انجیل کے ساتھ شائع کیا کرتے ہیں شریب و سنت

مذہب نے اثر ڈالا ہو۔ مثلاً فی زمانہ افریقہ ایسا ہی ایک براعظم ہے۔ عیسائی سیاستوں نے دونوں کاموازنہ کرتے ہوئے کچھ لکھا ہے۔ اس کا بالتفصیل گزارش کرنا دشوار ہے۔ مگر میں صرف ایک پادری کے ایک فقرہ پر ہی اختصار کروں گا۔

## نومسلموں اور نومسیحیوں کا موازنہ

جب اسلام کو ایک جتنی قوم قبول کرتی ہے۔ تو بت پرستی۔ مخلوق پرستی، حیات پرستی، مردم خوری، انسانی قربانی، اولاد کشی، جادو گری فوراً دور ہو جاتی ہے یا شد سے کپڑے پہننے لگتے ہیں، نجاست کی جگہ صفائی سیکھ لیتے ہیں۔ شرافت ذاتی اور خودداری حاصل کر لیتے ہیں۔ مہمان نوازی فرض مذہبی ہو جاتا ہے۔ شراب خوری بہت کم رہ جاتی ہے، جو امتروک ہو جاتا ہے۔ بے حیائی کے نام اور مرد و عورت کے ناجائز میل جول بند ہو جاتے ہیں۔ عفت کو نیک نہمت، خیال کیا جاتا ہے، کاپلی کی جگہ محنت حاصل کر لیتی ہے۔ ذاتی اختیار کی جگہ قانون دخل کر لیتا ہے۔ انتظام اور پرہیزگاری پھیل جاتی ہے۔ خاندانی خصوصیتوں اور مورثی اور غلاموں پر بے رحمی کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ انسانیت اور مہربانی اور مساوات کا خیال سکھایا جاتا ہے۔ کثرت ازواج اور بندہ گری کی ترتیب ٹھیک طور سے دی جا کر ان کی برائیاں کم کی جاتی ہیں۔

بمقابلہ اس کے یورپ کی ترقی سے گویا شراب اور گنہ گاری کا پھیلاؤ اور اس قوم کا تنزل مراد ہوتا ہے۔

فقرہ مذکورہ بالا اپنی صداقت و بلاغت کے اعتبار سے ایک جامع مانع

فقہ ہے اور اس کے ثبوت میں تاریخ کے صفحات اور مختلف ممالک میں اسلامی ترقی کے حالات پیش کیے جاسکتے ہیں پس کیا صحیح طور پر یہ مقولہ کسی طرح بھی درست ہو سکتا ہے؟  
 ”کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا گیا ہے“

اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ جب اسلام اپنی اشاعت کے واسطے کسی زور یا طاقت کا محتاج نہیں اور ابتداء سے ہی اس کے پیرو محض صداقت اور حق طلبی کی وجہ سے اُس کے گردیدہ ہوتے رہے ہیں تو کیا اسلام نے کبھی بھی تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔

## اسلامی جہاد کی عرض و عنایت

میں کہتا ہوں۔ اسلام نے بیشک تلوار کو ہاتھ میں لیا ہے۔ مگر کیوں اور کس کے مقابلہ میں اس کا جو اب خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔ وَكُلَّادْفَعُ اللّٰهَ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهٖ مَتَّ صَوَابِعُ وَّبِيعُ وَّصَلَوَاتٌ وَّوَسَّاجِدٌ يُدْكَ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا۔ اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا آدمیوں کو ایک کا دوسرے سے تو ضرور ڈھائی جاتی عیسائی درویشوں کی خالق ہیں۔ اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں بکثرت خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جہاد کا مدعا مسجدوں اور گرجوں اور یہودیوں کے عبادت گاہوں زاہدوں اور عابدوں کی خالق ہوں کو بربادی سے محفوظ رکھنا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے:

”کہ ایک ایسا امن قائم کر دینا جس کی وجہ سے جملہ مذاہب کا مل آزادی کے ساتھ دنیا میں رہ سکیں“

بجلا ایسے مدعا پر جس کی مشترکہ غرض جملہ مذاہب کو یکساں فائدہ پہنچانا اور سب کی حفاظت کرنا ہے۔

کون شخص دھبہ لگا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے ہم کو اب تک کسی عیسائی یا بدھ باپت پرست یا یہودی کا نام معلوم نہیں ہوا جس کے جنگ کرنے کا مقصد مسلمانوں کی مساجد یا اپنے سے غیر مذہب کے معاہدہ کی حفاظت کرنا ہے۔

## لڑائی کی دوسری ضرورت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے

اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اٰیْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ حَرَابَةٍ۔  
 کیا تم اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسم اور اقرار کو توڑ دیا ہے۔ اور رسولؐ کو (مدینہ سے) نکال دینے کا قصد کر لیا ہے اور اس بارہ میں ابتدا بھی ان ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔

ایسے جنگ کے لیے حد بھی خود ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہے۔ فرمایا:  
 وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُوْا فِتْنَةً۔  
 ان سے اس وقت تک لڑائی کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔

اس حد پر بھی جس سے ظاہر ہے۔ کہ جنگ صرف رفع فتنہ کے لیے تھی یہ ارشاد بھی فرمادیا:

وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ۔

اُردہ صبح کی طرف راعب ہوں۔ تو آپ بھی صلح کی جانب جھک جاویں اور ان

کی آئینہ نمانہ پر دازیوں اور سازشوں کی کچھ پردہ نہ کب کے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔  
 امن کے توڑ دینے والوں، سازشوں اور فتنوں کے پھیلانے والوں رعایا ہو کر  
 عذر کرنے والوں کے ساتھ ایسے قیود، ایسے احتیاطی احکام کے ساتھ جنگ کا حکم جس  
 مقدس مذہب نے اسلام کے سوا دیا ہو اس کی نظیر پیش ہوتی چاہیے۔  
 معترض کے لیے اب صرف ایک گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ  
 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان نہیں کیا  
 گیا۔ تو خلفائے راشدین کے وقت میں ضرور ہتھیاروں کے زور سے اسلام کی  
 اشاعت کی گئی ہے۔

## خلفائے راشدین کے عہد کے محاسبے

میں اس کے متعلق بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خلفائے راشدین نے اگر کلو  
 کچینی بھی ہے۔ تو کسری (شہنشاہ ایران) کے منہ پر جس کی شہنشاہیت مشرقی دنیا پر چار  
 ہزار برس سے مسلط تھی۔ باقیہ شہنشاہ قسطنطنیہ کے سر پر جو نصف مغربی دنیا کو اپنا  
 یا جگزار رکھتا تھا۔ ایسے دول عظام کی منظم باقاعدہ فوجوں کے مقابلہ میں یہ سرد سامان  
 عرب کا نلو اور اٹھانا صرف تنگ آمد بھنگ آمد کے اصول ہی پر ہو سکتا ہے۔  
 پھر خیال کرو کہ خلفائے راشدین کن لوگوں کو شمشیر زنی کے لیے بھیج رہے تھے۔  
 کیا انہی شخصوں کو نہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت  
 کو اپنا ایمان سمجھا تھا۔ اور جو دیکھ چکے تھے۔ کہ بزور شمشیر اسلام قبلا و انا خود و تعلیم اسلام  
 ہی کے خلاف ہے۔

یہ ناممکن ہے۔ کہ قرآن پر ایمان لانے والے قرآن مجید میں۔

لَا كِرَاهَ فِي الدِّينِ - دین کے بارے میں کسی پر کوئی سختی جائز نہیں

بھی پڑھنے ہوں۔ اور پھر بھی اشاعت دین کے لیے اگر اہ و جبر کے طریق کو پسند کرتے ہوں۔

مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِبَاطِلٍ قَاتِلٍ اے محمد! تو ان پر جبر نہیں کر سکتا، قرآن کا

فَدَا كَرِبًا لِّلْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِجْدًا

خوف کھاتا ہے وہ خوف کھائے گا۔

کی تلاوت بھی کرتے ہوں، اور باایں ہمہ جبر و تشدد بھی دین کے لیے روار کھتے ہوں

میری یہ دلیل صرف قیاسی ہی نہیں۔ اور قرآن مجید کا یہ حکم صرف تلاوت کے وقت

پڑھنے ہی کے لیے نہیں۔ بلکہ خلفائے راشدین نے اپنے مفتوحہ ممالک میں اسی کے موافق عمل بھی کر رکھا یا تھا۔

فاتح سرداروں میں سب سے زیادہ مشہور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

جن کا لقب بھی سیدنا اللہ ہے۔ اور جن کے نام نے عراق و شام میں زلزلہ ڈال دیا تھا۔

ان کے عہد نامے کے یہ الفاظ ہیں:

هَذَا كِتَابٌ مِّنْ خَالِدِ بْنِ

الْوَلِيدِ إِلَى الصَّلُوبِيَّائِ نَطُومًا

وَقَوْمَهُ أُنِي عَاهِدُ تَكْمَ عَلِي

الْبَحْرِيَّةِ وَالْمَنْعَةَ فَلَكُمْ

الذَّمَّةَ وَالْمَنْعَةَ مَا مَنَعْنَا فَلَنَا

یہ تحریر خالد بن ولید کی طرف سے صلویا بن

نطوما اور اس کی قوم کے لیے ہے۔ میں نے

تم سے جزیہ پر معاہدہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں

پر تمہاری ذمہ داری اور حفاظت ضروری ہے

اور جزیہ تک ہم تمہاری محافظت کریں ہم کو



الجزية والا فلا۔

تم سے خراج کا حق ہے اور نہ نہیں

خیال کرو۔ کہ کیونکہ مفتوح قوموں کی محافظت کا بار اپنے ذمے لیتے اور ان کی جان و مال و مذہب کی نگرانی کو اپنے فرائض میں شامل کر لیتے تھے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک پہنچ گئی تھی اور دنیا کے بڑے بڑے آباد حصوں میں توجید کی منادی جاری ہو چکی تھی۔ لیکن اس کا سبب تلوار ہرگز نہ تھی۔ مشہور مورخ ایڈورڈ گین لکھتا ہے۔

افریقہ اور ایشیا کے لکھو لکھو مسلمانوں نے عرب کے مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی، اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں فریفتہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہ ان سب پر دباؤ تھا بلکہ کلمہ پڑھنے یا خلتہ ہو جانے سے رعیت یا غلام یا قیدی یا اسیر ایک لمحہ میں اپنے فتح یاب مسلمانوں کا ہم سر و آزاد بن گیا۔ ہر ایک گناہ دور ہوا۔ بیاہ نہ کرنے کا عہد فطری عنایت سے جاتا رہا۔ قوائے شہوانی (جو تہجد و رہبانیت کی وجہ سے) صومعوں میں پڑے سوتے تھے۔ اہل حجاز کے ڈھول سے چونک پڑے اور معاملات دنیا میں نئے مجمع کا ہر ایک شخص اپنی لیاقت اور حوصلہ کے موافق اصل سرشت پر پہنچ گیا۔

دیکھو اس شہادت سے کیسے صاف و صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ترقی کی وجوہ مندرجہ ذیل تھیں۔

(۱) اسلام فاتح و مفتوح سپہ سالار و غلام، رعیت و حاکم کے حقوق کو مساوی

کر دیتا ہے۔

(۲) اسلام اس تعلیم کی جس میں فطرت انسانی کے برخلاف احکام دیے جا کر انسانی قوتوں کو معذور کر دیا تھا، اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کی طرف آنے میں فطرت نے لوگوں کو اکسایا۔

(۳) اسلام میں تمدن اور آزادی اس قدر ہے کہ ہر شخص اپنی قابلیت کے موافق اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس کو بدل و جان پسند کیا۔

شاید معترض خلفاء راشدین کے مبارک زمانے کو چھوڑ کر بعد کے زمانہ پر اپنا اعتراض قائم کر سکتا ہو۔

## بادشاہان اسلام کے تعصبات

اگرچہ مسلمان باسانی کہہ سکتے ہیں۔ کہ کوئی مذہب اپنے کسی فرد شخص کے (جس کو مذہب میں کوئی روحانی درجہ حاصل نہ ہو) افعال و اعمال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نامعقول کے یہودہ حرکات کا جواب وہ اس کا شائستہ مذہب نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن سامعین یہ جواب گو معترض کی زبان کو نیند کر سکے۔ لیکن اس کے دلی شبہات کو رفع نہیں کر سکتا۔

جہاں تک مجھے تواریخ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، کسی مسلمان بادشاہ نے بھی

خواہ وہ اپنی جاہلانہ طبیعت یا سفیرانہ مزاج سے کیسے ہی خوزریزی کیوں نہ کرتا رہا ہو۔ کبھی اسلام کو بزدل شمشیر پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔

ہندوستان میں عوام کی زبان پر اور تگسازیب عالمگیر کی نسبت اس قسم کی روایات

بہت مشہور ہیں۔

مگر پروفیسر آرنولڈ لکھتے ہیں۔ کہ عہد اورنگ زیب عالمگیر کی تواریخ میں بہت سے مسلمان کرنے کا کہیں ذکر نہیں۔ آرنولڈ کی شہادت کے بعد یہ بھی گوش گزاری کے قابل ہے۔ کہ اب تک دہلی کے گرد و نواح میں مسلمان آبادی کل آبادی کا چھٹا حصہ ہے اور اگرہ کے گرد و نواح میں چوتھا حصہ ہے یہ غور کے قابل ہے کہ اگر ہندوستان میں کہیں ہجرت مسلمان کیے جانے پر عمل درآمد ہوتا۔ تو خاص دارالسلطنت اور مستقر الخلافت کے گرد و نواح میں دیگر اقوام کی یہ کثرت اور مسلمانوں کی یہ قلت بھی نہ پائی جاتی۔

معارض شائد کوئی ایسی مثال پیش کر سکے کہ ایک ایسے شخص کو جو قانونی طور پر واجب القتل تھا۔ اسلام لانے کے وعدہ پر کسی بادشاہ نے چھوڑ دینے کا اظہار کیا ہو۔ معترض کہہ سکتا ہے کہ بادشاہ کو ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ اس شخص کا واجب القتل ہونا اس کے غیر مسلم ہونے سے نہیں بلکہ قانون نے قرار دیا تھا۔ اور اسلام رحم شاہی کے مہاصل کرتے کا ایک ذریعہ تھا مع ہذا اس ذریعہ سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا خود اس شخص کے دل و طبیعت پر منحصر تھا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ کہ ایک واجب القتل کی جان بری کے لیے کیوں کوئی سبیل نکال دی تھی۔ خیر اس پر بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی مثالیں بہت سناؤ اور بالکل ہی کم ہیں اور میرے نزدیک تو صحیح طور پر ان کا ثابت کرنا بھی دشوار ہے۔

## مغول تارک مسلمان ہونا

معارض کو جو اپنے اعتراض پر قائم ہے ہم تاریخ کے دوسرے چمن کی سیر کراتے ہیں۔

مغول تانار کے اسلام لانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو، مسلمان کی قوم اور سلطنت اور اسلام کی علمی ترقی و فضیلت کا ستیا ناس کر دینے والا سیلاب مغول کا حملہ تھا۔ جنہوں نے نبت خورد سے لے کر عرقین کے انتہائی سرحد تک نہ صرف خونریزی اور قتل عام ہی کا بالعموم دتیرہ اختیار کر رکھا تھا۔ بلکہ بوجہ اس نفرت اور عداوت کے جو اسلام کے ساتھ ان کو تھی علوم اسلام کے ناپید کر دینے کا بھی نہایت سختی سے اہتمام کیا تھا۔

یہ ایک مشہور روایت ہے۔ کہ جس روز بغداد پر مغل کا قبضہ ہوا، اس روز دریائے دجلہ میں اتنے کتب خانے پھینکے گئے۔ کہ تین روز تک دریا کا پانی قلمی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ رہا۔ آہ اودہ کیسا قیامت خیز نظارہ ہو گا۔ جب بغداد کے گلی کوچہ میں لوہے کے نالے برس رہے ہوں گے اور دریا کے پانی نے علمی ماتم میں سیاہ لباس پہن رکھا ہو گا۔ غرض مغول ایسی عداوت اور نفرت کے ساتھ اسلامی ممالک میں داخل ہوئے گویا قسم کھا کر آئے تھے کہ مسلمانوں کا نشان اور اسلام کا نام صفحہ ارض پر باقی نہ چھوڑیں گے۔ لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد کیا دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ ایسی جبروت و سطوت کا بادشاہ اور ایسی خونریز قوم خود بخود مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور مفتوح کا دین فاتحین کے دل و دماغ پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے، اور گردن کش قوم مسجد کی سفید زمین پر مالک کے آگے ناک اور پیشانی کو خاک پر رکھ دیتی ہے اور خادم اسلام کے لقب کو خاقان ابن خاقان کے لقب سے بڑھ کر اپنے لیے سبب افتخار جانتی ہے۔

مغول کا مسلمان ہو جانا صرف اس امر کی شہادت نہیں ہے۔ کہ اسلام ہمیشہ تلوار پر غالب آیا ہے۔ بلکہ اس امر کی بھی شہادت ہے۔ کہ اسلام میں سب سے بڑھ کر تسخیرِ قلوب کی تاثیر موجود ہے تو ضیح اس کی یہ ہے۔ کہ مغول کا قوی اور اصلی مذہب شامانی تھا۔

جس کو بودھ کی ایک شاخ سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ تمام چین اور جاپی، تاتار اور تبت میں بودھ کے مذہب کو بڑی وسعت حاصل تھی۔ اس لیے مغول پر بھی علماء بودھ کا بہت بڑا اقتدار تھا۔ اس اقتدار کا یہ ادنیٰ درجہ تھا۔ کہ کوئی شخص ان کے عقائد کے خلاف اب کشتائی نہ کیا کرنا یا نہ کر سکتا تھا۔ بودھ مذہب کے ساتھ ہی عیسائیت بھی اپنے جھنڈے گاڑ چکی تھی پوپ کی مغول بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت جاری تھی۔ ملک بھر میں عیسائی عورتیں مغلوں کے گھروں کو سنبھالنے اور عیسائی مردوں کی عہدوں پر قبضہ کرنے کے لیے بکثرت موجود تھے۔

ہلاکو خاں کی چاہتی بیوی عیسائی تھی۔ اور گلبرگ خاقان کے دو مقتدر وزیر عیسائی تھے۔ آباؤ ان کی شادی قسطنطنیہ کی عیسائی شہزادی سے ہوئی تھی۔ گویا کئی مسلسل پشتوں سے اندر و باہر عیسائیت اپنا قبضہ کیے ہوئے تھی۔ اس خاندان میں سب سے پہلے خاقان نکودار مسلمان ہوا۔ جو ہلاکو خاں کا بھائی تھا۔ اور چین میں عیسائیت کا (اصطلاحاً) تپسہ بھی پاچکا تھا۔ پھر سلطان غازان مسلمان ہوا، جو خاندان اہل خانہ میں سب سے زیادہ بارعب اور پرسلطنت بادشاہ تھا۔

پھر اس کا بھائی سلطان محمد بندہ مسلمان ہوا۔ جسے تپسہ بھی پایا تھا۔ اور اس کا عیسائی نام نکوٹس رکھا گیا تھا۔ مغول کی دوسری شاخ میں چنگیز خاں کا پڑپوتا براق خاں مسلمان ہوا۔ اور پھر تخلق تیمور خاں کے مسلمان ہو جانے پر کل علاقہ ہی اسلام میں داخل ہو گیا۔

## مجاہدین کرو سید پر اثر اسلام

اگر معترض اب تک اپنی بٹ پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ تو ہم اسے بیت المقدس

کے کروسیڈیاد دلاتے ہیں۔ جس میں یورپ بھر کے پرجوش اور دیندار امراء صلیبی نشان کے نیچے مجتمع ہو گئے تھے۔ جو مسلمان کے حق میں کافر کے سوا اور کوئی لفظ استعمال کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ جب ان کو مسلمانوں کے اخلاق و عادات پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اور ملک کے اندرونی حصوں میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے معاشرت اور معاد کے طریق کو سمجھنے کا اتفاق ہوا۔ تو اکثر ناٹھ اور نجاہدین مسلمان ہو گئے تھے۔ ان نو مسلمانوں میں نہ صرف فوجی یا خاندانی امیر ہی ہوتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات قوم کے ہادی نانی گرائی پادری بھی۔

اس سے بڑھ کر اسلام کا معجزہ کیا ہو گا۔ کہ جو شخص تلوار کھینچ کر اس کے سامنے آیا۔ وہی بندہ حلقہ بگوش ہو گیا۔

## قوم افغان کا مسلمان ہونا

میں ایک اور نئی مثال پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان کے شمال مغربی سرحد پر رہنے والی قوموں کے حال پر نظر ڈالو۔ جو قریباً نصف صدی سے گورنمنٹ انڈیا کے زیر اثر ہیں۔ جو سالہا سال سے گورنمنٹ کی نمک خوار اور سرکاری قیاضیوں اور احسانات سے زیر اثر رہے ہیں۔ جن کے رسم و رواج یا اندرونی جھگڑوں میں دولت عالیہ کبھی دخل نہیں ہوتی اور جن کی شائستگی اور تہذیب میں لانے کے وسائل موجود کرنے کے لیے کبھی کوتاہی نہیں کی جاتی۔ تاہم وہ ایک ذرا سی بات پر کیوں بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور اپنی ہلاکت اور تباہی کی ذرا بھی پرواہ نہ کر کے کس طرح پر جھگڑوں کو مول لے بیٹھتے ہیں۔

میں پوچھتا ہوں۔ کہ ایسی قوم سے مذہب جیسی چیز کوئی شخص بزور شمشیر چھپڑا سکتا ہے۔

کیا آبِ شمشیر ایسی قوم کی دینی حرارت کو بجھا سکتا ہے۔؟ اگر اس کا جواب نفی ہے۔ اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ نفی ہے۔ تو بتلاؤ کہ کس چیز نے ان کو مسلمان بنایا تھا۔ کیا ان کا مسلمان ہو جانا اسلام کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا پہلے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کا خوش خوش مطیع و منقاد ہو جانا معترض کے بزور شمشیر کا کافی جواب نہیں ہے؟۔

## راہچہوتوں کا مسلمان ہونا

ہمارے دوست اگر سرحد تک اپنے خیال کو وسعت دینا پسند نہیں کرتے۔ تو وسط ہند میں آئیں، اور راہچہوتانہ کے اندر مقتدر راہچہوتوں کا مسلمان ہو جانا ملاحظہ کر لیں۔ مغرور اور غیور راہچہوتوں کی رسم جو سبر کا حال شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ ورنہ دو فقروں میں اس کی توضیح کر دیتا ہوں۔ عجب کسی راہچہوت قوم کو یقین ہو جاتا۔ کہ دشمن کے پنجبر سے رہائی محال ہے۔ تو وہ اس وقت بیچارگی کے ساتھ اسیری کو پسند نہ کرتے، بلکہ آنے والی موت کو مردانہ موت کے ساتھ بدل دیتے۔ یعنی کل مال و متاع کو آگ لگا کر زن و بچہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے پھر ایک دوسرے کی تلوار سے ڈھیر ہو جاتے۔ اور اسی طرح پر دشمن کے منصوبہ اور اپنی آرزو کو خاکستر بنا کر نام کر جاتے مسلمانوں کے زمانہ میں بھی دو ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ کہ کہیں ایک عورت کے دینے نہ دینے پر کہیں کسی قلعہ کے سپرد کرنے نہ کرنے پر، لیکن کوئی بھی

ایسا ایک واقعہ موجود نہیں ہے۔ کہ دھرم کے بچاؤ کے واسطے جوہر کی نوبت آئی ہو۔ یہ بالکل محال ہے۔ اگر ایسی قوم کے لیے تمام راہیں بجز اسلام یا موت کے بند کر دی جائیں اور وہ اپنی غیرت اور حیثیت سے کام لے کر (جس کا نمونہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر دیکھا جاتا تھا) جوہر کے جوہر نہ دکھلاتے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہوتا۔ تو یہ سانحہ گیت اور داستان بن کر ملک اور ایک تاریخ و واقعہ بن کر ہسٹریوں میں جگہ نہ پاتا۔ غرض اس رسم سے راجپوت قوم کی غیرت و حیثیت کا اندازہ کرو۔ اور پھر اس لاکھوں کی تعداد پر جو مسلمان راجپوتوں کی ہے نظر ڈالو۔ اور بتلاؤ کہ اگر یہ لوگ خوشی خوشی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تو کیونکر بزور شمشیر ان سے اسلام قبولوایا جاسکا تھا۔

## تاج برطانیہ کے سایہ میں اسلامی ترقی

یہ نظائر ایسے صاف اور روشن ہیں۔ کہ خواہ کیسا ہی ہٹیلہ شخص ہو۔ مگر اس کو ہمارا دعویٰ تسلیم ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص حد درجہ کی لائٹانی ضد اپنی طبیعت میں رکھتا ہو۔ اور ان سب تاریخی واقعات پر بھی اس لیے یقین کرنا نہیں چاہتا کہ ماضی بعید کا پر وہ ان پر گرا ہوا ہے۔ یا یہ کہ شیر اور آدمی کے تصویر کی پھٹی ایسی تاریخوں پر چسپاں ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے قریب ترین زمانہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ علیا ملکہ و کٹوریہ کے روشن زمانہ کی توصیف کرنا خصوصاً اس زمانہ کی کہ غدر ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان کا تعلق براہ راست شہنشاہی سے ہو گیا۔ یعنی آفتاب کے سامنے چراغ جلانا ہے۔

کسی قوم کو کسی قوم پر، اور کسی مرد کو کسی مرد پر، مذہب کے لیے کیا، ایک پیسہ



کے لیے بھی حیر کرنے کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ بلکہ کل ملک کو آزادی فی المذاہب کے عطا فرمانے سے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے مذہب کو کامل وسیع بنانے اور ترقی دینے کا پورا پورا حوصلہ دلا گیا ہے۔

یہ ایک امر بڑا ہی ہے۔ کہ اگر اسلامی ترقی کا ذریعہ صرف تلوار تھی۔ تو اس روشن اور پُر انصاف زمانہ میں ضرور اس ترقی کو ملیا میٹا ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر مردم شماری کے نقشہ جات پر ایک گہری نظر ڈالیں، اور تناسب کا اندازہ کریں ۱۸۹۱ء کی مردم شماری بنگال سے بخوبی واضح ہے۔ کہ وہاں بحساب اوسط ہر دس ہزار پیچھے ۱۵ لوگ غیر اقوام سے مسلمان ہوتے رہے ہیں اور اس حساب سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ کہ ساڑھے چھ سو برس میں کل بنگال میں ایک شخص بھی سوا اسلام کے دوسرے مذہب کا نہ رہے گا۔ ۱۸۴۱ء میں مسلمانان بنگال کی تعداد دیگر اقوام سے پانچ لاکھ کم تھی۔ لیکن ۱۸۹۱ء میں ان کی تعداد اس کی کو پورا کرنے کے بعد پندرہ لاکھ اور زیادہ ہو گئی۔ گویا ایک لاکھ سالانہ کی بیشی ہوتی رہی۔ پادری ٹیلر صاحب نے تحریر کیا ہے۔ کہ ۱۸۴۱ء و ۱۸۸۱ء کے درمیانی دس برس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی میں جو زیادتی ہوئی ہے۔ وہ قریباً نو سے لاکھ چالیس ہزار کے ہے۔ یعنی اگر اس قدر ترقی بیشی کو جو معمولاً پیدائش کی زیادتی سے ہوتی ہے ۲۵ فیصدی کے حساب سے محسوب کریں۔ تب بھی غیر اقوام کے مسلمان ہونے کی تعداد قریب چھ لاکھ سالانہ کے ہوتی ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ جَبَّ خُدَاكِي مَا دَاوْرُ فَتْحِ بَيْتِي۔ اور تو لوگوں

رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينٍ  
 كَمَا يَدْخُلُونَ فِي فُجَاءٍ  
 کو دین الہی میں فوج ورفوج داخل ہوتا  
 دیکھ لے :-

کی زبردست پیشگوئی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ گورنمنٹ برطانیہ  
 کے سایہ تلے صرف ایک ملک ہندوستان میں نو مسلم لوگوں کی تعداد چھ لاکھ سالانہ  
 بڑھتی ہے۔

## عہد ایک لے کر عہد انگلیشتہ تک مسلمانوں کی مردم شماری

میں اس صحیح حساب پر ایک اور خیال پیدا کرتا ہوں۔ ہندوستان میں سب سے  
 پہلا اسلامی بادشاہ قطب الدین ایک تھا۔ جو ۱۱۹۳ء میں تخت نشین ہوا تھا۔ فرض  
 کرو ۱۱۹۳ء سے ۱۸۵۰ء کیونکہ ۱۸۵۱ء میں مردم شماری ہو چکی ہے، صرف دس ہزار  
 سالانہ نو مسلم سال بہ سال شامل ہوتے رہے ہیں۔ اور فی ہزار بیس اُن میں نسل کی  
 افزائی ہوتی رہی ہے۔ تو ۱۱۹۳ء میں اُن کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ چھ لاکھ چوبیس  
 ہزار تین سو ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ۱۸۵۱ء میں مسلمانوں کی تعداد ۴۰۸۸۲۵۳  
 چار کروڑ آٹھ لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو سینتیس تھی۔

اسیابہ بھی خیال کرو۔ کہ عرب و ایران وغیرہ دیگر ممالک سے آکر ہندوستان میں  
 آباد ہونے والی مسلمان قوموں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس تعداد اور ان کی افزائی  
 نسل کا جو ساڑھے چھ صدیوں میں ہونی چاہیے بھی اندازہ لگاؤ۔

نو مسلم لوگوں کی جو تعداد یعنی دس ہزار سالانہ ہم نے فرض کی ہے۔ وہ ۱۸۵۱ء و  
 ۱۸۸۱ء کی اوسط ۵ سالہ کا ساٹھواں حصہ ہے۔ اور افزائی نسل بھی نہایت ہی کم

یعنی دو فیصدی رکھی گئی ہے۔

اگر ہم اسلامی ممالک سے آنے والی مسلم اقوام کی تعداد کو پانچ ہزار سالانہ کے حساب سے فرض کر لیں اور نو مسلموں کی مفروضہ بالائحداد کو گھٹا کر نصف یعنی پانچ ہزار ہی رہنے دیں اتنا بھی یہ ثابت ہو گا کہ ایک سال کے وقت سے ۱۸۷۰ء تک گورنمنٹ کی اوسط ذرا سالہ کے مقابلہ میں ایک سو بیسویں حصہ سے بھی کم ہندوستان میں مسلمان ہوتے رہتے ہیں۔ جس سے نہایت روشن طریق پر واضح ہو گیا۔ کہ جبر و تشدد کے ساتھ کتر مسلمان کرتے رہنے کا کیا ذکر ہے۔ بلکہ جس قدر گورنمنٹ برطانیہ کے پر عافیت زمانہ میں ایک سال کے اندر نو مسلم ہوئے ہیں۔ اسی قدر مسلمانوں کی بادشاہی میں ایک سو بیس سال کے اندر ہوا کرتے تھے۔

اس حساب کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ ہم نے ہندوستان میں نو مسلم اور نو وارد مسلمانوں کی تعداد کو صرف بارہویں صدی عیسوی یعنی ۱۰۰۰ء سے شروع کیا ہے۔ حالانکہ توارخ سے ثابت ہے کہ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد میں اسلام ساتویں صدی میں داخل ہوا تھا۔ بدیہی صورت مفروضہ تعداد پانچ ہزار کو بھی گھٹا کر چار ہزار رکھنا چاہیے۔

ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کی ترقی میں گزشتہ صدیوں کے اندر اس قدر رکاوٹ اور سخت رفتار کا ہوتا بیشک ہر ایک اہل ایمان کے لیے قابل افسوس اور باعث رنج ہو گا۔ لیکن اس سبب اور نہایت دھیمی رفتار پر یہ کہنا کہ ہندوستان میں بھی بزور شمشیر اسلام پھیلایا گیا ہے۔ کس قدر لغو بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بے اصل باتوں کو بڑی آب و تاب کے ساتھ فروغ دیا جاسکتا ہو۔

## اورنگ زیب کے متعلق ایک بات اور اس کی تحقیقات

میں اس جگہ ایک اور حکایت بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سبھا کے ایک لائق لیڈر نے اورنگ زیب کے مظالم بیان کرتے ہوئے فرمایا: اورنگ زیب سوامن چندر روز تڑوا کر تانا تھا یعنی ایک دن میں اتنے ہندو جبراً مسلمان کیے جاتے تھے جن کے زنا رو کا وزن سوامن ہوتا تھا۔

اے صاحبان! ہم اگر ایک زنا رو بالاد وسط وزن ایک تولہ فرض کر لیں۔ تو سوامن کے چار ہزار زنا رو ہونے۔ اورنگ زیب نے ۲۹ سال سلطنت کی ہے۔ ان سالوں کے دن بنا کر جب چار ہزار سے ضرب دی جاتی ہے۔ تو چھ کروڑ اکھڑا لاکھ اڑتالیس ہزار جواب آتا ہے۔ اور ہم کو نتیجہ یہ ملتا ہے۔ کہ عالمگیر کے عہد میں صرف نو مسلم لوگوں کی تعداد پہلے مسلمانوں کو چھوڑ کر اتنی ہو گئی تھی۔ حالانکہ ۱۷۰۷ء کی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد اس تعداد کی دو تہائی سے کم تھی۔

کاش کوئی معترض ہم پر اعتراض کرنے کے لیے ہماری اس تعداد کو اول پورا کر دینے کی تدبیر عمل میں لائے۔

## دنیا کے مختلف حصوں پر اسلام

اسلام وہاں کیونکر پہنچا۔ ملایا، جاوا، مجمع الجزائر، امریکہ، برطانیہ، افریقہ کے اکثر حصے چین کا سارا ملک، مغرب اور چھوٹے چھوٹے بہت سے ممالک ہیں۔ جہاں

۱۷ ایک زنا رو کا ایک تولہ وزن زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ۱۲ منہ

مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں سے لے کر کروڑوں تک موجود ہے۔ بائیں ہمسایہ ملکوں نے اسلامی تلوار تو کیا، اسلامی اقتدار بھی کبھی نہیں دیکھا۔ بیشک یہ سب کچھ اسی زبردست مصلحت اور محکم کی وجہ سے ہے جو آیت ذیل میں ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ -  
خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت  
اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کہ وہ اس دین  
کو سب دینوں پر ظاہر کرے۔

اور یہ اسی زبردست پیشگوئی کا مصداق ہے۔ جو اس آیت میں ہے۔

كَذَٰلِكَ أَخْرَجَ شَطْرًا  
فَأَذْرَأَهُ فَاثْتَعَاظَ فَاسْتَوَىٰ  
عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ  
الذَّسَّاعَ -  
مسلمانوں کی مثال کھینٹی جیسی ہے جس کی باریک  
سوئی زمین سے نکلتی ہے پھر وہ ذرا مضبوط  
ہو جاتی ہے پھر موٹی بن جاتی ہے۔ اور  
اپنی جڑ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھینٹی کرنے والوں  
کو وہ اچھی لگتی ہے۔

## اسلامی اشاعت کی وجوہات

یاد رکھو، کہ اسلامی اشاعت کے صرف دو ذریعہ رہے ہیں۔

(۱) علماء کا وعظ اور اولیاء کا فیضانِ صحبت :-

(۲) تجارت پیشہ لوگوں کی تبلیغ :-

بے شک یہی سادہ ذرائع و فریب اسلام کی اشاعت کا باعث رہے ہیں۔

اور بس، و اعظمین میں سے ایک، کامیاب نظیر اٹھارھویں صدی کے انجیر کی ہے۔ ایک

در دیش منصور نامی نے کوہ قاف کی قوموں میں اسلام پھیلایا، سرکیشیا قوم کو کلمہ پڑھوایا۔  
چنانچہ ۱۱۹۱ء میں پچاس لاکھ سرکیشی مسلمان بیعت کر کے سلطنت عثمانیہ میں چلے  
آئے تھے یہ

رہی تجارت اس نے گویا ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم میں اپنا فیض پہنچایا  
ہے، مسلمان تاجر جہاں گئے وہاں صرف مال تجارت ہی نہیں پہنچایا بلکہ  
دین حقہ بھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا  
خدا نے ایمان والوں کی جانوں کو خریدا ہے  
کا صحیح مہدق ان ہی نے سمجھا تھا، اور اسی لیے بیع و شرائطے صوری کے ساتھ یہ  
معنوی خرید و فروخت بھی جاری کر رکھی تھی۔

اے بزرگواران ملت میری اس قدر سمجھ خراشی سے یہ بخوبی ثابت ہو چکا  
ہے۔ کہ اشاعت اسلام کا ذریعہ تلوار نہ تھی، اور اسلام کی روحانی طاقت کبھی سلطنت  
ر حکومت کی تائید کی احتیاج نہ رکھتی تھی، بلکہ اسلام کی روحانی طاقت نے دنیاوی  
شان و شوکت کے فقدان کی حالت میں اپنے ربانی جلال کو روشن تر دکھلایا ہے  
اور اسلام کی اشاعت کرنے والوں نے اپنے معمولی کاروبار و نبوی میں مشغول رہ  
کر بھی مسلمانوں کی تعداد میں بین و نمایاں اضافے کیے ہیں۔ میں اپنے اخوان الصفا  
اور بزرگان ملت سے یہ دریافت کرتا ہوں۔ کہ پھر ہم میں سے ہر ایک کو کیوں ان  
اسباب پر غور نہ کرنا چاہیے۔ جن پر ہمارے نقلین صدیوں تک کار بندہ کرکامیتا

۱۵ دعوت اسلام مصنفہ پروفیسر آر نواز صاحب ۱۲

ہم سچے ہیں۔

عیسائیوں میں ترویج دین کے ذمہ دار پادری لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں ہر مسلمان اس فرض لازم کا زیر بار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مندرجہ ذیل اصول پر غور اور عمل کرنے میں لگا رہے۔

## قابل غور دو مسئلے

اڈل سب سے فردی مسئلہ تعلیم کا ہے۔ اگر میں اس پر مفصل گفتگو کروں۔ تو یہ بجائے خود ایک مستقل اور وسیع مضمون ہے۔ مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ فہرست تعلیمی میں زیادہ ترویج و مقاصد ملحوظ رکھتے چاہئیں۔

(۱) طالب علم کی حیثیت معاش اس سے درست ہوتی ہو۔

(۲) قوم اور دین کی ضروریات اس تعلیم سے پوری ہوتی ہوں۔

سلسلہ تعلیم میں جو فن یا جو کتاب ہر دو مقاصد کو پورا نہ کر سکتی ہو۔ اسے بدل

دینا چاہیے۔ ہر ایک طالب علم کو ایک بار آرد درخت سمجھو، جو اپنے مالک کو چیل

دینا اور سب کو سایہ کا آرام بخشتا ہے۔ ہماری تعلیم گاہ کے طالب علم بھی ایسے ہونے

چاہئیں۔ جو اپنی قوم کو بھی اپنے علم و فضل سے منتفع کرتے رہیں اور غیر اقوام پر بھی اپنا

سایہ ڈال سکیں۔ ایسے مقاصد کی تکمیل کے لیے تعلیم کے علاوہ تربیت کی بھی ضرورت

ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جن کی تربیت تھنق ممدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

مطابق ہوگی، وہ ضرور ہمہ صفت موصوف ہوں گے۔

دوم۔ تعلیم کے بعد دوسرا مسئلہ اخوت فی الدین کا ہے۔ یہ بالظاہر ہے۔

کہ اسلام نے ان تمام اختلافات کو جو ملک، قوم و رنگ و زبان کے جدا جدا ہونے سے بنی آدم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ یک قلم اٹھا کر سب کو ایک ہی جبل المتین سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور :

صِبْغَةَ اللَّهِ ط وَمَنْ أَحْسَنُ  
اللَّهِ صِبْغَةً ط  
اللہ کا چڑھا یا ہوا رنگ اور اللہ سے  
بڑھ کر کون اچھا رنگ چڑھا سکتا ہے۔

کے ایک ہی خم سے سب کو رنگین بنایا ہے۔

اس لیے ہمارا بھی فرض ہونا چاہیے۔ کہ اتحاد و اتفاق کی جامع صورتوں اور محکم اصولوں کو اپنا دستور العمل بنا کر اخوت فی الدین کا پاک نمونہ دنیا کو دکھلائیں۔

سوم۔ اس کے بعد مسئلہ تجارت ہے۔ مشرق سے مغرب تک اسلام کی وسعت اہل اسلام کی تجارت سے ہوئی ہے۔ اور دنیا کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک صرف تجارت کے طفیل ہی یورپ کی قومیں جہاں کی مالک بن گئی ہیں۔ یہ دونوں نظریں بتلا رہی ہیں۔ کہ تجارت میں کس قدر دینی اور دنیوی فوائد ہیں۔ پس میرے نزدیک جہاں تک مسلمانوں سے ہو سکے، اپنے روپیہ کو تجارت میں لگانا اور قوم کے بچوں کو اس فن شریف کی جانب متوجہ کرنا برکات دارین کا موجب ہے

## دُعَا

اب میں دعا پر اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اور دعا سے پہلے سامعین کا شکر یہ جنہوں نے میرے خیالات پریشان کو ایسی بربادی سے سنتے رہنا گوارا فرمایا۔

اللَّهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا اَللّٰہی ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے



وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَأَهْدِنَا  
سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ  
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَدِّبْنَا  
الْقَوَاعِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  
بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَ  
أَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأُذُنَانَا  
وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ  
وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ  
لِنِعْمَتِكَ مُنْبِتِينَ بِهَا قَارِبِينَ  
وَأَنْتُمْ هِيَ عَلَيْهَا ط

اور ہمارے باہمی معاملات میں صلاحیت  
بھروسے۔ ہم کو سلامتی کے راہوں پر لیے  
چل، اور ہم کو اندھیروں سے نکال کر نور  
میں رہنے دے، الٰہی تمام اندرونی اور  
بیرونی برائیوں سے ہم کو بچا۔ الٰہی ہمارے  
دل، آنکھ، کان پر اپنی برکت نازل کر،  
ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے  
مبارک بنا، ہماری توبہ قبول فرما، بیشک  
توبہ کا قبول کنندہ صرف تو ہے۔ الٰہی اپنی  
نعمت کے ساتھ ہم کو شکر و ثنا کے ادا

کرنے کی توفیق بھی دے کہ ہم میں تیری نعمت کے قبول کرنے کی قابلیت رہے  
اور تو اپنے انعام و اکرام کو ہمارے لیے تمام فرماتا رہے۔

آمین یا رب العالمین

قاضی محمد سلیمان عفی عنہ

منصور پوری



# الاسلام فی الہند

یعنی

## ہندوستان میں اسلام کیونکر پھیلا؟

یہ رسالہ بھی درحقیقت قاضی صاحب موسوی کی ایک تقریر ہی ہے جو آپ نے  
۳۰ مارچ ۱۹۲۹ء کو انجمن اہل حدیث لاہور کے جلسہ پر ارشاد فرمائی تھی خطبہ مسنونہ  
کے بعد فرمایا:

بزرگان قوم:

۱۔ قریش مکہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی قبل از اسلام بھی ان کی تجارت دنیا  
کے اکثر متمدن حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے کارواں بموسم سرما ملک مصر اور بموسم گرما  
ملک شام میں اس طرح آیا جایا کرتے تھے جیسے کوئی کسان صبح و شام اپنے کھیت میں  
چکر لگایا کرتا ہے۔

اسی قوم کے اندر ایسے قافلے بھی تھے جو عرب سے اپنی تاناز تک اور عرب سے  
سوڈان تک پہنچتے اور مغرب و مشرق کی منڈیوں میں ادھر سے ادھر کا مال لالا کر دینا  
اپنی علم و ہمت اور انسانیت کا فرض سمجھا کرتے تھے۔

بائیل میں عرب کی تجارت کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ کتاب پیدائش کا بیان ہے کہ بوست علیہ السلام کو فلسطین سے مصر لے جانے والا قافلہ مدیانیوں ہی کا تھا۔ وہی مدیانی جو یثرب اسمعیل کے پہلو بہ پہلو آباد تھے اور جن کا امتیازی لقب بنو قنورہ بھی تھا (قنورہ خاتون حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری خاتون کا نام ہے)۔

قرآن مجید کی سورہ قریش میں بھی اہل مکہ کے انہیں کارناموں یعنی کاروانی فتوحات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

صحیح بخاری کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دعوت ہر قافلہ شاہ روم کو بمقام یروشلم دیا گیا۔ اس وقت بھی غیر مسلم قریش کا ایک قافلہ اطراف یروشلم میں موجود تھا۔ اور ہر قافلے نے انہی لوگوں کو دربار میں طلب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و سیر اور تعلیم و تلقین کے متعلق آزادانہ تحقیق کی تھی۔

مندرجہ بالا حوالجات سے میرا مدعا صرف یہ ہے کہ قریش کا قدیم العہد سے تجارت پیشہ ہونا واضح کر دیا جائے۔

۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء الراشدين المہدیین (از سلمہ ۱ تا ۴۰) جو خلافت نبوت کے شرف سے ممتاز ہوئے وہ بھی قریشی النسل ہی تھے۔ وہ اپنی اولوالعزم قوم کے نبض شناس تھے۔ نیز وہ اہل حلال کے لیے طیب ترین طریق تجارت ہی کو سمجھتے تھے۔ لہذا وہ تجارت کی طرف سے لاپرواہ نہ ہو سکتے تھے۔

امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے بلزارادوں اور بزرگ صحابی

کو دیکھ کر دو تہی منڈیوں کا قیام فرمایا: (۱) کوفہ (۲) بصرہ۔ ہمارے مضمون کا تعلق منڈی بصرہ سے بہت زیادہ ہے۔

اگر اس زمانے کا کوئی اعلیٰ ترین مدبر ہندوستان کے لیے عرب سے کوئی ایسا بیڑھا راستہ نکالنا چاہتا جس میں سمندر کا چھوٹے سے چھوٹا راستہ پڑتا ہو، اور اس آباد منڈی سے لے کر حرمین تک کا سارا راستہ ایک ہی قوم، ایک ہی مذہب اور ایک ہی زبان بولنے والوں کے قبضہ میں ہو تو وہ بصرہ کے سوا اور کسی مقام کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق نے انہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بصرہ کو اس مقام پر آباد کیا۔

عمر فاروقی میں عرب نے سمندر کو عبور نہیں کیا۔ تاہم بصرہ کی منڈی کو مرکز قرار دیتے ہوئے مسلمانوں نے مشرقی سائیبیریا تک کو اپنی جھولانگاہ بنانے میں خاصی کامیابی حاصل کر لی تھی۔

امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت کے آغاز ہی میں بحری بیڑہ بنانے کی فوری ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ ضرورت اضطراری بھی تھی۔ ان کو صحیح اطلاع مل گئی تھی کہ وہ یروشلم (بیت المقدس) جسے مسلمان عمر فاروقی میں خشکی کی راہ سے فتح کر چکے تھے، اب اسے بحری راستہ سے فوج کشی کر کے شاہ روم واپس لینا چاہتا ہے۔

امیر المومنین نے بحری بیڑہ قائم کیا۔ مکہ کا سابق بندرگاہ سعیدہ تھا۔ وہ تنگ اور جدید بیڑہ کے لیے غیر کفایتی تھا۔ اس لیے جدہ کو بندرگاہ بنایا۔ پھر مدینہ کے لیے بھی جدہ اور مصر کے درمیان ایک جدید بندرگاہ بخربز کی جواب بیبوع کے نام سے نامزد ہے۔ مدینہ سے بیبوع تک جو خشک راستہ ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناخظہ فرما چکے تھے۔

امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ بیڑہ تین ہی سال کے اندر ایک زبردست

بحری بیڑہ بن گیا۔ اس نے کریت اور مالٹا اور طرابلس مغربی کو (جہاں پر ہرقل اپنی بحری طاقت  
حجاز و فلسطین اور مصر کے تعلقاً فراہم کر رہا تھا) فتح کر لیا۔

بیڑہ کی کامیابی نے بحری سفائن پر دجلہ و فرات کا راستہ کھول دیا اور قریش  
کے بڑھے ہوئے ارادوں نے بصرہ سے سواحل ہندوستان کی طرف بحوار کا اعلان  
کا سلسلہ قائم کر دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے کراچی و سورت ہوتے ہوئے اپنے جہاز ملیباڑ تک  
لایا کرتے تھے۔ لہذا بہت سے مقام ان کے قیام و آرام کا نشیمن بن گئے تھے اور ان کے  
تعلقاً روز افزوں ترقی کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔

۳۳۔ ان جہازرانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور ان کی دولت و تمول کی  
واستان بھی مبالغہ کے ساتھ ملک میں پھیلنے لگی۔ حتیٰ کہ حکمران سندھ نے ان کو  
دق کرنا شروع کر دیا۔ ان پر بھاری بھاری ٹیکس لگائے اور ان کی کھلی تجارت پر بے جا ٹیوڈ  
کا اضافہ کیا۔ اور پھر یہ جو رو ستم بیان تک بڑھ گیا کہ کئی دفعہ جہازوں کو لوٹا گیا اور معزز تاجروں  
کو مزید جرمانہ و تاوان کے لیے مجبوس رکھا گیا۔ یہ واقعات عبدالملک اموی کے  
عہد سلطنت کے ہیں۔

عبدالملک بھی قریشی تھا۔ وہ تجارت کی قدر و قیمت کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا  
کہ اپنی قوم کے تاجروں کی اگر وہ حفاظت نہ کرے گا تو خود اس کا تخت معرض خطر میں  
آجائے گا۔ لہذا اس نے اپنے گورنر بصرہ و کوثر یوسف بن حجاج ثقفی کو تادیبی مہم روانہ  
کرنے کا حکم دیا۔

یوسف حجاج اگرچہ ظلم کا پتلا تھا لیکن امور خارجہ میں وہ زبردست مدبر تھا۔ اس نے  
حکام بن قاسم کو نہایت بہادر اور ساز و سامان سے نہایت مکمل لشکر کے ساتھ سندھ روانہ

کر دیا۔ اس شکر کشتی کا مقصد صرف تادیب اور بحری خطرات کو اسلامی تجارت کے سامنے سے ہٹا دینا تھا۔

محمد بن قاسم نے جابر راجہ کا ملک ایسی سرعت سے فتح کر لیا کہ اطراف و جوانب کی حکومتوں پر رعب چھا گیا۔ اس نے سب کے معاہدات کیے اور مفتوحہ ملک کا انتظام اسی قوم کے ہاتھ میں چھوڑ کر وطن کو واپس چلا گیا۔ جانے سے پیشتر اس نے ملتان کو مرکز اشاعت اسلام بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس مرکز میں آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا۔

عمر بن عبدالعزیز اموی نے جو نیک اور صالح حکمران اور مجدد و مانتہ اول کے لقب سے ملقب تھے، اپنی خلافت کے ایام میں حکمرانان سندھ کو دعوت اسلام دی، قرابین بھیجے اور اس نیک نیت بادشاہ کے فرامین نے سینکڑوں اشخاص کو ایمان اور عمل صالح کا آشنا بنایا۔

یہ جملہ واقعات پہلی اسلامی صدی کے ہیں۔ بحری تجارت کے کھل جانے کے بعد عرب تجارت کی آمدورفت جنوبی ہندوستان تک بکثرت ہو گئی تھی۔ انہوں نے مالابار کو تجارت نیز اشاعت اسلام کا مرکز بنایا، اور جزائر لکا دیپ و مالدیپ تک اسلام کو ایسی خوبی سے پہنچایا کہ وہاں کا راجہ بھی مسلمان ہو گیا۔

عرب سوداگر نو مسلمہ عورتوں کو اپنے فاندان کی خواتین کا درجہ دے کر ان سے ازدواج کر لیتے تھے۔ اور خوشی و قرابت کے نتائج اشاعت دین میں بھی مدد و معاون بن جاتے تھے۔ ان مسلمان تجارت سے ہندو ہمارا جگان گونا خوش رہتے تھے۔

(۱) اس لیے کہ ان کی تجارت بہبودی ملک اور ترقی مردم شمار ہی اور افریقی دولت کا سبب تھی۔

(۲) نیز اس لیے کہ یہ تجارت ملک کے اندرونی انتظام یا مراسم میں ذرا بھی مداخلت نہ کرتے تھے۔ طرفین کی یہ سلامت روی اسلام کو اس تواج میں زیادہ روشناس کر رہی تھی۔

۴۔ دوسری صدی ہجری میں اسلام جزیرہ سیلون تک اسلامی سیاحوں کے دم قدم سے پہنچ گیا۔ ایسے سیاحین میں شیخ شریف بن ملک اور ان کے برادر خورد ملک بن دینار زیادہ ممتاز ہیں۔ انہی کی ہدایت سے کراٹنگا نور کاراجہ مسلمان ہوا۔ اور مسلمان ہونے ہی حج کو روانہ ہو گیا اور عرب ہی میں واصل ہوا۔

اس کی آخری وصیت کی تعمیل اس کے جانشینوں نے پوری صداقت سے کی اور مسلمان مبلغین کو منگلور، بانگور، کتجر کوٹ وغیرہ میں تبلیغ کرنے اور مساجد بنانے کی اجازت دے دی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب موپلا قوم کے باشندے بھی داخل اسلام ہوئے تھے۔

۵۔ اس طرف کے دلچسپ حالات کو چھوڑ کر اب ہم شمال مغربی ہند کی سرحد کی بابت کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری کے شروع تک ہندوستان کے اس سرحدی علاقہ پر انشا عت اسلام کے آثار نمایاں نہ تھے۔ یہ سچ ہے کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد (۳۳ھ) میں اسلام کے قدم خراساں و آواراء النہر میں استحکام کے ساتھ جم گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ قابل کو بھی عبدالرحمن قریشی البیشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (المتوفی ۱۵۸ھ) نے (۳۳ھ) میں اپنی تبلیغ و انداز سے حلقہ بگوش اسلام کر لیا تھا۔ تاہم خاص حدود ہند پر اسلامی آثار ہنوز نمودار نہ ہوئے تھے۔ ۳۳ھ کے بعد اسلام بتدریج ان اقوام میں



پھیلتا رہا۔ جو آج بھی آزاد اقوام کے نام سے مشہور ہیں۔

خراساں سے آگے بڑھ کر اسلام غزنی میں پہنچا اور غزنی میں آل بسکتگین کی سلطنت قائم ہونے سے ان لوگوں کا مذہبی مرکز غزنی بن گیا۔

۴۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان آزاد قبائل پر ہمارا بہ لاہور کو اخلاقی سیادت یا نیچالی استحقاق حکومت حاصل تھا۔ ہمارا بہ نے ان آزاد قبائل میں اس مذہبی انقلاب کو اپنے پولٹیکل حقوق سے متناقض خیال کیا۔ اس نے اسلامی تحریک کو نابود کر دینا اور غزنی کو جو ان اقوام کا مذہبی مرکز بن رہا تھا فتح کر لینا ضروری سمجھا۔ جن ریاستوں کا لاہور سے اتحاد تھا انہوں نے بھی ساتھ دیا اور درہ خیبر کی راہ سے چڑھائی کر دی گئی۔ بسکتگین زندہ تھا۔ وہ اس جرات شکر کا مقابلہ کرنے کی نہ طاقت رکھتا تھا۔ اور نہ مقابلہ کے لیے کچھ تیاری کا موقعہ ہی ملا تھا۔ حملہ آور لشکر بلا تکلف اس سلسلہ کو ہی تک بڑھتا چلا گیا۔ جو بعد میں کوہ ہندوکش کے نام سے مشہور ہوا۔ بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ جرات کر غزنی کی تو خیر حکومت کو بلیا میٹ کر دے گا اور اپنے دلی ارادوں کے موافق پوری کابیلی کے ساتھ واپس ہو گا۔ لیکن آسمانی برکت۔ و تگرگ نے حملہ آور قوی دشمن پر حملہ کر دیا۔ ان افواج نے کبھی ہند و تگرگ سے جنگ نہ کی تھی لہذا ہزاروں مارے گئے، ہزاروں بیکار ہو گئے، سیکڑوں قید ہو گئے۔ ان میں خود راجہ بھی شامل تھا۔

بعد ازاں راجہ کے ساتھ معاہدہ صلح کیا گیا اور تاوان جنگ کا تعین ہوا، اور راجہ کو لاہور جانے کی اجازت دی گئی۔ اور چند افسر و زبار غزنی سے وھرنی تاوان جنگ کے بیسے ہمراہ دیے گئے۔ دارالسلطنت میں پہنچ کر راجہ نے معاہدہ کو ردی کاغذ کا پرزہ قرار دیا اور ان افسروں کو قید کر لیا۔

یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں میں ہندوستان کا رخ کرنے کے لیے جوش پیدا ہوا  
وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اپنے قیدیوں کو آزاد کر سکیں۔ اور حملہ آور دشمن کے  
حملوں کا انداد بھی ہو جائے۔ تاریخ ہندوستان میں اس حرکت کا نام محمود کا پہلا  
حملہ لکھا گیا ہے۔

دربار غزنی اپنے حملہ کی صحت کو باور کرتا تھا۔ وہ اپنے افسروں کو قید سے پھرانا  
اخلاقاً و قانوناً فرض سمجھتا تھا اور فریقِ ثانی کہ معاہدہ پر پابند کرنا اپنی حیات و ممت  
کا مسأہ جانتا تھا۔ لہذا وہ ایسے جوش سے بڑھے جو براہِ راست کرنے والوں میں مفقود  
تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے افسروں کو بھی رہا کر دیا اور ان جنگ  
بھی وصول کیا اور معاہدہ شکن راجہ کو گدی سے اتار دیا۔ اور اسی کے خاندان کے قریب  
ترین شخص کو مسندِ حکومت پر بٹھلا کر واپس چلا گیا۔

۱۔ محمود کے دوسرے حملوں کی نسبت کچھ لکھنا اس مضمون کی حدود سے باہر ہے۔  
لیکن جو طالب علم واقعاتِ تاریخی کو اسباب و علل کے اسباب پر منحصر سمجھتے ہیں انہیں  
یہ بتا دینا ضروری ہے کہ آج تاریخ نگاری کے لیے یہ فنِ اصل الاصول بن گیا ہے اور  
ہر ایک محقق اسی اصول پر چلتا ہوا صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اول  
ایک فہرست ان حکمرانوں کی تیار کر لی جائے جو محمود کے حملہ اول میں شامل تھے نیز ایک  
فہرست ان حکمرانوں کی بھی تیار کر لی جائے جو محمود کے پہلے حملہ کے وقت حکمران لاہور کی  
ادراد کے لیے آئے ہوئے تھے ہر دو فہرست کو سامنے رکھ کر وہ غور کریں کہ غزنی کا کوئی  
حملہ بھی ہے جس میں ان اہل اتر و منحد میں کا تعلق نہ ہو۔

۲۔ الغرض یہ پہلا موقع تھا کہ یہ شمال مغرب کے ہندو مسلمانوں سے اور سرحد پر

کے مسلمان اس روئے دریائی انڈس کے باشندوں (ہندوؤں) سے واقف ہوئے  
 دونوں قوموں کی آمدورفت کے لیے شاہراہِ اعظم کھل گئی۔ اور اس شاہراہ کو لاہور  
 اور غزنی کے دربار نے استعمال کیا یہی سڑک تجارت پیشہ ہندوؤں اور افغانوں کے  
 لیے بھی کھل گئی۔ ہندوؤں کے بہت سے خاندان تجارت کے لیے سرحد پار گئے اور  
 آج تک ان کی بقایا و باقی موجود ہے۔

اسی طرح مسلمانوں کی شریف ترین نسلیں کے سینکڑوں خاندان پنجاب میں  
 آئے اور آباد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان شریف اقوام کی آبادی پنجاب میں بمقابلہ  
 دیگر عوام بجات بڑھی ہوئی ہے۔ باہمی تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام اسی علاقہ میں  
 پھیل گیا۔

۹۔ ہم نے محمد بن قاسم کے تذکرہ میں ملتان کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم یہ بتانا  
 چاہتے ہیں کہ محمود کے سب حملے ہندوؤں کے خلاف نہ تھے۔ ملتان پر اس کا حملہ ایک  
 مسلمان کے خلاف تھا۔ کیونکہ قرامطہ نے ملتان کو اپنی بدعات کا ایزد خلیفہ کے خلاف  
 بغاوت کا مرکز بنا رکھا تھا۔

ان تھوڑی بجات نے اسے ایک متحضر کو پتہ لگ جائے گا کہ محمود کے حملوں سے  
 پہلے ملتان اور ملتان میں اور سرسبز اور مدرا سر کے موبائل پر اسلام پھیل چکا تھا۔  
 اور بنگال سے سرانڈیپ تک اشاعت اور سونے کا کام کامل اور حقیقی تھی۔ شش کے ساتھ  
 ہو رہا تھا۔

۱۰۔ اس قدر حوالجات کے بعد اندرونی ملک میں اشاعت اسلام کی وجوہات  
 کا معلوم کر لینا بائبل سے آسان ہو جاتا ہے۔

دردِ خمیر کی شرک سے جو ہندوؤں اور مسلمانوں نے حملہ کے لیے تیار کر دی تھی، داعیانِ اسلام بھی ترکستان، غزنی، ہرات، کابل، بخارا و ایران سے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے اپنے اعلیٰ اوصاف، برترین اخلاق، صداقت اور دیانت سے وہی درجہ حاصل کر لیا جو اس ملک کے باشندگان کے دل میں معززہ جوگیوں، سنیاسیوں، باکمال پنڈتوں اور مرتاض زابدوں کا تھا۔

مناسبت مقام سے میں اس جگہ چند بزرگوں کا جو داعیانِ اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں، ذکر کروں گا:

الف: سنام میں ایک پیر صاحب معروف ”پیر نابھوی“ کی قبر ہے، یہاں کے مجاوروں کا بیان ہے کہ یہ صاحبِ حضرت شریفِ زندنی کے خلیفہ تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ان کے ورود کا زمانہ بالضرور محمود سبکتگین کے حملہ سے پیشتر ہے۔

ب: مخدوم علی بھویری رحمۃ اللہ علیہ جو عوام کی زبان پر داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ لاہور میں پانچویں صدی میں پہنچ گئے تھے۔ اور ان کی تبلیغ سے پنجاب کے نو مسلموں کا سلسلہ دامان کوہ شوالاک اور ملتان تک پہنچ گیا تھا۔

ج: سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین غوری کے حملہ اول سے پیشتر آئے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے لاہور میں ٹھہر کر تبلیغ کو بہت زیادہ وسعت دی تھی۔

د: شیخ بہاؤ الدین ملتانوی جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، بدعات و امطہ کے زائل کرنے اور اسلامِ حقہ کی اشاعت میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔

۵ : سید معین الدین حسن بخاری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۳۲ھ) وہ  
بزرگ ہیں جنہوں نے یوپی، راجپوتانہ، دکن، بہار میں تنظیم کے ساتھ سلسلہ  
تبلیغ کو شروع کیا۔

۶ : اُن کے مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ربیع  
الاول ۶۳۵ھ) دہلی میں اور خود خواجہ صاحب اجمیر میں اس تنظیم کی نگرانی  
کرتے تھے۔

۷ : قطب صاحب کے خلیفہ بابا فرید شکر گنج فاروقی (المتوفی ۶۶۸ھ) نے  
پاک پٹن کو اپنا مرکز بنایا اور اپنے تین مشہور خلفاء کو تین مشہور مقامات میں بھیجا کر  
خواجہ بزرگ کے طریق کو محکم اور مضبوط کیا۔

(۱) حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں۔

(۲) مخدوم علی ساہر رکھی میں

(۳) قطب جلال الدین صاحب صوبہ آگرہ میں

۸ : سلسلہ نظامیہ میں سید محمد نسیر دراز وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دکن میں بھیج کر پونا کو  
اسلام سے روشناس کرایا۔ اور سید یحییٰ منیر نے اودھ کو اسلام کا پیرو بنایا۔  
ان بزرگوں اور ان کے اشیاء دیگر بزرگان دین کو بعض اوقات مسلمان  
بادشاہوں کی بدگمانی کا ہدف اور متلاشے مسائب بھی ہونا پڑا۔ لیکن اللہیت  
نے ساتھ اس کام میں مشغول رہے۔

ط : مخدوم جہاں جہانیاں گشت کے کارنامے آج تک سکھ زمین کو یاد ہیں۔

ی : کاشمیر میں اشاعت اسلام سید علی ہمدانی اور درویش بیل شاہ کی خدمات کا

نتیجہ ہیں۔

۵ : بہتر ہے کہ ایک حشتم دید شہادت بھی لکھ دوں۔ شیخ عبداللہ صاحب نو مسلم ولد دیوان  
کوئی مل صاحب اپنی ذاتی تحقیقات سے مسلمان ہوئے اور ہزاروں روپیہ کے  
مکانات و اراضیات زرعی و سکنی اور حقوق کو جو ریاست نا بہ اور پٹیا لہ میں ان کو  
حاصل تھے ترک کیا اور پھر اشاعت اسلام میں کمر بستہ ہو گئے۔ مرحوم مذہبیا  
اہل حدیث تھے۔ ان کے کام میں بدعتی لوگ بھی خارج تھے تاہم ۲۴ سال تمام  
تبلیغ کرتے ہوئے مرحوم نے یکم رمضان ۱۳۱۵ھ کو انتقال فرمایا۔ رحلت سے  
پیشتر قریباً ۷۵ خاندانوں کو مشرف باسلام کر چکے تھے۔ اللہم اغفر لہ وادعہ  
۱۱۔ اب اس مضمون پر غور کرنے والے کو مکرر توجہ کرنا چاہیے کہ بصرہ سے لانا با  
وسراندیپ تک کا علاقہ اسلام سے مستفیض ہو رہا تھا اور ہندوستان میں اسلامی حکومت  
کا قیام اس سے تقریباً پانچ صدیوں کے بعد ہوا تھا۔

اسلام بنگال اور مدراس میں ترقی پذیر تھا۔ اور یہ علاقہ اس وقت ہندو خود مختار  
حکمرانوں کے ماتحت تھا۔ اور یہ مسلمہ ہے کہ اس طرف کوئی مسلمان حملہ آور نہ پہنچا تھا۔  
بنگال اور مدراس میں اسلام نہ صرف رعایا ہی میں دل پسند ہو رہا تھا بلکہ ہندو  
راجے خود بھی متعدد مقامات پر مسلمان ہوئے تھے اور اس بے تعصبی اور آزادی رائے  
کے ساتھ کہ مسلمان راجہ کا جائز جانشین ہندو رہ کر اس کے بعد سند آرائے حکومت  
ہوتا تھا۔

جب دعوت کی تاثیر اور اشاعت کے حالات حسب صراحت بالا ہیں، تو نتیجہ  
صاف ہے کہ پنجاب اور یوپی میں اشاعت بھی انہی اصول پر ہوئی، اور یہ اشاعت

مسلمان بادشاہوں کی عنایات کی ہرگز رہین منت نہیں خصوصاً جبکہ ملتان سندھ کا مرکز بنا ہوا تھا اور عرب سے آنے والوں کے لیے یہی راستہ تھا ہرگز اعظم تھا جو سندھ ملتان، بھٹانہ، حصار ہوتا ہوا دہلی کو جانا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اسی سڑک سے سفر کیا تھا۔

۱۲۔ حقیقت یہ ہے، اور اس اظہار حقیقت میں تاسف بھی شامل ہے کہ ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے خالص اسلامی خدمات کو سراہنا ہی نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ تخت کے جھگڑوں میں منہمک رہتے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف سازش و تباہی میں مستغرق رہنا اپنی فرزانگی کی دلیل سمجھتا تھا۔

۱۳۔ ہاں نتیجہ صاف ہے کہ جب اسلام ہندوستان سے اوپر اور پور بنگال، تانار اور منگولیا کے راستے سے تبت میں اور بحری راستے سے بنگال و آسام تک پھیل گیا، تو وسط ملک میں اس کا پھیل جانا بھی ضروری تھا۔

۱۴۔ پنجاب میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں سید، مغل، چچان، انصاری، شریقی اقوام زیادہ آباد ہیں۔ اور یہ وہ اقوام ہیں جن کا ہندوستان کے سابقہ باشندوں سے حساب و نسب کوئی لگاؤ نہیں اور جس نے دنیا کے ہر ایک مشہور مذہب یہودی، عیسائی، بودھ، صابئی، دہریہ، آزاد خیال، بت پرست اور توہم پرست، سیم آدی سے بہتر دماغوں اور پاکیزہ دلوں پر قبضہ کیا۔ تو اب اس دین کی نسبت یہ سوال کہ ”ہندوستان میں کیونکر پھیلا“ اگر مبنی براستعجاب ہے تو غلط ہے۔ اور اگر مبنی براستفسار ہے تو اس کا صحیح جواب موجود ہے کہ قدرت ربانی نے اس دین کو فطرت انسانیہ کے مطابق بنایا ہے۔ اور اسی لیے ہر ایک ملک اور ہر ایک

مذہب کا شخص جب اسلام کو سمجھ لیتا ہے تب اس کی فطری بناوٹ اور طبعی موافقت اس مذہب کے قبول کرنے میں ہادی راہ بن جاتی ہے۔

ہندوستان کی چند شریف اقوام کے حالات پر غور کرو جو داخل اسلام ہوئی ہیں۔ ازاںجملہ راجپوت ہیں۔ یہ خیال کہ لالچ یا دھمکی یا دباؤ اس شریف قوم سے ان کا پیلا پیارا مذہب ترک کر سکتا تھا بالکل لغو ہے۔ یہ لوگ بہادر ہیں، جان باز ہیں، بات کے پکے، ہٹیلے مضبوط اور انجام سے لاپرواہ۔ ان کے لیے کسی لالچ یا دھمکی سے کسی بات کا قبول کرنا عار اور برتر از نار رہا ہے۔ خصوصاً عمداؤ لیس میں جو ان کے داخلہ اسلام کا وقت ہے۔

ازاںجملہ برہمن ہیں۔ اس قوم کا ہر ایک بچہ ہندو اقوام پر مذہبی حکومت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ وہ روز پیدائش سے ایسے ممتاز حقوق کا مالک ہوتا ہے جو کسی دوسری قوم کو اس ملک میں کسی طرح حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ کسی برہمن کا ان جملہ حقوق اور امتیازات کو نیہ باد کہہ دینا اور قبول اسلام کے ساتھ ساتھ عامۃ المسلمین کی سطح مساوی پر کھڑے ہو جانا ضرور ایک زبردست دلیل ہے۔

ازاںجملہ کھتری ہیں۔ کھتری ہمیشہ راستی کے لیے لڑنا رہا ہے۔ مہا بھارت کی لڑائی صرف مظلوم پانڈوؤں کی امداد اور سختی کے لیے تھی۔ اس قوم کو بزدلی کا الزام نہیں دیا جاسکتا۔ بایں ہمہ ان کی تعداد اسلام میں ہزاروں لاکھوں پر ہے۔

دلیل بالا کو جس قدر زیادہ طول سے بیان کرنا مطلوب ہو بیان کیا جاسکتا ہے یہ طول نہ صرف غیر طول ہی ہوگا بلکہ حسن قبول کی محاسن سے آراستہ بھی۔ مگر یہاں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اختصار مد نظر ہے۔ لہذا اس دلیل کو بھی ناممکن چھوڑ کر کچھ اور بیان کیا جاتا ہے۔



۱۷۔ نہایت وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ آغاز اشاعت اسلام کے وقت ہندوستان کی اندرونی حالت کا اقصاء ہی یہ تھا کہ یہ ملک تعلیم اسلام سے شناسا بن جانے کے بعد پروانہ وار اس کی تجلیات کا شہدائین جائے۔ ذرا غور سے سنو:

ہندوستان کی کتب تاریخ سے جو خود ہندو کے فاضلوں نے تحریر کی ہیں، یہ ثابت ہے کہ جنگ مہا بھارت کے بعد ہندوستان کے قدیم علوم و فنون بالکل ٹیامیٹ ہو گئے تھے۔

مذہب صحیحہ اور اس کی کتب کو امتداد و سہرنے معدوم کر دیا تھا۔ یہ زمانہ یقیناً حضرت مسیح سے سوا ہزار یا ڈیڑھ ہزار سال قبل تھا۔ یعنی اسلام سے دو ہزار سال پیشتر کا زمانہ ہندوستان میں ظلمت بسیط کا زمانہ تھا۔ لہذا اس ملک میں کروڑوں بستیاں روحانیت کے لیے صدیوں سے نشہ و گرسنہ تھیں۔

مہاتما بدھ کی تعلیم کا پیکارگی ہندوستان میں پھیل جانا اسی وجہ موجب پر مبنی تھا کہ ملک کو پہلے سے صداقت کی ضرورت یا تلاش تھی۔ یہ تعلیم جلد پھیلی اور جب اس تعلیم کے تیار کردہ بھکشوؤں کا بوجھ ملک نہ برداشت کر سکا تو اسی سمرعت کے ساتھ ملک سے باہر بھی نکل گئی۔ پھر اس کی جگہ ویدانت مت نے حاصل کر لی۔

ویدانت مت آغاز میں اس لیے بدھ ازم پر غالب آ گیا کہ بدھ ازم میں خالق کائنات کے عرفان کے متعلق نشافی بیان موجود نہ تھا۔ اور وہ ملک ہند جو ہزار ہا سال سے ایک برترین مہنتی کو اپنا چلا آیا ہو وہ اس سے قطعی شعروعی پر سہ نہیں کر سکتا تھا۔

مختصر سے عرصہ کے بعد ویدانت مت بھی رہ گیا۔ کیونکہ اس کے اصول اور اصول

مذہب باہم تضاد م تھے۔ نیز ہر شخص کا یہ احساس کہ وہ خود ہی "ایکو بہیم" ہے اسے اخلاقی  
 و مذہبی ذمہ داریوں سے ایک حد تک سبکدوش کرنے کا سبب بن جاتا تھا۔

اس مت کے فیصل ہو جانے کے بعد عام طور پر ملک میں وہ جیسا سوز مت نکل آئے  
 جن کے گناہ نام اور نفرتی کام مصنف ستیا رتھ پر کاشش نے تفصیل کے ساتھ  
 قلمبند کیے ہیں۔

ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک ذی ہوش انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ  
 اسلام نے ضرورت شدید کے وقت اپنا مبارک سایہ ہندوستان پر ڈالا۔ اسلام ہی  
 نے ملک سنبھالا، اسلام ہی نے آزادی علم اور آزادی رائے اور مساوات کے اصول  
 سے لوگوں کو روشناس بنایا، اور اس کا نتیجہ یقیناً اشاعت اسلام تھا۔

۱۸۔ صوبہ مدراس و بنگال میں خصوصاً اور سارے ہند میں عموماً جو قابل نفرت  
 سلوک اچھوت اقوام کے ساتھ مرعی تھا، اس کے مقابلہ میں اسلام نے اخوت کو پیش  
 کیا، اور ہر ایک نو مسلم کو قدیم الاسلام کے برابر برابر بٹھلایا۔ لہذا اسلام بہت جلد  
 مقبول خلافت ہو گیا۔

۱۹۔ سستی بنائے جانے کا طریقہ اور بیوہ و راند عورتوں کو دوسرے بواہ سے  
 محرومی قریباً نصف آبادی کی طرف سے زبردست استغاثہ پیش کر رہی تھی۔ اسلام  
 ہی نے ان کی داد رسی کی۔

۲۰۔ پتھر کی مورتیوں کے ساتھ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کا بیاہ جانا ان کی انسانی  
 زندگی کو تباہ کرنے والا تھا۔ اور ان کے لیے اس تباہی سے بچانے کا ذریعہ صرف  
 اسلام ہی تھا۔

۲۱۔ چندال، واس، شورور کروڑوں کی تعداد میں تھے۔ اور یہ سب کے سب مذہب کے پاک احکام کی تعلیم میں علوم سے بے بہرہ، ہدایات اور فیوض مذہب کے بے خبر، اور شاستروں سے نا آشنا تھے۔ ان کے امراض قلب کی دوا اسلام ہی تھا۔ اور اسلام ہی نے ان کے لیے جملہ مدارج انسانی میں ارتقاء کا دروازہ کھول دیا۔

۲۲۔ برہمن کا نرگ و سرگ پر قبضہ تھا۔ وہ مرنے والے کی روح کو نرگ میں دھکیل دینے یا سرگ میں پہنچا دینے کا واحد مالک بنا ہوا تھا۔ اس طاقت کو نقد و جنس، عورت اور جائیداد کے عوض میں فروخت کیا جاتا تھا۔ لہذا لاکھوں اشخاص کی حمیت و غیرت اس کے خلاف تھی اور وہ اپنی اس حالت کے سدھار کے لیے سخت بے قرار تھے۔ اسلام ہی نے ان سے غمگساری و ہمدردی کی۔

مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو اسباب روہن کا مخصوص ملک ہیں سے مذہب پر اسٹنٹ کے ظہور پذیر ہونے کے تھے۔ وہی اسباب شریف اقوام ہندوستان کے لیے اسلام میں داخل ہو جانے کا سبب ٹھہرے۔

۲۳۔ اسلام میں روحانیت کا ایک ایسا بلند درجہ ہے کہ جب صداقت کے طلب گاروں، سنیاسیوں، جوگیوں اور نجاتی روح کے متلاشیوں کو اس کی خبر لگ گئی تو وہ بے اختیار غائب ہو کر اسلام بن گئے۔ وہ فیوض و انوار و برکات جو ان کو بن باس یا جوگ سے بیسیوں سال کے اندر حاصل نہ ہونے لگے، گھر بیٹھے ہی مل گئے۔

۲۴۔ اسلام ایسے اقبال و دولت اور زیب و زینت کے ساتھ جلوہ گر ہوا کہ دولت و اقبال کے قدیموں نے فوراً اس کا استقبال کیا۔

۲۵۔ مسلمانوں کا شکرات سے اجتناب، حقوق ہمسائیگی کی نگہداشت،

داد و ستد میں دستی معاملات، پابندی عمود، قوانین معدلت گسٹری کی حفاظت ایسے روح پرور نظارے تھے کہ ہر ایک پاکیزہ منش دیکھنے والے کو تہ دل سے اسلام کی برتری کا اعتراف کرنا پڑتا تھا۔

۲۶۔ ہارون رشید کے عہد سے لے کر خاتمہ حکومت عباسیہ تک دروان پندتوں کی آمد و رفت بغل ذنک جاری ہو گئی تھی۔ دربار میں دنیا بھر کے عالم، ہر مذہب کے محقق، معقولی، منقولی، طبیعی، فلاسفر، مؤرخ، اصولی بکثرت موجود رہا کرتے تھے۔ افادہ و استفادہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان پندتوں کا علم، ان کی ودیاء، ان کی حق پسندی انہیں محاسن اسلام کا شیدائی بنا دیتی تھی۔ اور پھر وہ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوتے تھے۔


۲۷۔ بحرین پر اسلام کا قبضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد ہمایوں میں ہو گیا تھا اس علاقہ کے پہلے حکمران ابو العلاء حضرت جی رضی اللہ عنہ تھے۔ بحرین درر شہوار کی مشہور منڈی تھی اور موتیوں کی تجارت کرنے والے ہندو تاجر قدیم العہد سے اس منڈی میں پہنچا کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں سے ملتے۔ مسلمانوں کے اخلاق و مذہب کے متاثر ہو کر داخل اسلام ہو جاتے۔ اور یہی تحفہ شاہانہ اپنے برادران ملک کے بھی لایا کرتے تھے۔

۲۸۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی تائید میں بیسیوں تاریخی واقعات بیان کیے جاسکتے ہیں۔ یا جن کی نظائر میں دیگر ممالک کے حالات بطور شہادت پیش کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس جگہ مقصود صرف ایک مختصر تقریر کا سامعین کے سامنے بیان کر دینا ہے نہ کہ بالاستیعاب اس موضوع خاص پر کسی مبسوط کتاب کا لکھنا۔ ہم نے اس مختصر تقریر میں سوچنے والے دماغ اور تمیز کرنے والے قلب کے سامنے ایسی وجوہات کو جمع کر دیا ہے

جن پر وہ پورا غور کر سکتا ہے۔ اور اس غور کے بعد ”اسلام فی الہند“ کے عنوان پر بھی صداقت اور انصاف کے ساتھ فیصلہ دے سکتا ہے۔

ان شاء اللہ کسی فرصت کے وقت میں اس مضمون پر ذرا تفصیل سے بھی لکھ سکوں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

ندیم صحبت ارباب دانشم کہ درو  
دقیقہ ہائے سخن بر اشارہ سے گردو



احقر

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری

# پیام اسلام

یہ قاضی صاحب مرحوم کا وہ خطبہ صدارت ہے جو آپ نے صوبہ متوسط کی پراونشل تبلیغ کانفرنس (سیونٹی سی اپنی) میں ۷ اپریل ۱۹۲۵ء کو ارشاد فرمایا۔ اور جمعیت مرکز یہ تبلیغ الاسلام کی طرف سے شائع ہوا۔ مگر چونکہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس لیے اسے رسائل عشریہ میں شامل کر لیا گیا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

یا اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تو ہی آسمانوں کا اور	اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كُتُوبُ
زمین کا جو مخلوق ان کے اندر ہے ان سب کا تو ہے	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
ہاں حمد کا مالک تو ہی ہے تو ہی آسمانوں کا اور زمین کا	فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ
اور جو مخلوق ان کے اندر ہے ان کا قیام بخشنے والا ہے	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
ہاں حمد تیری ہی ذات کے لئے ہے۔ تو ہی آسمانوں کا اور	وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
زمین کا اور سب مخلوق کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے،	وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ
پروردگار ہے ہاں حمد کی خصوصیت تجھ ہی سے ہے۔	الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ
تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیرا کلام حق ہے جنت	حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
حق ہے تیری لقا حق ہے۔ نار حق ہے۔ قیامت حق ہے	وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّارُ
اور جملہ انبیاء حق ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق	حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ حَقُّ اللَّهِ لَكَ  
 أَسَلْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمِنْتُ  
 وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ  
 حَاكَمْتُ فَأَعْقِدْ لِي مَا قَدَّمَ مَنِّي وَمَا أَخَّرْتُ  
 وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ إِنَّتَ الْمُقْتَدِمُ  
 وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ  
 لَا إِلَهَ غَيْرُكَ -

ہیں۔ الہی میں تیرے سامنے گردن جھکاتا ہوں تجھ پر توکل  
 کرتا ہوں۔ تجھ پر ایمان رکھتا ہوں تجھ سے رجوع رکھتا ہوں  
 تیری ہی مدد سے بھگڑتا ہوں تجھ ہی کو اپنا فیصلہ سپرد کرتا  
 ہوں۔ الہی جو کچھ میں نے پہلے بھیجے کیا جو چھپا کر کیا جو اعلانیہ  
 کیا سب ہی بخش دے۔ اے سب سے پہلے اے  
 سب سے بعد رہنے والے تو ہی مجھ کو ہے اور کوئی  
 نہیں تیرے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں

اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَبِيبٌ مَّجِيدٌ ط اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ  
 وَصَلَّى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ  
 حَبِيبٌ مَّجِيدٌ ط

برادران ملت و برادران انسانیت! میں دور سے آپ کی خدمت میں حاضر  
 ہوا ہوں۔ اس لیے سفر سے میرا مقصد نہ شوق سیاحت ہے نہ اجاب کی ملاقات، نہ کسی تاجر بنی  
 و جغرافی حقائق کی تفتیش نہ آثار قدیمہ کی دریافت وغیرہ وغیرہ، وہ جملہ وجوہات جو کسی شخص کو  
 اس کے وطن سے جدا کرنے والے سمجھے جاسکتے ہیں۔ میرا سفر ان سب سے قطعاً الگ ہے۔

### یہاں تک آنے کا قصد

صاحبان! میں صرف ایک پیغام لے کر آیا ہوں اور میری زندگی کا سب سے بڑا ارادہ  
 یہ ہے کہ میں اس پیغام کو انخوان دین اور اپنائے وطن کے گوش حق نبیوں تک پہنچا دوں۔  
 جب آپ یہ سمجھ گئے ہوں کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں تو بد اہتر اس کے معنی یہ ہیں کہ

میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا بلکہ کسی دوسرے کا بھیجا ہوا ہوں اور کسی دوسرے کی بات سنانے کو آیا ہوں۔

### پیغام رسائی میرا مقصد ہے

صاحبان! یہ پیغام وہی ہے جو سب سے پہلے اس نفیم بچہ نے دو ہزار قش کی بلندی پر سنا تھا۔ جس نے عنقوان شباب ہی سے اپنی زندگی کو کائناتِ الجہ پر فکر کرنے کے لیے، اور مالکِ کائنات کا ذکر کرانے کے لئے وقف کر دیا تھا۔

### نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات قبل از نبوت

اس کا سب سے پیارا مشغلہ یہ تھا کہ سنسان وادی کے ایک پہاڑی ٹیلہ پر جس کا راستہ سخت دشوار گزار تھا جا بٹھٹنا، احتسابِ نفس کرتا، اکل و شرب سے بے نیاز ہو کر اپنے دل و دماغ اور روح کے لئے غذائے روحانی خویش درخیز من جمیع کیا کرتا تھا۔

وہ اپنے مساعی میں کامیاب ہونے لگا۔ اسے جمادات و نباتات کی روحی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے زمین و آسمان کے اندر رملکوئی جنویات کو موجود پایا۔ اسے وہ تمام مخلوق جو دنیا کی نگاہ میں بے حس اور بے جان شمار ہوتی ہیں۔ قدرتِ عظیم کے قبوض سے احساساتِ کامل اور ایمانیاتِ اعلیٰ کی مظہر نظر آنے لگی، وہ پتھروں کا بولنا سنتا، وہ پرند اور چرند کی بولیوں کو سمجھتا، وہ نواہیں قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کیا کرتا تھا۔ ایک انسان کے لیے اگر وہ حد انسانیت کی ارتقاء کا طالب ہو یہ مشاہدات اور انکشافات حقیقتِ فخر و مباهات کے موجب ہیں۔ اس لیے لازم تھا کہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھ کر اسی جگہ ٹھہر جاتا مگر اس کا دل ایک ایسا سمندر تھا جسے دنیا کے دریاؤں کا پانی بھی پھر پور نہ کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔



اب اس کی تلاش عالم مادہ اور مادیات سے بلند کھنی اس پر ایک نور جلوہ گم ہوتا ہے۔  
 نور سے اپنے احاطہ میں لے لیتا ہے۔ وہ آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں نور کو دیکھتا ہے  
 اسے اپنے ایک ایک رگ، ایک ایک پٹھے، ہیں خون کی طرح نور جاری اور ساری نظر  
 آتا ہے۔ نور ہے اور بڑھ رہا ہے۔ نور ہے اور نورائیت میں ترقی کرتا جاتا ہے۔  
 لیکن یہ حالت بھی اس شخص کی گرسنگی کو کم نہیں کر سکی یہ حقیقت بھی اس کی گم گشتگی  
 طلب کی منتہا نہ بن سکی۔

### پیام کا ملنا

تب وہ اس پیغام سے مشرف کیا جاتا ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ وہ  
 اس کلام سے مخاطب کیا جاتا ہے جو اس شخص کی طرح خود بھی بے مثال ہے۔  
 پیارے سامعین! حیرت کو خیر باد کہیے اور صاف لفظوں میں سن لیجیے کہ یہ شخص کون  
 ہے؟ ہاں سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ ذات گرامی ہے جن کے  
 واقعات قبل از نبوت کا ذکر اشارات میں کیا گیا ہے۔

میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیام اپنے مولیٰ، اپنے ہادی، اپنے مرسل سے  
 سنا وہی انہوں نے دنیا کو بھی سنایا، بحر و بر اور خشک و تر کے رہنے والوں کو اسی پیام  
 سے آگاہ کیا۔

### پیام سنانے کی دُشواریاں

آہ! پیام کا سنانا کیا ایسا ہی آسان تھا، جیسا کہ آج میرے لیے ہر طرح کی آسانی  
 حاصل ہے۔ میں ایک مہذب مجمع میں کھڑا ہوں۔ سب کی مہربانی سے کرسی صدارت  
 سے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہوں، حاضرین کی طرف سے اطمینان کلی ہے کہ خواہ ان میں سے

کوئی مجھ سے اتفاق رائے نہ بھی رکھتے ہوں تاہم میں ان کی زندگی سے مامون و مصنون ہوں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عوام کا برتاؤ

مگر جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیام سنانا پڑا تھا تب  
حالت ایسی نہ تھی۔ اسی پیام کی وجہ سے اپنے پیگانے بن گئے تھے، اقرار ہے عقارب

کا چولہ بدل لیا تھا۔ ابو لہب سگا چچا تھا۔ سارا سارا دن حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہتا،

اور ہر جگہ حضور کے رُودر رُود یہ مناد ہی کیا کرتا کہ لوگو! ہمارے خاندان کا یہ تو جوان دیوانہ ہو

گیا ہے۔ اس کی بات نہ سنی جائے۔ حضور اسے کچھ بھی جواب نہ دیتے بلکہ خود رُودر رُودر کہتے

ہیں اور عرب کے مشہور مشہور قبائل اور ان کی نسبتوں کا نام و نشان دریافت کرتے ہوئے

ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا پیغام سناتے ہیں۔

قبائل جہاں تبلیغ کی گئی

(۱) بنو عامر بن صعفہ (۲) محارب (۳) خزرج (۴) غسان (۵) مرہ (۶) بنو حنیفہ (۷) سلیم

(۸) عبس (۹) بنو نصر (۱۰) بکاء (۱۱) کنندہ (۱۲) کعب (۱۳) حورثہ بن کعب (۱۴) غنم (۱۵) حصار

یہ وہ قبائل ہیں جو مختلف شعوب اور فحاذ پر محتوی ہیں ان کی آبادی لاکھوں تک

پہنچتی رہی، ان سب کے پاس یہ نفس نفیس تشریف لے جاتے، گالیاں، دھمکیاں

کھاتے تھے۔ ایک چکر کے بعد دوسرا چکر پھر اسی طرح لگانا شروع کر دیتے تھے،

عرب کے مشہور میلے عکاظ، حبنہ، ذوالحجاز تھے جہاں سالانہ منڈیاں لگا کرتی تھیں۔

نمائش عام ہوتی تھی۔ لوگ کھیل کود، لہو و لعب کے لیے، مشاعرہ و مفاخرہ کے لیے

جایا کرتے تھے۔ اور حضور کا مقصد صرف پیام رسانی ہوتا تھا۔

کبھی ٹھنڈے پہاڑوں پر جاتے اور پیام سنانے کے عوض میں پیچھے کھاتے۔ تمام سکر

انورخون سے شہر ابورہو جاتا۔ کبھی ساحل سمندر کی طرف نکل جاتے۔ ہر ایک کو اپنا ہی پیغام سناتے۔ جواب میں دیوانہ، مجنوں، شاعر و ساحر کے کلمات سنا کرنے تھے حضور کی ان انتھک کوششوں نے دشمنوں کو مارنے مارنے، گالیاں بکتے بکتے تھکا دیا تھا۔ مگر حضور اپنے کام میں اسی طرح سرگرم تھے۔ اب حضور کے خلاف کمیٹیاں ہونے لگیں کمیٹیوں کی تباہی کیا ہوتی تھی۔

### حضور کے خلاف کمیٹیاں اور ان کی تباہی

(۱) جیل کی کوکھڑی میں بند کر دیا جائے، دروازہ نیچہ کر دیا جائے۔ اندر ہی اندر بھوکا، پیاسا سکتا ہوا خود ہی مر جائے گا۔

(ب) خارج از وطن کر دو، پھر کبھی عرب میں اور وطن میں نہ آنے پائے

(ج) جو کوئی اس سے ملنے والا ہو، اسے پر اداری سے خارج کر دو، ناطہ، رشتہ

بند، خرید و فروخت بند، بات چیت بند خود ہی عاجز آجائیں گے۔

(د) قتل کر دو، جھگڑا ختم کر دو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی شخص ہمارے خلاف قتل کا مقدمہ

چلا سکے گا، سرگرم نہیں قتل میں ایک ایک قبیلہ کا ایک ایک نوجوان شامل کر دیا جائے

چند وارث سارے ملک کے سامنے کیا کریں گے۔ ان نوجویوں کی اطلاع حضور ۴

تک پہنچتی ہے۔ مگر حضور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے ملک کی حسین

تربین عورت اس کے سامنے پیش کر دو۔ کوئی کہتا ہے بڑی سے بڑی رقم نقد بیت کی شکل

میں اسے دے دو، اچھا اسے اپنا حکم نبایا منظور کر دو، حضور کے سامنے بڑے بڑے

خرانٹے بڑھے بیسزبان دکھاتے اور حضور اسی طرح اپنے کام میں لگے ہیں۔

## مبلغین کی جماعت

حضور کی صداقت آخر اپنا پھل لاتی ہے۔ مخلصین کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ جو حضور کی اجازت سے اسی پیغام رسائی کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیتی ہے۔

ناظرین! کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دشواریوں کا تعلق صرف نبی اکرم کی ذات منقر سے ہی تھا۔ نہیں، ان مخلصین کے مصائب بھی بہت زیادہ تھے۔

## عامر رضی اللہ عنہ

عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دربار میں بھی پیغام ستانے لگے۔ عقب سے ایک نیزہ باز آتا ہے اور ایسا تیز لگاتا ہے۔ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑتا ہوا جگر سے پار ہو جاتا ہے۔ یہ گرتے ہیں اور گرتے گرتے زبان سے نکلتا ہے **حُرَّتِ دَرَبِ الْكَعْبَةِ**  
رب کعبہ کی مجھے سو گند ہے      مل گیا مجھ کو میرا دل بند ہے

## خبیب الانصاری رضی اللہ عنہ

خبیب بن عدی انصاری (اور ان کے نو ہمراہیوں) کو استناد بنانے کے بہانے لے جایا جاتا ہے، آٹھ گوراہ ہی میں قتل کر دیا جاتا ہے اور دو کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خبیب کو بھی فروخت کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے خرید لیا انہوں نے قتل ہی کے لیے خرید لیا۔ کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور بالآخر شہر سے باہر لے جا کر پھانسی کی لکڑی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ نیزہ بردار آگے بڑھتے ہیں۔ نیزوں کی آبی سے ان کے جسم کو چھپنی بتانا شروع کرتے ہیں۔

ایک سنگدل پوچھتا ہے۔ کہو خبیب! اب تو تم بھی چاہتے ہو گے کہ تم چھوٹ جاؤ

اور تمہاری جگہ محمد (صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم) بچتے جائے۔

یہ سنتے ہی وہ جوش میں آجاتے اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں:-

”واللہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے عوض حضور کے پائے

مبارک میں گھر بیٹھے ہوئے بھی ایک کانٹا چھب جائے“

میں اس فتنی الفتنان اور شیر نیر بران کے وہ اشعار بھی سنانا چاہتا ہوں جو انہوں

نے پھانسی کے نیچے جا کر حسب حال فی البدیہہ کہہ دیے تھے۔ اللہ اکبر! پھانسی، اور

شاعری، مگر یہ جلوہ صرف محبت ایمانیہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ یہ استقلال یہ ثبات صرف

اسی میں پیدا ہو سکتا ہے جو **النُّوْتُ جَسْرٌ يُوَصِّلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ** موت وہ پل ہے

جو پیارے کو پیارے سے ملا دیتی ہے، پر یقین رکھنا ہو۔

**خَلِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** فرماتے ہیں:-

**لَقَدْ جَمَعُوا الْأَحْزَابَ حَوْلِي وَالْبُؤَىٰ قَبَائِلَهُمْ وَأَسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعٍ**

فوجیں میرے گرد جمع ہیں۔ انہوں نے قبائل کو بلا لیا ہے اور مجھاری جمع ہو گیا،

**وَقَدْ قَرَّبُوا آبَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقَرَّبْتُ مِنْ جَنْدٍ طَرِيبٍ مِّنَعٍ**

انہوں نے زن و فرزند کو بھی بلا لیا ہے۔ مجھے لمبے کھجور کے ٹنڈ کے پاس لے آئے ہیں

**وَكُلُّهُمْ بِيَدِي الْعَدَاوَةَ جَاهِلًا عَلَىٰ كَاتِبِي فِي وَثَاقِي بِمَصْبِعٍ**

یہ لوگ بڑھ بڑھ کر اظہارِ عداوت کرتے اور میں قتل گاہ میں بند ہوا ہوں۔

**وَقَدْ عَرَضُوا بِالْكَفْرِ الْمَوْتَ دُونَكَ وَقَدْ أَرَفْتُ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ صَدَائِعٍ**

یہ لوگ میرے سامنے کفر کو پیش کرتے ہیں۔ مگر اس سے تو مر جانا بہت سہل ہے۔ میری آنکھیں

اہل آئی ہیں۔ مگر ان میں آنسو نہیں۔

وَمَا بِي حِينَ ارْتَدَّ بَنِي لَيْثٍ وَلَكِنَّ حِدَارِي حَرًّا نَارًا قُلِقَمَ

مجھے موت اور مرجانے کا ذرا غم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بڑھ سکتی ہوئی آگ سے ڈرنے والا ہوں۔

إِلَى اللَّهِ أَشْكُوا مِمَّا بَدَأْنَا كَرِهُنَا

ہیں اپنی غریب الوطنی کا، اپنی مصیبتوں کا، اور ان ناپاک ارادوں کا جو میری لاش کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوں۔

فَمَا وَالْعَرَشِ صَبْرِي عَلَىٰ مَا أَصَابَنِي

مجھے ان مصیبتوں پر خدائے عرش نے صبر عطا فرمایا ہے میری بوٹیاں توڑ رہے ہیں اور میری امید کم ہے۔

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مَسْلَمًا

ہاں! جب میں اسلام پر مرد ہا ہوں تو مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں موت کس پہلو پر ہوگی۔

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَأَنْ يَشَاءَ

ہاں! اللہ پاک جیسے تو یہ اس کی قدرت کے اندر ہے کہ وہ میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے

### مبلغ اسلام ابن مسعود رضی اللہ عنہ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے مشکل

خدمت کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ منکرین تک پیغام پہنچانا۔ یہ اس خدمت کے لیے

ہنسنے، ہنسنے اچھے گل خنداں بن کر گئے تھے اور لالہ تار بن کر واپس آئے۔ ان کو زور

کو ب سے اتنا ہولناک کر دیا تھا کہ اجباب میں بھی مشکل سے شناخت ہوئے۔ مگر یہ مرد

خدا مار کھاتے جاتے تھے اور سورہ "ق" سناتے جاتے تھے۔ جب تک اس پہنچا لیں

آیتوں والی سورہ مبارکہ کو ختم نہیں کر چکے۔ چپ نہیں ہوئے۔

الفرض سے یارانِ مجلس! اسے محبانِ مخلص! میں بھی وہی پیغام سنانے کے لیے  
یہاں تک حاضر ہوا ہوں۔

وپیغام صداقت التزام یہ ہے۔

دین الہی اسلام ہے

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اِس کے ہاں جس دین کو دین ہونے کی

(آل عمران - ۱۹) منزلت حاصل ہے وہ اسلام ہے۔

کیسے امرِ عظیم ہونے کی اطلاع ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔

اس میں دنیا سے، اہل دنیا سے، صاحبانِ عقل و فراست سے، مالکانِ نظام

سیاست سے، ہادیانِ ملت سے اور حامیانِ انسانیت سے دریافت کرنا ہوں کہ کیا

انہیں اس دعویٰ کی صحت میں کچھ شک ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟

اسلام اور تسلیم کے معنی

سنو! سنو! لفظ اسلام کا روٹ یا مادہ یعنی و ذین حرفت جو زبانِ عرب میں مصدر

کہلانے میں لفظ "سلم" ہے۔ اور سلم کے معنی زبانِ عرب میں "امن" "صلح" اور "محبت" ہیں

خود کلامِ اللہ میں اس مصدر کا انہی معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے۔

أَدْخَلُوا فِي السِّلْمِ كَأَنَّمَا

البقرہ: ۲۰۷) امن عامہ میں داخل و شامل ہو جاؤ۔

پہلی بات یہی غور طلب ہے کہ کسی دین و مذہب کے پاس ایسا پیارا نام بھی ہے

دنیا بھر کے ادیان و مذاہب کے نام گنتے چلے جاؤ۔

یہودیت، عیسائیت، یا انہماکیت، سناتن دھرم آریہ، زرتشتی و غیرہ وغیرہ

## مختلف مذاہب اور ان کے نام

یہودی: یہود بن یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ اس شاخ میں فلسطین کی حکومت مذکور تک جاری رہی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کے دوسرے گیارہ بیٹوں کی اولاد بھی خود کو اسی شاہی نسل کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے یہودی کہلانے لگی۔

عیسائی: حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے نام کی طرف اور نصرانی حضرت مسیح کے گاؤں ناصرہ کی طرف نسبت کا اظہار ہے۔

سنان دہرم یا مذہب قدیم: کسی قدامت تاریخی کے ظاہر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آریہ کے لفظ پر مورخین نے علمی بحث کی ہے۔ ایزج اور ابران کے ساتھ ان کا سلسلہ قدامت جاملتا ہے۔ ہرشی دیاندر سرتی جی نے سرسوتی کی ندی سے جسے گجرات پنجاب کے مغرب میں بتایا ہے انیپال کی مشرقی ندی تک اور سمندر تک کے رقبہ کا نام آریہ درت رکھا ہے۔ یہاں کے شریعت باشندے آریہ ہیں۔

زرشتی: حضرت زرتشت کی طرف منسوب ہیں۔ ان ملکی اور شخصی نسبتوں پر غور کرو کہ اصل مذہب کا نام کسی کے پاس موجود نہیں۔

## اسلام کا نام اور کام

اسلام اپنے لئے خود اپنا نام رکھتا ہے۔ اور اس کا نام ہی اس کا کام بتاتا ہے۔ "صلح عام" "امن محکم" "محبت تام"۔

اسلام کے یہ لغوی معنی بتلاتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین ایسا ہی ہونا چاہیے۔

اب میں جملہ برادران انسائیت سے سوال کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی مقدس کتابوں



سے "دین" کی تعریف نکال کر دکھائیں۔ خود ہم کو ذرا تامل نہیں کہ جو تعریف اللہ کے پسندیدہ  
دین کی ہم کو اللہ کے کلام میں بتلا دی گئی ہے۔ وہ سب سے پہلے سب بھائیوں کو سنا دین

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ      وہ فطرت اور سرشت اور نچر جس پر اللہ تعالیٰ نے

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِيَخْلِقَ اللَّهُ      جملہ نوع انسانی کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی خلقت

ذَلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمُ وَذَلِكَ      میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی فطرت کا نام دین محکم

اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ      ہے۔ افسوس انسانوں کا بڑا طبقہ اس ان سے بے علم ہے

### دین الفطرت اور دین الہی

ذرا ان آیات پر غور کرو و تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر، مجمع میں احباب کا شور مئی بنا کر غور  
کرو کہ جب تمام مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اور دین صحیحہ بھی جو بہترین مخلوق یعنی انسانوں  
کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کا دین ہے۔ تو ان دونوں میں باہمی اتحاد قوی اور اتصال شدید  
اور انجذاب کلی پایا جانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو سمجھو کہ وہ دین فطرت انسانی سے کوئی مطابقت  
نہیں رکھتا اور جس دین کی مطابقت فطرت انسانی سے نہیں۔ وہ دین الہی کہلانے کے  
شایان نہیں۔

مجھے میرے وطنی بھائی بتلائیں گے کہ اتنا زبردست اصول، اتنی صحیح کسوٹی خود

ان کے مذہب نے بھی ان کو بتلائی ہے؟

اگر نہیں تو اس پیام کی صحت میں ذرا بھی شبہ نہ رہا کہ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران: ۱۹) اللہ کا پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہی ہے

دعوت اسلام جملہ ادیان کے اصول پر ہے

بھائیو! میرے دین نے محبت اور صلح کی تعلیم دیتے ہوئے جملہ اصناف بشر کو دعوت

عام دی ہے۔ اور اس دعوت عام کو خود انہی کے مسلمان پر قائم و مستحکم فرمایا ہے۔

### پارسیوں سے خطاب

پیارے پارسیو! تم آگ کی عزت کرتے ہو، سورج کی عزت کرتے ہو، سمندر کی عزت کرتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ تم نے روشنی، طاقت اور جوش کو عزت کے قابل سمجھا ہے۔ ہاں! یہ اصول بُرا نہ تھا۔ لیکن کیا وہی روشنی حقیقتاً روشنی کہلائے گی جس کے قائم رکھنے کے لیے خود تم کو لگڑی اور گھی خریدنا ہوتا ہے جس کی حفاظت کے لئے تم کو ملازم رکھنے پڑتے ہیں تمہارا ادنیٰ سا تغافل اسے موت کی بھوبل میں سلا دیتا ہے۔

ادھر آؤ! اسلام آپ کو نور باطن سے روشناس کرے گا۔ اسلام تم کو نُور السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے حضور میں لے جائے گا۔ اسلام کا اتباع تم کو دَجَلْنَا لَهُ نُورًا یُبْشِرُ بِهِ فِي النَّاسِ (انعام: ۱۵۷) کا مصداق بنا دے گا۔

### عیسائیوں سے خطاب

اے عیسائیو! اے مسیحو! کیا تم اللہ کے راستباز مسیح تعلیم کے شیدائو۔ اگر یہی ہے تو ان عقائد کو چھوڑ دو جو حضرت مسیح سے تین صدیوں کے بعد کونسلوں نے بنائے شروع کیے اور سلطنت نے اس کو منوانے کے لیے اپنے زور و سطوت سے کام لیا۔ اے بھائیو! ان رسوم کو بھی ترک کر دو جن کو قسطنطین اعظم نے اپنی مشرک رعایا کو خوش رکھنے کے لئے عیسائیت میں شامل کر دیا تھا۔

### کونسلوں کی اصلاحات

اگر ان زورید کو چھوڑ دو گے۔ تو آپ کو تثلیث، کفارہ، تجسد الوہیت، اور صلیب پرستی کا بودا پن خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ صادق مسیح کی سچی تعلیم تم کو مل جائے

گی۔ اور مسیح کا آخری وعظ جو یوحنا کی لائوتی انجیل کے باب چہارم میں موجود ہے تمہاری رہبری کرے گا اور تم کو روح الحق کے دربار میں پہنچا دے گا اور تم صداقت کی وہ ساری تعلیم حاصل کر لو گے۔ جسے جناب مسیح اپنے شاگردوں کے عدم استعداد کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے تھے۔

### .. یہودیوں سے خطاب

اے یہود! کیا تمہارے فخر و مباحات کا موجب تورات ہے۔ بے شک تورات تو ایسی ہی کتاب تھی جس پر فخر کیا جاتا۔

لیکن کیا اس کتاب کو نجات نصر نے ۵۸۶ء قبل مسیح جلا نہیں دیا تھا۔

کیا ایسی کتاب کے اس نسخہ کو بھی جسے زکریا علیہ السلام وحی کا سن کی یادداشت

سے تیار کیا تھا۔ اور اس تو کس چہارم کے حکم سے ۱۶۶ء ق م میں جلا ڈالا تھا۔

تو اب موجودہ کتاب کی اصلیت کی شہادت کیا باقی ہے۔

موجودہ تورات کے پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بیسوں صحیفے اس کے اندر

موجود ہیں جن کے حوالجات یہ موجودہ تورات دے رہی ہے۔

### توراة و پروشلیم کا انجام

اے یہود کیا آپ کو پروشلیم کی مقدس عمارت پر فخر ہے۔ بیشک یہ چیز فخر کے قابل

تھی۔ لیکن کیا کتاب سلاطین میں آپ نے وہ حکم نہیں پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام سے

چالیس سال کے بعد ہی اس عمارت کو رب العالمین نے مردود فرما دیا تھا کہ آپ کو ابھی

تک اپنی اعلیٰ نسل کا غرور باقی ہے۔ کیا یسعیاہ نبی کی کتاب میں آپ نے وہ حکم نہیں

پڑھا کہ خداوند نبی اسرائیل کی دم اور سر کو کاٹ ڈالے گا۔

میرے پیارو! اب آپ کے واسطے صرف ایک راہ نجات باقی ہے وہ راہ نجات  
 تم کو توراہ کی کتاب استشہاد کے باب پانزدہم میں بتلا دی گئی ہے۔ اس باب کی آیات  
 ۱۵ تا ۱۸ پڑھو اسمعیلی نبی پر۔ اور کلام اللہ لانے والے نبی پر ایمان لے آؤ، پھر تم دو ہر حصہ  
 لینے والے بن جاؤ گے۔

### ستانن دہرمیوں سے خطاب

اے ستانن دہرمیوں! کیا آپ کو اپنی قدامت پر ناز ہے۔ ہاں کچھ مضائقہ نہیں،  
 قدامت فی الواقع مایہ ناز ہے لیکن اس قدامت کی مدت کا کبھی تعین بھی کیا گیا۔  
 اسلام نے تو اپنی قدامت کی تاریخ زمین و آسمان کی پیدائش سے لی ہے۔ کلام  
 اللہ میں ان کے اسلام کی اطلاع قَالَتَا آئِنَّا طَائِعِينَ کے الفاظ میں دی گئی ہے  
 اے ستانن دہرمیوں! آپ نے موثرتی پوجن کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اسے  
 ایتراپی تصور کا ذریعہ بتلایا ہے۔ کیا اس تصور کا درجہ کبھی بلند بھی ہوا۔ کیا اس دھیان  
 کا نتیجہ عرفان بھی ہوا۔

میرے پریمیو! علم منطق، تصور و تصدیق پر مشتمل ہے۔ اگر ہزاروں سال تصور کے  
 تصور میں آپ نے صرف کر دیے ہیں تو ذرا اسلام کی طرف آئیے جو آپ کو منصب  
 تصدیق تک پہنچائے گا اور اللہ ہی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کے حقائق کا  
 گیانی بنا دے گا۔

### آریہ صاحبان

اے بلند خیال آریاؤ! وید کی جو ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ اس پر کبھی غور کیا  
 ہے۔ پہلے ستم (سام) پھر تیر، پھر رگ اور سب سے آخر اٹھاروں کو بیان کیا گیا ہے۔

پہلے تین ناموں میں سے کسی نے کسی کو پہلا، کسی نے دوسرے کو پہلا بنایا ہے۔ غرض خواہ پہلا، دوسرا، تیسرا کہہ ٹی ہو۔ مگر ان میں ترتیب زمانی موجود ہے اور انہوں نے کسی سے آخری ہونے پر تو بڑے پنڈتوں اور شیعوں کا اتفاق ہے۔

سارو ایسی ترتیب زمانی بتلا رہی ہے کہ ویدوں کی موجودہ اکاش یا فی سینکڑوں سالوں کا ذخیرہ ہے۔

اگر اس ترتیب زمانی پر غور کر لیا جاتا تو ان جہاں بھگوانت سماویہ کا آپ انکار نہ کرنے پر جو زمانہ کی ترتیب سے بیکے بعد دیگرے دنیا میں نازل ہوئے رہے ہیں۔

اے علم دوستو! کبھی آپ نے کسی وید سے اس منزل کی تلاش کبھی کی ہے جس میں ایشور اور روح اور مادہ کو قدیم بتلایا گیا ہے۔ اگر اس بارہ میں کوئی صاحب منتر نہیں ہے۔ تو آپ نے اس شکر سے علیحدہ ہونے کی سعی کیوں نہیں کی؟

### الو آپ نشد

اے علم کے دوستو! کبھی آپ نے انہوں نے وید کے ”الو آپ نشد“ پر بھی غور کیا ہے۔ دیکھو! اس میں اسلام کا کلمہ طیبہ موجود ہے۔

اگر آپ تحقیقات کرتے تو دو میں سے کسی ایک نتیجہ پر ضرور پہنچ جاتے۔

درا وید ایشوریا ہی ہے اور ایشوری نے ہزاروں سال پیشتر کی اصلاح ہم کو اس الو آپ نشد میں دی ہے۔ یہ تحقیقات آپ کو دنیا کی سب سے بڑی موجود قوم کا عبثی بھائی بنا دیتی۔

ب) یا یہ فقرہ الحاقی ہے۔ اگر وید میں الحاق کرنا ممکن ہے اور عمل میں آچکا ہے تو

قابل غور یہ ہے کہ دیگر حصص کی صحت کا یقین کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

## ہما پھارت میں الحاق

مہرشی دیانند سرتی جی نے بتلایا ہے کہ ہما پھارت میں ہیں نہ ہرا اشوک جعلی شامل کر دیے گئے ہیں۔

پیارو! وید کے متعلق بھی تحقیقات کرنا چاہیے۔ اور جس قدر الحاقی کلام اس میں الود اپنشد کی طرح شامل ہو گیا ہو، اسے نکال دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہند پر بس مہی خود اس الحاقی کلام کی اشاعت اصل کے ساتھ ساتھ کرے۔

اگر امتداد زمانہ کی وجہ سے اصل اور الحاقی کلام کی شناخت کا کام دشوار ہو گیا ہے یا ناممکن و محال کے درجہ تک پہنچ گیا ہے تو اسلام آپ کو آکاش بانی کی وہ کتاب پیش کرتا ہے جس کی صفت یہ ہے

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ  
باطل کی شمولیت نہ زمانہ نزول میں ہوئی اور نہ  
کسی مابعد زمانہ میں ہوگی۔

جس کی بابت خود صاحب کلام کا ارشاد موجود ہے۔

وَلَا تَأْتِيهِ لَظْمٌ وَلَا خِفْظٌ ط  
اس کتاب کی حفاظت اللہ پاک خود رکھے گا۔

## بودھ ازم سے خطاب

اے بدسہت! جہاں تاگو تم کو وہ کو ماننے والو! آپ کی غربت مزاجی ہسکین طبعی مسلم کیا آپ دنیا کے سامنے جہاں تا بدھ کی سیرت کو بطور نمونہ پیش کریں گے۔ کیا آپ متمدن دنیا کو بھی تعلیم دیں گے کہ جوان بوی اور شیر خوار بچہ کو چھوڑ کر بن باسی ہو جائیں، اور اس پیکر محبت کے سکھ، دکھ کا کبھی خیال بھی نہ کریں جس نے ساری عمر اسی گمشدہ شوہر کے فراق میں تڑپ تڑپ کر کاٹی تھی۔ اپنے جگر گوشہ کو ہمیشہ کے لیے اسی حسرت و اربان میں

غرق رکھیں کہ اگر وہ اپنے پتا کو دیکھ لیتا تو وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح پتاجی کہہ کر اپنی  
آتما کو سکھ پہنچا سکتا۔

اے رحم کا وعظ کہنے والو! سب سے قریب تر کو رحم سے محروم کرنا کس اصول  
پر مبنی ہے۔

اے دنیا سے بھاگنے والو! اپنی بھکشا کے لیے دنیا داری کے دروازے پر  
روز روز ننگے سر، کشکول بدست ہو کر جانا، دروازے کے ساتھ چپ چاپ کھڑے  
ہو جانا اور اس وقت تک کھڑے رہنا، جب تک بھکشا کا آٹا کشکول میں نہ پڑ جائے  
کہاں کا اصول ہے؟

اے دکھ اور سکھ کو جیت لینے والو! تم بھی روزانہ گداگری کے دکھ میں گرفتار ہو۔  
تم نے ابھی تک بے فکری کا نام سکھ سمجھا ہوا ہے۔ اسلام کی دعوت سنو! وہ تمہیں جسمانی  
دکھ و سکھ کا بے حقیقت ہونا بتلائے گا۔ وہ روحانی دکھ اور سکھ سے تم کو باخبر کرے گا۔  
وہ بشارت عظمیٰ کا تم کو مصداق و مورد بنائے گا۔ وہ تم کو اس پاک، مقدس، برترین،  
ہستی کا ایمان و ایقان عطا کرے گا جس کی بابت مہاتما گونم سوال کا جواب دینے سے  
کنارہ کش رہے۔

آہ! میں کب تک کس بھائی کا نام لے کر اسے بلاتا رہوں گا، وہ سب سے پہلے  
پیغام لانے والا، وہ اسلام کی ہدایت کرنے والا تو اپنی بابت اور کل مخلوق کی بابت پر  
پیغام حاصل کرتا ہے۔

رسالت عامہ و نامہ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِئْتُ بِالْبُرْهَانِ الَّذِي كَذَّبْتُمْ عَنْهُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اسے مشرق والوں، اسے مغرب والوں، اسے سیاہ، سفید، زرد اور سائلی رنگت والوں اپنے مختلف مذاہبوں اور مختلف طبیعتوں والوں اپنی مختلف بولیوں اور لغات کے بولنے والوں، خواہ تم ملکی، قومی، اختلافات، رسوم اور زبان کے اختلافات، تمدن، بدوبیت کے اختلافات، اپنے اندر کتنے ہی زیادہ معلوم کر رہے، اور اپنے اختلافات کی وجہ سے اپنے کو دوسرے سے الگ الگ، جدا جدا، پونہ اور اچھوت، برہمن اور شورور، ہندی و فرنگی، سیامی و چینی وغیرہ نام سے موسوم کر رہے ہو۔ لیکن اس میں کچھ شک نہیں اور کسی کو بھی جہائے انکار نہیں کہ تم سب کے سب ایک چیز میں متحد ہو جاتے ہو۔ ایک بن جانے ہو۔

وہ چیز کیا ہے؟

”انسائٹ“

کہتا میں سب کو اسی انسائٹ کے واحد رشتہ میں منسلک کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں سب کے پاس ان کے خالق کا، ان کے رازق کا، ان کے مالک کا، ان کے پالنے والے کا پیغام لے کر آیا ہوں۔

تم نے اس مالک کی بابت کچھ معلوم بھی کیا ہے۔ وہی آسمانوں کا خدا ہے۔ وہی زمین کا خدا ہے۔ روحانیت و مادیت سب اسی کی مخلوق ہے۔ وہی مسجود ہے وہی معبود ہے اور اسی عزیز مقتدر کا پیام میرے پاس موجود ہے

انکار اسلام انکار انسائٹ ہے

اس پیام سے انکار کرنا انسائٹ سے انکار کرنا ہے اور ابید ہے کہ ابھی تک آپ



اس پست درجہ تک نہیں پہنچ گئے۔

اے انسانوں! اے منشو! اے انسان کہلانے والو! میں دنیا کے کسی بزرگ کی توہین کرنے کو نہیں آیا، میں کسی صداقت کی تکذیب کرنے کو نہیں آیا میں کسی حق کے باطل کہنے کو نہیں آیا۔

### اقراط و تفریط میں اعتدال

بلکہ سب صداقتوں کی تصدیق کرتے ہوئے، سب صداقتوں کو راست باز مانتے ہوئے ان خندقوں کو بھر دینے کے لئے آیا ہوں، جو لوگوں نے انسانیت کی بتا رکھی ہیں۔ اوپنچ نیچ کے دعاوی کے قلعے پست کر دیے جاویں گے، تکبر اور غرور کی دیواروں کو پیوند خاک کر دیا جاوے گا۔ تمام انسانوں کو انسانیت کی سطح واحد پر کھڑا کر دینا، رسم و رواج اور رنگ و زبان کے بتائوں کو دور کر دینا، ملکی و قومی منافرت کو دفن کر دینا میرا کام ہوگا۔ میری رسالت کا مقصد ہے کہ سب کے دماغوں میں ایک ہی ولولہ سب کے دلوں میں ایک ہی جوش، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہو۔ اور سب کی پیشانیاں ایک ہی آستان پر رکھی ہوئی ہوں

اللہ اکبر! اس پیارے داعی، اس محبوب داعی کا پیام کتنا زبردست تھا۔ ایسا پیام دنیا نے کبھی نہ سنا تھا۔ اور جس شوق اور انگ کے ساتھ دیتا ہے اس پیام پر کان لگائے، اور دل جمائے وہ نظارہ بھی کبھی آفتاب و ماہتاب کی آنکھوں نے دیکھا نہ تھا۔

زند و پاژند و دساتیر کے لئے، وید و شاسترا اور پوران کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کی پکار پر اور عیسیٰ نبی اللہ کی دعوت پر انہی کے ملک اور انہی کی قوم کے سوا کسی نے کان بھی نہ لگائے۔

مگر سیدنا و مولینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر حبشی، نوبتی، سوڈانی، افریقی، رومی، ایرانی، فلسطینی، خراسانی، شامی، مصری، حجازی، حضرمی، نجدی، یمنی اچھڑکھڑے ہوئے اور دربار محمدی کے خدام میں بیٹھ گئے۔ لوگوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات پر عبور کم ہے۔ ورنہ ان کو مذکورہ بالا ممالک کے رہنے والے صحابہ کے اسماء مبارکہ بخوبی معلوم ہوتے۔ میں تو اختصار کے پیش نظر لکھتے ہوئے صرف حوالجات پر اکتفا کر رہا ہوں۔

ہاں ان مختلف ممالک سے آنے والوں میں مذاہب متعددہ کے لوگ شامل ہیں: یہودی، عیسائی، پارسی، دھرمیہ، بت پرست، آزاد خیال، مذاہب کے تعدد کے سوا ان لوگوں کی حیثیات بھی متنوع ہیں مستقل سلطنتوں کے بادشاہ اپنی اپنی ریاستوں کے فرماں روا، دول عظام کے گورنر ڈوائسراٹے، کشور کشایان نامور، شاعران سحر بیان، حکمائے وفلاسفہ، تاجروں، سپاہی، مزارع، زمیندار، آزاد، غلام، لونڈی، خاتون کیا دنیا کا کوئی مذہب اپنے ہادی، اپنے امام، اپنے نبی، اپنے مہرشی کی کامیابی کا ثبوت ان تین طریقوں سے پیش کر سکتا ہے۔

میرے معلومات اور مسموعات مجھے بتاتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ لہذا اس پیام کی بڑھری اور پیام آور کی عظمت تمام دنیا کے سامنے اظہر من الشمس ہو جاتی ہے پیارے مسلمانوں! میں کب تک باہر والوں سے مخاطب رہوں گا۔ اور آپ کب تک اپنی گذشتہ عظمت کے واقعات سن سن کر حظ وافر سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔

مجھے دریافت کرنے دیجئے کہ خود مسلمانوں نے اس پیام کے متعلق کیا کیا۔

کیا مسلمانوں سے مراد عہد حاضرہ کے مسلمان ہیں۔

سنو، سنو! سیدنا و مولینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دنیا سے فانی کو چھوڑنے سے تین ماہ تین یوم پیشتر ایک لاکھ چوالیس ہزار برگزیدہ لوگوں کے سامنے جن سے بہتر اس وقت روئے زمین پر اور کوئی موجود نہ تھا۔ یہ فرمایا تھا۔

بَلِّغُوا عَنِّي وَاَوْ آيَةً ۝ میری طرف سے تبلیغ کرتے رہنا خواہ ایک ہی

فقہہ کی ہو، خواہ ایک ہی آیت کی ہو۔

سوچنا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو اس پر عمل کیا۔ لیکن کیا ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور (قداہ ابائنا و اہبتنا) نے ہم کو حکم دیا تھا۔

فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الشَّاهِدَ ۝ موجودہ لوگ آئندہ نسلوں تک اسی پیغام کو

اسی طرح پہنچاتے رہیں

کیا ہم نے آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا کوئی سامان کیا ہے۔ اگر نہیں کیا۔ تو رسول

پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جبیب رب العالمین سے اپنی شفاعت کے لئے کس طرح گزارش کر سکیں گے

معشر المسلمین! اب بھی وقت ہے اور قبریں جانتے سے پیشتر پیشتر کچھ غفلتوں

کی نلافی ممکن ہے۔

حضرت سلطان الہند درج

کیا آپ حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ سید معین الدین حسن سنجرہی اجمیری رحمۃ

اللہ علیہ کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی ممالک کو چھوڑ کر اجمیر

جیسے کفرستان میں ایسے وقت پہنچے تھے جب کہ مسلمان کے سایہ پڑنے سے زمین کے ناپاک ہو جانے کا عقیدہ یہاں کے لوگوں میں راسخ تھا۔ ایک درویش ایک بے زر، بے سرمایہ، اللہ کے نام پر توکل کر کے بیٹھ گیا۔ اور بڑے بڑے بوگیوں، پٹنوں، ریشیوں کو کفشت بردار اسلام بنا گیا۔

### پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ

کیا آپ حضرت شیخ الاولیاء، سید باصفا، شیخ عبدالقادر جیلانی المحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سے کچھ استفادہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ڈکیتوں، رنہروں، جرائم پیشہ لوگوں کو منقہ و عالم و خدا ترس بنا دیا۔

### سیدنا امام حسین علیہ السلام

کیا آپ سبط رسول امام ہمام ابو عبد اللہ حسین علیہ السلام کے انوار سے کچھ اقتباس کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے دین حقہ کی تبلیغ کے لیے بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجوں ہوا خواہوں، خیر اندیشوں کو خاک و خون میں گرتے دیکھنا پسند کیا۔ مگر ظلم و طغیان کے سامنے ذرا گردن کو خم نہ کیا۔

### سیدنا بلال رضی اللہ عنہ

کیا آپ مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے استقلال و ہمت کو اپنا نصب العین بنا سکتے ہیں۔ گھوڑے کی طرح ان کے منہ میں لگام پہنائی گئی، کوڑے لگائے گئے، دشت و جبل میں پھرایا گیا۔ لیکن انہوں نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر تماشائیوں کو، ناواقفوں کو، راہگیروں کو اللہ احد ہی کا نام سنایا اور اسی کے اسم اعظم کی تبلیغ فرمائی۔

### ابو جندل رضی اللہ عنہ

کیا آپ ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ کے عزم راسخ اور شوقی کامل سے کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے کفار مکہ کی قید شدید میں تبلیغ کا کام زنداں میں جاری رکھا تھا اور ستر، اسی لوگوں کو نازہنم سے رہائی دلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔

### سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ

کیا آپ مقری صادق اور مبلغ کامل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔

یہ ماں باپ کے لاڈ لے، ناز پروردہ تھے، تمام زندگی عیش و تنعم میں پوری کی تھی۔ ان کے یمن پر دو سو روپیہ سے کم کی پوشاک کبھی دیکھی نہ گئی تھی۔ باہر نکلتے تو رہوار پر سوار، آگے پیچھے غلاموں کی قطار، اسلام کے بعد ان تمام نمائندوں سے بیزار ہو گئے۔ کیبل کا ٹکڑا بول کے کانٹوں سے بیاہوا کندھے پر ہوتا تھا۔ اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی بزرگوار مدینہ منورہ میں قبل از ہجرت مبلغ اسلام بن کر گئے تھے۔

### ایمان بنوا شہل رضی اللہ عنہ

بنوا شہل کا سارا قبیلہ انہی کے ارشاد سے ایک دن میں مسلمان ہو گیا تھا۔

### ذوالکلاع حمیری رضی اللہ عنہ

کیا آپ ذوالکلاع حمیری کی سیرت سے کچھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ قوم حمیر اور اضلاع یمن کے بادشاہ تھے۔ جب جہر و کہ درشتی میں آکر بیچتا تو پندرہ ہزار غلام سجدہ میں گر جاتے تھے۔ اسلام کے بعد مدینہ کی گلیوں میں پیادہ پا پھرا کرتے

بھنے۔ بعض اوقات نفس کو ذلیل نہ کرنے کے لئے بکرے کی کلہی کو دانتوں میں پکڑ کر بازاروں میں سے گزرنا۔

معشر مسلمین! اسلام میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اور ہر ایک مثال ہمارے لیے بہترین سبق ہدایت بن سکتی ہے۔

### برادران دین سے عرض۔ حلفت کی ضرورت

میں اپنے بھائیوں سے یہی عرض کروں گا کہ غفلت کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد صحیح قائم کریں اور پیمانہ محکم کے ساتھ تبلیغ پر آمادہ ہو جائیں۔

کسی عمل صالح کا درجہ تبلیغ کو نہیں پہنچتا۔ مقصود رسالت تبلیغ ہے اور ہمارے لئے اسے حق رسول پاک کا ذریعہ تبلیغ ہے

تبلیغ کی احتیاج سب سے پہلے ان غریب مسکین لوگوں کا ہے جن کو اچھوت کا لقب دیا گیا ہے۔

ہر ایک مسلمان بھائی یہ ارادہ کرے کہ وہ کبھی کسی کو اچھوت نہ کہے گا۔ یہ زخم رسیدہ ہیں، مظلوم ہیں، ہزاروں سال سے تختہ مشق ظلم چلے آتے ہیں۔ اچھوت کہہ کر ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنا ہے۔

### اچھوت ہمیں آدھندرو

بے شک یہ آدھندرو ہیں۔ اس دیش کی قدیم تہذیب و تمدن کے علم بردار ہی تو بھتے۔ ان کو بھائی بناؤ۔ گلے سے لگاؤ۔ مسلمان بنیں یا نہ بنیں۔ مگر ہم تو ان کے ساتھ انسانیت کا بڑناؤ کریں۔

## بیرونی گاری میں ہنری

تبلیغ کا کام خود مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو بیرونی گاری اور بیہنری کے عیوب بتاؤ۔

## سود کا دینا

مسلمانوں کو بیاج دینے کے وعید و عذاب سے آگاہ کرو، یہ بے چارے دنیا میں بیاج دیتے دیتے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بیاج کا دینا ان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے

## مقروض ہو کر مرنا

مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ قرضدار ہو کر مرنا مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقروض کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر قرض کی برائی کیا ہوگی کہ مسلمان ہو کر بھی وہ حضور رحمۃ اللعالمین کی آخری دعا سے محروم رہ جائے۔

## اہل ہنری کی تعلیم کا انتظام

مزدوروں کو، پیشہوروں کو، کاریگروں کو سنبھالو، ان کے لئے رات کے مدرسہ کھولو، کچھ مدرسے وہ ہوں، جہاں تعلیم بذریعہ کتاب دی جاتی ہو۔ کچھ درسگاہیں وہ ہوں جو زبانِ سبق سکھاتی ہوں

چال چلن کی درستی، اخلاق کی نرمی، ہمسایہ اقوام کے ساتھ محبت و شفقت کا بڑا ڈکڑا کرنا سکھلاؤ۔

## باہمی تعلقات محبت

آپس میں تعلقات محبت کو زیادہ مستحکم کرو، اہل علم، اہل دانش کے پاس بیٹھنا سیکھو۔ پاکیزگی، صفائی، طہارت لباس کی پابندی کرو، صرف سادہ پانی کا استعمال انسان کو صاف و پاکیزہ رکھ سکتا ہے۔

## اللہ کے ساتھ معاملہ کی درستی

ان سب باتوں کے بعد ایک مختصر اور ضروری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو۔

ہر ایک مہین اور بھائی سے میری یاد بگزارش ہے کہ ۲۴ گھنٹوں کے اندر ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جب کہ پوری توجہ اور پورے شوق کے ساتھ تم اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا سکو۔ بس پھر سب بڑا پارہ ہے۔  
 داریم نرا زنگ توفیق نشان  
 گرمانر سیدیم تو شاید برسی

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علی المرسلین

ثم الصلوٰۃ علی النبی فانہ

یبدی بہ الذکر الجمیل ویختتم

احقر راجی شفاعت و غفران

محمد سلیمان سلمان منصور پوری



# فضائل اسلام

(یہ علامہ قاضی محمد سلیمان صاحب مرغوم کا وہ پر مغز پیکر ہے جو مارچ ۱۹۲۵ء کو آپ نے حالت سفر میں بمقام چھاؤنی نیم کا تقاضا ریاست جے پور قلم بند کیا۔ اور ندوۃ العلماء کے اجلاس میں پڑھا گیا اور بہت مقبول ہوا۔)

الحمد لله العليم الحكيم - والصلوة على نبي - الذي كان يالمومنين روف  
الرحيم - فصل على الله تعالى على خير خلفه محمد وال - وبارك وسلم اقباعدا -  
مشتر المسلمين!

مذہب روح انسانی کے لئے ایسا ہی ہے جیسے ہوا جسم انسانی کے لئے  
یہ ممکن ہے کہ کسی قطعہ زمین پر انسان نہ پایا جائے مگر یہ ناممکن ہے کہ انسان تو پایا جائے  
اور وہاں مذہب کا نشان نہ پایا جائے۔

ہاں مذہب وہ ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بلکہ صحیح تر یہ ہے کہ انسان  
پیدا ہی مذہب کی فضیلت میں ہوتا ہے

فَخَطَرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

ایسے مذہب کی تعریف ہے ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے

و کسی اعلیٰ ہستی کا خیال جسے انسان سب سے بڑا اور طاقت ور سمجھتا ہے

جہاں تک وحشی اقوام کے حالات بھی تازہ کو ملے ہیں وہ امریکہ کے قدیم باشندہ ہنٹے  
یا فریقہ کے بن باسی ان سے ثابت ہوا کہ ہر ایک قوم اسی خیال کی مطیع ہے۔ اور یہی

مقدس خیال ان کا مایہ ناز رہا ہے۔

ان چھوٹی چھوٹی اقوام کے ذکر کی حاجت نہیں۔ دنیا میں سنگیڑوں ایسے مذاہب ہو چکے ہیں جن کے تحت ہزاروں، لاکھوں انسان اپنی انفرادی اور قومی زندگیاں بسر کرتے ہوئے دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ ان کے مذاہب بھی لحد فنا کے ہم آغوش ہو چکے ہیں۔

مہ آبادیوں اور گل شاہیوں کے آئین کا اب کون پتہ دے سکتا ہے۔ جو کبھی سارے ایران پر حکمران تھے اس وقت جب کہ ایران کا نام بھی ایران پڑا تھا۔ مصر کے چرواہوں اور بابل کے ڈکٹیوں اور روما آباد کرنے والے رہنروں کے مذہبی رسم و رواج اب کیسے معلوم ہیں۔

ہندوستان کے اصلی باشندوں کی سرجاوا کی بھی یہی حالت ہے۔

مصر و یونان، ایران و ہندوستان اپنے اپنے عہد ترقیات میں بڑی بڑی تہذیب و دانش کے مرکز رہ چکے ہیں اور ہر ایک نے اقل مذہب سے ترقیات کے جلوے دکھلائے ہیں۔

قدیم یونان میں رہبانیت کی جو تعلیم تھی، وہ حکماء، کلیبیہ دیوجانس وغیرہ کے حالات سے آشکار ہے اور نظام عمل و استقرائے علم کا طریقہ سقراط، واقلیدیس کے احوال سے نمودار ہے۔

آئین ایران کی نشوونما کا اندازہ زرادشت و جاماس کے فرمودے بتا رہے ہیں۔

ہندوستان کے اصلی باشندوں کے عہد کے بعد ایک زمانہ تھا کہ آریہ قوم یہاں

آئی۔ وسط ایشیا کے وسیع میدان فسحت بیان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیل چکے

اسی کی گود سے نکلے اور بامِ تبت کی صدا اب تک بلند ہے کہ ان نام برداران نے اس کے دامن سے رخصتِ حاصل کی ہمیں لازم ہے کہ ان دعاوی کے فیصلہ کا قصد نہ کریں۔ ہم کو تو صرف یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک میں آجانے کے بعد ان کو وید کی شرتیوں کے درشن ہونے لگے

ان سبھ کمروں کے نام و نشان پر جن کے نام ان شرتیوں کی پیشانی پر نقشہ صندل ہیں۔ قدامت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور خود ہندو قوم میں ان کی شخصیت پر گونا گوں بیانات بتائے گئے اور تسلیم کیے گئے ہیں۔ لیکن بالاتفاق اس زمانہ کو ست جگ سے یاد کیا گیا ہے۔

یہ مان لینا چاہیے کہ اس تعلیم کا ساری قوم پر خوب اثر ہوگا۔

پھر ایک اور وقت آتا ہے جب گوتم بدھ جی کی اپدیش نے لوگوں کے سامنے کچھ نئے نئے انداز سے ایسے الفاظ پیش کیے جن کی ظاہری صورت موہنی تھی کہتے ہیں کہ رحم دلی آگے بڑھی اور اب شرتی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں رحم دلی کے اظہار میں شاعرانہ نزاکتوں سے کام لیا گیا۔ حیوانات کی رکھنا میں انسان کی قدر و قیمت گھٹ گئی، اشوک کی حکومت نے ابتدائی اصولوں کی خام کاری کو کس قدر دور کیا اور پھر ان باتوں کی اشاعت میں پورا زور دکھلایا۔

چین مت نے انہیں خیالات کے سایہ میں نشوونما پائی۔ تاریخِ سحنت حیران ہے

کہ کم آزاری کی اورٹ میں نوع انساں کو سحنت ترین نکالیت کا سامنا ہوا۔

ہندوستان ایسے ہی متضاد تاثرات کا تختہ مشق بنا ہوا تھا کہ بھارت اعظم کی

اولاد پانڈوں اور کوروں میں جنگِ عظیم برپا ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی

باشند نہ تھا جو اس جنگ میں ٹہر گیا نہ ہوا۔

اسی جنگ کی یادگار ہیں وہ وہند بید بیاتس جی نے اپنی مشہور کتاب  
”ہما بھارت“ تصنیف کی ہے۔

جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک جس کے بہادروں کی تعداد اس طرح بیان ہوئی ہے  
کہ مٹکوں کے کناروں پر کھدے ہوئے چاہات فوج کی گرد راہ سے اٹ گئے تھے۔  
بالکل خالی ہو گیا کہتے ہیں کہ ان کروڑوں میں سے صرف گیارہ بارہ آدمی زندہ بچ  
گئے تھے۔ فتح باب پانچوں پانڈوں کا شمار بھی اسی عدد کے اندر ہے۔

بالآخر انہوں نے بھی دیر ناپائیدار کے بھیا تک چہرہ سے منہ موڑ کر اپنے پار  
چل کر ہمالہ کی سفید برف کا پاک کفن اوڑھ لیا تھا۔  
جنگ کے ساتھ ہی علوم و فنون بھی فنا ہو گئے اور تہذیب و تمدن کے اقدار  
بھی افسانے بن گئے۔

زرتشت ایرانی کا زمانہ دید بیاتس جی بہراج کا زمانہ تھا۔ ایرانی تاریخ گو یہاں ہے۔  
کہ جن دنوں گشتاسپ نے بلخ کو اپنا دارالسلطنت بنا رکھا تھا، اور وہ فتح چین کے  
منصوبے سوچ رہا تھا۔ انہیں ایام میں دید بیاتس جی نے بلخ پہنچ کر زرتشت سے  
ملاقات کی تھی۔

زوال ایران کا زمانہ بھی گشتاسپ سے دو نسلوں کے بعد ہی شروع ہو جاتا  
ہے اور ہندوستان کے زوال کا عہد بھی اسی کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر تو ان  
حاکم ہیں ایسی اتھری چھائی اور ظلمات کا دور دورہ ہوا۔ جو آپ ہی اپنی نظیر تھا۔ اگر  
ہندوستان میں بامبارگیوں کا زور تھا۔ تو ایران میں بھی مزدکیہ کی شوکت و قوت کچھ کم

نہ تھی۔

یہی وہ زمانہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اقبال بھی ان کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ برسوں سے  
یاد شاہان مصر اور حکمرانان شام کے تختہ مشق ستم بن گئے تھے اور نبوکدنصر نے  
تو ظلم و ستم کو اتنا تک بڑھایا۔ بیت المقدس کو جلیا یا شہر کو گرایا، عمارات سرخاں کو  
پیوند خاک بنایا، ہزاروں لاکھوں کو خاک و خون میں سلایا اور جب قتل کرتے کرتے  
تلواروں نے بھی جواب دے دیا تب باقی ماندہ کورسن بستہ باہل لے گیا جس کے بعد  
وہ کبھی نکبت و ادبار سے سبکدوش نہ ہوئے۔

وہ بنی اسرائیل جو کبھی ایک مستقل شہر بیت کے حامل اور مضبوط حکومت کے  
مالک تھے۔ وہی اب دیوی عزت اور دینی حرمت سے بالکل خالی رہ گئے تھے۔

”یورپ اپنی تباہی سے بدتر حالت میں تھا“

اگرچہ قسطنطنیہ کی تلوار نے عیسائیت کو یورپ میں داخل کر دیا تھا۔ مگر پھر  
بھی حکومت بنت پرستوں ہی کے ہاتھ میں تھی اور بیت پرستی ہی سب سے بڑی جڑ  
چھری تھی۔

تلوار (یوم شمس) کی حرمت اور شکل صلیبی کا احترام (جوان بیت پرستوں کے  
نزدیک تقاطع وائر فاکلی کا نشان تھا) نیز ترک تختہ ایسے عیسیائے ہیں جو غیر اقوام  
سے عیسائیت کو ملے ہیں۔

تمام دنیا کی مذہبی حالت ایسی ہی تھی اور تمام مذاہب ایسی ہی بستی ہیں گر گئے  
تھے۔ اگرچہ وہ پیشتر ازیں بڑے بڑے کارنامے دکھا چکے تھے۔

ایسی حالت ہیں اور ایسے زمانے ہیں اس مذہب کی روشنی کو نمود

ہوئی جس کا پاک نام اسلام ہے۔

جس طرح سخت عیسائیت اور گرمی کے بعد بارانِ رحمت کا نزول ہوتا ہے جس طرح سخت اندھیاری رات کے بعد آفتابِ عالمناہ کا طلوع ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اٹق عالم پر اسلام نے اپنے نور کا ظہور دکھلایا۔

تمام عرب اور خصوصاً حجاز ان صحابہوں میں جو تمام دنیا پر فرماں روا تھے ان میں سے کچھ کم نہ تھے۔

عرب کی تازہ بخ توہمی روایات کی حضانت میں دنیا کے دیگر ممالک سے نسبتاً زیادہ محفوظ رہی ہے۔ اس لیے ان سب حالات کو جو قتل، غارتگری، تمار بازی، دشمن کشی، شراب خوری، بت پرستی وغیرہ کے متعلق ہیں، مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب ان صحابہوں میں سب کا گرو گھنٹال تھا۔ اسی لیے قدرتِ الہی کا اقتضا یہ ہوا کہ یہیں سے چشمہ صفا ایلے اور اسی مقام سے نور ہدی کا پرکاش ہو۔ تخصیص مکہ کی توجیح میں یہ صرف ایک وجہ ہے۔ لیکن اس تخصیص کے لیے تو بہت سے دلائل اور شواہد ہزاروں سال پہلے سے موجود تھے۔

یکے انراں جملہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودیوں، عیسائیوں، صابئین اور مسلمانوں کے جدا اعظم ہیں اور ان اقوام کی مجموعی تعداد دنیا کی تمام دیگر اقوام سے افزوں تر ہے، مکہ ہی کو ہدایتِ عالم کا مرکز قرار دیا تھا۔ اور انہوں نے اپنے اس اکوڑے بچہ کو یہاں آباد کیا تھا جس میں مختلف اقوام کی رہنمائی و ہدایت فرمائی کی۔ استخدادِ قطری اور قابلیتِ وسیعی موجود تھی۔ مہربی مراد سیدنا اسمعیل علیہ السلام سے ہے۔

ان کے والد بزرگوار کا مولد عراق اور ہجرت گاہ شام ہے اور فلسطین کو انہوں نے توطن کے لیے پسند فرمایا تھا۔

ان کی والدہ مصر کی شاہزادی ہیں اور علوم مصریہ کی تعلیم ان کو شایانہ اہتمام سے ملی تھی۔ اسمعیل علیہ السلام کی اہلیہ سردار حرم کی دختر تھیں۔ اس سردار کا عرب کے بڑے حصہ پر اقتدار تھا۔ ان خصوصیات سے اسمعیل علیہ السلام بابلہوں، شامیوں اور فلسطینیوں، مصریوں اور حجازیوں کے علوم و فنون اور السنہ کے جامع بن گئے تھے۔ پھر وہ نجد و حجاز اور یمن و حضرموت کے لیے رسول رب العالمین بنائے گئے اور درجہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد علوم سماوی کے خزاں ان پر کھول دیئے گئے۔ اسی طرح عربی زبان میں ان کو فرائض تبلیغ ادا کرنے پر سے ان جملہ علوم و محاسن اور فضائل و محامد اور معارف و حقائق کی جامع بن گئی جو ان اقوام و ادیان میں پہلے سے پائی جاتی تھیں اور جن میں وحی ربانی نے پیش از پیش اضافہ پر اضافہ کر دیا تھا۔ انہوں نے جملہ یہ ایک اور وجہ تھی جو کہ کو ہدایت عالم کا مرکز بنانے کی ہے۔

خیر میں اس بیان کو نامتواں چھوڑنا ہوا اسلام کے متعلق کہوں گا جس کا ظہور عرب سے ہوا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے نوز نام یعنی سیدنا و مولینا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کی آنکھوں کو روشن فرمایا ہے۔

دنیا کی حالت خود اس امر کی مقتضی تھی اور قدرت ربانیہ نے خود ارادہ فرمایا تھا کہ اس بگڑے و قابل نفرت تاریکی کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے بڑے بڑے ملکوں اور بڑی بڑی قوموں کی تاریخی عزتوں کو خاک میں ملادیا تھا۔ اور نوع انسان کو وحشیانہ طبقہ کا مماثل بنا کر انسانیت کو تباہ کر دیا تھا۔

نور اسلام کی چمک سے ہزاروں کی آنکھوں کو کھول دیا، انسان نے دنیا کو  
 بھی دیکھا اور خود اپنے آپ کو بھی دیکھا، تب اسے خود اپنی برہنگی سے شرم آنے لگی پتھر  
 طبع چھپے اور انہوں نے نَبَا سِ التَّقْوَى هُوَ خَيْرٌ کے دامن میں جگہ حاصل کی  
 بعض کی آنکھوں میں اس نور سے خیرگی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آنکھیں موندھ  
 لو، پھر روشنی خود ہی مٹ جائے گی۔

بعض نے کہا کہ سورج کی روشنی کو بادل اور آندھی بھی تو چھپا ہی لیا کرتے ہیں۔  
 آؤ، الزامات کے گرد و غبار اٹاؤ، مطلع تاریک کر دو، یہ نور بھی معدوم ہو جائے گا۔  
 الغرض کسی قوم، کسی مذہب، کسی شخصیت کے فنا کرنے میں جتنی تدابیر جتنے  
 جیلے، جتنے طریقے آج تک کسی ظالم و جابر، کسی ڈکیت، کسی قاتل، کسی رہبر نے  
 دنیا میں استعمال کیے تھے۔ وہ سب کے سب اسلام اور ہادی اسلام علیہ  
 الصلوٰۃ والسلام اور قدا ئیان اسلام کے مقابلہ میں استعمال کیے گئے  
 نتیجہ کیا ہوا؟

یہ کہ اسلام انگور کی بیل ثابت ہوا۔ وہ کاٹنے سے بڑھا۔ وہ خونِ قربانی کے بعد  
 بھی بڑھا۔ اور بالآخر وہی کام و رہبان عالم کا چاشنی بخش ثابت ہوا۔  
 صاحبانِ ایاد رکھیے، کہ اسلام زندہ اصولوں کو لے کر دنیا میں آیا ہے اور اس  
 نے ہی القیوم، زندہ خدا کی حمایت سے نشوونما پایا ہے۔ اور وہ برابر آج تک تمام  
 دنیا کے لئے روحِ انقلاب اور قرۃ العین ثابت ہوا ہے۔  
 ہاں میں مختصر تبادلہ گا کہ ان زندہ اصولوں میں سے چند اصول کیا ہیں۔



## اصول اول

”اسلام حائمی علم و برہان ہے“

علم کی بزرگی پر آج تمام دنیا متفق ہے۔

اگر یہ اسلام ہی ہے جس کی کتاب جمہد کا آغاز بیان علم سے ہوتا ہے۔

اقْرءْ بِاَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

اقْرءْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا

كَرَّمَ

یہ وہ آیات بینات ہیں جن کا نزول جملہ آیات قرآنیہ سے پہلے اس زمانہ

و تعالیٰ کے نبی و رسول پر ہوا۔

غور کرو!

جس مذہب کی تبتیا و اکتشاف علم پر ہے۔

جو انسان کی مکرمت و شان و جوہ و علم سے بناتا ہے۔

جو تخریر کو اشاعت علم کا صحیح ذریعہ ٹھہراتا ہے۔

جو حقوق ربوبیت کے استحقاق میں انسان پر نوشت و خواند کا فرض عام عائد

کرتا ہے۔

جو پانی کے کبڑے کو حالت جہول و ظلم سے نکال کر تعلیم و تعلم کے میدان

میں لاتا ہے اور علم و دانش کے شہیروں سے بلند کر کے عزت و اکرام کی چوٹی پر

پہنچاتا ہے وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ نَبَاؤُنَا

کے اختتام سے اسے اکتشافات ارضی اور تصرفات بحری کا حقدار ٹھہراتا ہے۔

وہی مذہب اس زندہ اصول کا مالک ہے۔

(ب) قرآن الحکیم کو دیکھو! کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی گئی۔ وہ یہ ہے کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کو اپنا ورد بنالیں۔ اور نفسِ قدسی کو ہر وقت فراوانی علم اور افزونی علم کا شائق و طالب اور ساعی و راغب بنائے رکھیں۔

غور کرو! کہ کیا مال و دولت یا حکمرانی و سلطنت یا آسودگی اور رفاہیت یا اظہارِ شان و شوکت یا فراوانی جاہ و حشمت ایسے نبی اللہ کا مدعا بن سکتے ہیں جس کا قلب اظہر ہر وقت حقائقِ علمیہ کا گرسنہ اور جس کی روح انور ہر لمحہ انوارِ عرفان کی گرسنہ ہو۔ جو اپنے مالک پروردگار سے ہر وقت و ہر ساعت میں علمِ مزید کے مردارید حاصل کرتا ہو۔ جو ہر طرف العین میں عینِ علوم پر قابض بنتا ہو۔ کیا اس اسوہ حسنہ کے بعد اس کی امت کسی اور شے کی دلدادہ و فریفتہ بھی ہو سکتی ہے۔

(ج) علم کا درجہ جو اسلام میں ہے۔ وہ ایک معمولی سے مسئلہ فقہی سے آشکارا ہو سکتا ہے۔

اہل اسلام کے ہاں کتابِ خمس العین جانور ہے۔ لیکن جب وہی جانور مَاتَا عَالَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ كَمَا مَصْدَاقُ بَنِ جَائِسٍ تَبَّ اس کا تشکارا حلال ہے غور کرو! کہ سگ پلید کا منصب کس نے بلند کر دیا؟

ہاں یہ ترقی علم ہی کے طفیل ملی ہے۔ اور یہ ایک مثال ہے اور اس سے ان ترقیات کا روحانی اندازہ ہو سکتا ہے جو آیتِ بَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ كَرَجَاتٍ مِّنَ التَّنْزِيلِ کے لئے خواص فرمائی گئی ہیں۔

(د) اسلام نے حصول علم کا جو شوق و رغبت دلائی ہے اور ہر مسلمان کو شہد

کی مکھی بن کر سب جگہ سے شہد علم فراہم کرنے کی اشارت فرمائی ہے۔ وہ اس لٹنٹا  
سے ظاہر ہے ھَلْ عِنْدَاكُمْ مِنْ عَلِيٍّ فَتُخْرِجُوهُ نَسَاء

(۱۸) یہ اسلام ہی کی علم پروری ہے۔ کہ سیدنا و مولینا محمد مصطفیٰ اصالیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم  
کے القاب عالیہ خاتم النبیین و رحمتہ للعالمین کے ساتھ ساتھ حضور کو یَعْتَبِرُهُمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے وصف سے موصوفت فرمایا گیا یعنی معلم کتاب الہیہ ہونا  
اننا بڑا شرف ہے کہ سرور کائنات ہی کو حقیقتاً اس لقب کا شایان ٹھہرایا گیا۔

(۱۹) یہ اسلام ہی کی علم نوازی ہے کہ بدو و ظہور سے ابواب علم و حکمت برفرم دہر  
متنفس کے لئے کشادہ رکھے ہیں۔ قرون اولیٰ کی تاریخ شاہد ہے کہ اندرون چین  
سے لے کر انتہائے سوڈان تک اور بلاد خراسان سے لے کر سرحدات مراکش  
تک دروس علمیہ کا افتتاح کر دیا گیا تھا۔

اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ

سیٹیویہ، یوتلی اور زجاج جو آئمہ لغت و نحو میں یہ عربی النسل نہیں۔

امام اللغت اسمعیل بن محمد جوہری، اور استاد محمد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب

فیروز آبادی بھی عرب کے باشندے نہیں

ابوالفرج مسیحی جس کی تصانیف عربی زبان میں بکثرت ہیں مالٹا کا باشندہ ہے۔

مورخ الشہیر برہان الدین موصل میں پیدا ہوئے۔

علامہ ابن خلدون جو فلسفہ تاریخ کے مجدد ہیں مولود یونانی ہیں۔

مفکر نیری کے وجود پر بیابکت کو فرس ہے

تب اعتراض کرنا پڑے گا کہ اسلام نے غیر اقوام کو سر بلند کرنے اور ذرورہ۔

اعلائے علم تک پہنچانے میں کیسے کیسے بے نظیر کام کیے ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کو سب جانتے ہیں  
اہل فارس سے ہیں۔

امام المحدثین محمد بن اسمعیل بخاری اور امام ہمام مسلم بن حجاج صاحبان صحیحین اور  
دیگر اکثر ائمہ محدثین بھی غیر عرب ہیں۔

ان سب نظائر سے پایا جائے گا کہ اسلام نے علم و فضل اور حکمت و دانش کو  
ایسا عام بنا دیا تھا کہ عرب و غیر عرب سب کے سب برادران رضاعی کی طرح ایک  
ہی شیر سے پل رہے تھے اور برادران شفیق کی طرح میراث نبوی ہیں برابر کا حصہ لے  
رہے تھے۔

برادران! اسلام دلائل صحیحہ اور برہان کا حامی ہے۔ وہ سخت سے سخت  
جھگڑالو، ضدی، بہت دھرمی سے بھی یہی خطاب رکھتا ہے۔

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ  
صَادِقِينَ  
اگر تمہاری بات میں صداقت ہے۔ تو  
برہان پیش کرو

توحید جیسے ضروری اور دقیق مسئلہ کو بھی دلیل کے بغیر منوانا نہیں چاہتا۔

تَوَكَّنَ فِيهِمَا إِلَهَتَيْنِ

اگر زمین اور آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ

إِلَّا اللَّهُ لَقَسَدَاتَا

کے سوا اور ہوتے تب نہ زمین قائم

رہتی نہ آسمان باقی رہتا۔ دونوں کے دونوں

برباد ہو گئے ہوتے۔

نظام عمل میں یہ دلیل ایسی زبردست ہے کہ اب زمین کا ہر ذرہ اور آسمان کا ہر

شخصہ توحید کا شاہدین بن گیا ہے۔

تو رہتا نبوت کے متعلق یہی روش ہے۔ ایک ہی آیت پر غور کرو۔ اس میں نبوت

کے کئی خواص ظاہر فرمائے ہیں۔

يَتْلُو عَلَيْهٖم اٰيٰتِهٖ دِيۡرًا يَّهٖمۡ وَيُبَيِّنُ لِهٖمۡ الْكِتٰبَ الَّذِيۡ اُنزِلَ عَلَيْهِ

يَتْلُو عَلَيْهٖمۡ نُبۡلًا تَاۡتِيۡهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيۡهِمْ فَيُبَيِّنُ لِهٖمۡ اَحۡصٰ

ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ بلا واسطہ علیم الحکیم سے علوم کا استفادہ کرتا ہے۔ اور

دوسری طرف وہ بلا شاہد غرض اور بلا آمیزش طبع اہل عالم پر افاضہ فرماتا ہے۔ وہ ایک

قوارہ نور ہے کہ سماء اعلیٰ سے جو کچھ اس کے نوزائے ہیں آیا۔ اسی کو فوراً دوسرے دن تک پہنچا دیتا ہے۔

یہ کتب ہجرت و نبلا تاسی ہے کہ نبی اکرم نبوت کے بغیر کتنے دل عقائد فاسدہ رو سیاہ

ہوتے ہیں اور کتنے دل شک و زینغ کے باغیوں خانماں تباہ

ہوتے ہیں جن کی بے بیعتی کی آنکھوں پر چینی چھائی ہوتی ہے اور بہشت

ہوتے ہیں جن کی کشت زار عمل خشک و مرجباتی ہوتی ہے۔ اس وقت نبی اللہ ہی کا

کام ہوتا ہے کہ حکیم حافظی کی طرح ان امراض کی تشخیص کرے۔ پھر تشخیص کی طرح سبب

کو اپنی نوبت میں لے لے۔ شاہ عادل کی طرح ہر ایک سے برابر دار کی حفاظت کرے

يُحَلِّمُ لِهٖمۡ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ طَبۡرًا تَاۡتِيۡهِمْ۔ کہ نبی اللہ کا کام صرف اسی حد

پر ختم نہیں ہو جاتا کہ مس زنگ آلود پر قلعی چھڑھاوے۔ قلوب کو عیوب سے پاک کر دینے کے

بعد پھر ان کی خبر بھی نہ لے۔ نہیں، نبی اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک کے طرف میں آسودہ نیات

بھی بھر دیتا ہے۔ جو ہر ایک دامن کو گلہائے خلد ہمارے چہن زار بھی بنا دیتا ہے۔ جو ہر ایک مریض

مداوا کے بعد اگر زندگی عطا کرے کہ رخصت کرتا ہے۔

اک کتاب قرآن مجید کا علم ہے۔ اس کا مصدر قوت جمعیت کو ظاہر کرتا ہے اور مقبول کو محسوس بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔

حکمت کی نشان فصل قضایا ہے۔ اس کا اثر صواب و سدا اور ارتقان و استحکام ہے۔ ان جو اہر زواہر کی قیمت لگاؤ کہ نبوت کے معنی معلوم ہو جائیں اور نبی اللہ کے نفس قدسی کے ساتھ یا میان تازہ عقیدت بے اندازہ بڑھ جائے۔

منکرین غور کریں کہ نبوت پر کیا کیا برہان پیش کی گئی ہے۔ میرے اس مختصر بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ اسلام ہی مذہب علم ہے۔ یعنی علم ہی اسلام ہے۔ اور اسلام ہی علم ہے۔

### اصول دوم

اسلام تمام دنیا کے لیے محبت تام اور دوام ہے۔

عربی دان جانتا ہے کہ عربی مصادر کا مادہ بین حروف کا ہوتا ہے۔

اسلام میں اگرچہ پانچ حروف ہیں اور اسی لیے وہ ارکان خمسہ کا مجموعہ ہے۔

مگر یہ لفظ بھی سلم سے بنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے "أَدْخَلُوا فِي السِّلْمِ كَأَنَّ"

یہ حکم الہی ہے جو نوع انسان کے ہر فرد کو "صلح" کی تحت میں داخل ہونے کا

ارشاد فرماتا ہے یہی صلح عام تو اسلام ہے

معشر الناس!

وہ مذہب جس کی بنیاد سلم و صلح ہو۔

وہ مذہب جو آتش کی مانند ہو۔

وہ مذہب جو سب کو موافقت و مسالمت کی دعوت دیتا ہو۔

ضرور ہے کہ وہی حجت تمام کا مالک ہو۔

اس اصول کو محکم امتحان پر لاؤ اور وسعت آباد جہاں کہے افق تک اپنی نگاہ کو بڑھاؤ کہ کیوں کہ جملہ اہل عالم محدود و دائر کے اندر گھرے ہوئے تھے کیوں کہ انہوں نے اپنی اپنی قلتیں کو سمندر سمجھ رکھا تھا بلکہ مجھے صاف کہہ دینا چاہیے کہ کس طرح دنیا کا ہر مذہب دنیا کے جملہ مذاہب کو جھوٹ اور بطلان بتلا رہا تھا۔

ایران والوں کا دعویٰ کہ سرورش آسمانی صرف ایزد ہی کی نژاد کو ملا ہے۔

بنی اسرائیل کا دعویٰ کہ نبوت کا ثروت صرف اسرائیل ہی کی اولاد کی میراث ہے۔

ہندو والوں کا دعویٰ کہ آکاش بانی کا درشن صرف گنگا، جمتا کے اشنان کرنے والوں

یعنی انہیں وادیوں کے رہنے والوں نے پایا ہے۔

اہل چین کا دعویٰ کہ صرف انہیں کی قوم کو فرزند آسمانی ہونے کا منصب ہے۔

اگرچہ بجائے خود بڑے شاندار دعویٰ ہیں۔ مگر ان دعویٰ کا نتیجہ کیا تھا؟

ایک زرتشتی اپنے سواکل مذہب کو دروغ بتلاتا۔

ایک اسرائیلی اپنے سوا جملہ ادیان کو جن میں زرتشتی بھی شامل ہے، باطل

قرار دیتا۔

ایک سناتن دھرمی اپنے سوا جن میں زرتشتی و اسرائیلی بھی شامل ہیں، سب کو

است کہتا۔

ایک کافیبوشتی جملہ اہل کو جن میں سناتن دھرمی بھی آگیا ہے، بیگانہ اور حق قرار دیتا تھا

خیال کرو! کہ ان شاندار دعویٰ سے کیا حاصل ہوا۔

کیا یہی کہ کل دنیا نے کل دنیا کو جھٹایا۔

اور ہر ایک قوم نے اپنے آپ کو کل دنیا سے نرالا انسان بنایا۔  
اس طرح تقریباً اور دوری بڑھتی گئی۔ قومیں قوموں سے اور ملک ملکوں سے دور  
ہوتے گئے۔

بالمقابل کہہ رہا ہے دیوانہ ایک کو اب کیا تمیز رہ گئی دیوانہ اور فرزانہ میں  
آگے چل کر اس زہریلی ہوا کا اثر یہ ہوا کہ ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم کے اندر بھی تفریق  
اور افتراق پیدا ہو گیا۔

اسرائیلوں کے بارہ اسباط میں سے صرف بنی لاوی کو خطا کی قربانی پیش کرنے  
اور گناہ گار کو مہافتہ کرنے کا حق حاصل تھا۔ اور کسی سبط کو نہ تھا۔

ہر دروازہ کی پوڑیوں پر اور پیویہ کے تالاب کے کنارہ پر خاص خاص پروتھوں یا  
پانڈاؤں ہی کی یہ شکنی ہے کہ جو کونرگ ہیں دھکیل دیں یا سرگ بین بھج دیں۔ باقی سب  
برہمن بھی اس طاقت سے دور سمجھے گئے۔

مراتب کی یہ دائمی تفریق اس محبت نام کے خلاف تھی جس کا مقصد یگانگت  
و اتحاد اور سلم و سدا اور جمہیت و وداد ہے۔

اسلام کا جملہ اقوام عالم پر یہ احسان ہے کہ اس نے مرض کو تشخیص کیا اور چارہ  
گرمی کا عزم کر لیا۔

اسلام نے پہلے تو سب کو لیکر قومِ ہمدرد بنا کر تسلی دی۔ اور بعد ازاں خُلوًا  
فِ الْمَسْکِ كَمَا حَسَنَاتُکِی دعویت سے کہہ کر دَاغْتَصَمُوا بِتَعْبَلِ اللّٰهِ حَبِیْبًا وَكَانَ قَوْلَاکِ  
اصول سے روشناس کیا۔

دعوتِ عورت کے ساتھ وحدتِ قومیت کے معنی بتائے اور اسرارِ توحید کا



انکشاف فرماتے ہوئے وحدت کلمہ کی طاقت کو بھی آشکار فرمایا۔

اس اعلیٰ تعلیم کا جو ثمرہ ہوا۔ وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ

اختلاف زبان اور نبتاتن الوان کی حدود ٹوٹ گئیں۔

قومی خصوصیات کا غرور خصائص خلاق سے مبدل ہو گیا۔

تمام دنیا خاندان واحد کے افراد بن گئی۔

يَسْنَا خُلُوتٍ فِي دِينِ اللَّهِ أَخَوَاتٍ كَا جَلُوهَ لُظْرَانِي لُكَآ۔ انہی پر کُوتُوا عِبَادَ

اللّٰهِ اِخْوَاتٍ كِي ضَرْبِ الْمَثَلِ صَادِقِي آتِي عِبُودِيْتِ بَارِي كِي مَضْبُوطِ رِشْتِي نِي سَب

کو اخوت فی الدین کی قرابت سے متحرک و متفق ہم عقیدہ و ہم نوا، یک دل و یک

زبان بنا دیا۔

اسلام ہی نے محبت کو اپنی اصل ٹھہرایا اور وہی اس اصول میں کامیابھی ہوا۔

## اصول سوم

اسلام تمام دنیا میں سب سے پہلے اخوت کاملہ کا بانی ہے۔

مجھے انگلستان کی ”برادر ہڈ سوسائٹی“ (Brother Hood Society)

کے حالات معلوم ہیں۔ اس کا وجود اسلام سے بہت بعد کا ہے۔ اور اس میں اخوت

اسلامی کے ظلال کا ثابہ سا پایا جاتا ہے۔

صاحبان! یہ اسلام ہی ہے جس نے تخریر و تقریر میں مخاطبین کے لئے الفاظ

برادر و اخوان اور اس کی مرادفات کا استعمال کیا۔ فرقان حمید پڑھو!

وَ اذْ كُرْدَا اِيْحَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ خُدا كِي اِس نِعْمَت كُو چُونَم پَر بِي يَادِر كُفْنَا كِتْم پِيلِي

اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاء قَالَتْ بَيْنَ فَشْمَن دَشْمَن تَخْتِي پِي اِس نِي تَهَار سِي دِلُون كُو اِپِس

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
میں وصل کرو یا تب تم بفضل الہی بھائی بھائی بن

بِنِعْمَتِنَا إِخْوَانًا گئے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخر کی جمع اِخْوَانٌ بھی اور اِخْوَانٌ بھی اِخْوَانٌ برادران  
نسب کو اور اِخْوَانٌ برادران محبت کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ برادران  
محبت، واقفیت کو یہاں تک تقویت دی گئی کہ لغت عرب میں اس کے لئے مستقل  
لفظ موجود ہو گیا۔

صاحبان! یہ اِخْوَانٌ اور یہ محبت ایمانی صرف ربانی لسانی ہی نہ ہوتی تھی۔ بلکہ  
اس موصلت میں منسلک ہونے والے درانت اور تقسیم جائداد میں بھی برابر کے  
حصہ دار ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ باطنی علاقہ کے سامنے اس ظاہری بزنار کی بھی ضرورت  
نہ رہی۔

یہ وہ نفوس قدسی تھیں کہ سَبَّوْا نَبِيَنَا اللهُ مِنْ دَضَلِهِمْ وَرَسُوْلُهُ اِنَّا اِلَى اللهِ

رَاغِبُوْنَ کے عرفان نے جان و مال کے دعوے سے دست بردار کر دیا تھا۔

یہ وہ تھے کہ اِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ كَيْ يَسِّرَ

لَهُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَرَضُوْا بِمَا رَضِيَ اللهُ لَهُمْ

انہوں نے اپنے رنگ میں ترقی کرتی رہی تھی کہ وہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ

کے نام سے قیصر و کسری کے اندام پر لڑ رہے تھے۔ ہر ممبر بلال کے حبشی کا ذکر کرنا

ہے تو یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں سیدنا ابو بکر اغتق سیدنا بلالاً

ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کر دیا تھا۔

ابو بکر صدیق کو سید کہنے کی وجہ تو تاریخ بیان کر سکتی ہے کہ وہ خلیفہ رسول تھے

اور عمر انہیں کے جانشین تھے۔ مگر بلال کو سید کہنے کی وجہ صرف اخوت اسلام ہی بتلائے گی۔ جو چھوٹے بھائی، بڑے بھائی کی تفریق بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جھوٹی دنیا بلال کو غلام کہتی ہے تو کہا کرے۔ مگر اسلام کی سچی تعلیم کا صحیح نمونہ تو اپنی زبان سے سید کہنے ہی مزا پاتا ہے۔ کیا ایسی اخوت کی کوئی نظیر کسی دوسرے گھر میں ہو رہے

## اصول چہارم

”اسلام مساوات عامہ کا داعی، مظہر اور حامی ہے“

تاریخ عالم پر نگاہ ڈالو!

کسی قوم نے بواسطہ حکومت و سطوت

کسی قوم نے بذریعہ مال و دولت

کسی قوم نے بوسیہ علم و فضیلت

کسی قوم نے بروئے زور و طاقت

کسی قوم نے۔ لوجہ گوری و کالی رنگت

اپنے لیے ایسے خاص خاص حقوق کو اپنی واحد ملک بنا رکھا تھا جس سے وہ

خود کو سب سے ممتاز بتانے تھے۔

کوئی برہما کے منہ سے پیدا ہونے کی عزت کا مظہر تھا۔

کوئی اس کے بازوں سے قوت پانے پر مغرور۔

ایک برہمن دوسرے برہمن پر خاص عزت رکھنے کا اس لئے مدعی تھا کہ یہ تو

دریائے ہستی کے مشرقی کنارے کا باشندہ ہے۔ اور دوسرا اس دریا کے مغربی کنارے

پر آباد ہے۔

شکستلانا ٹک کو پڑھ جایے۔ جو آریہ ورتن کے سپوت کالی داس جی کی تصنیف ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ برہمن سنسکرت بولتا ہے۔ اور شودر کی بات چیت پر اکرت میں ہے۔ یہی امتیازی تفاوت ایرانیوں کے موبدوں میں، اسرائیلیوں کے نبی لای میں اور تبت کے لاماؤں میں بھی جلوہ گستر مخفا۔

امریکہ میں باشندگان قدیم جس ذلت و حقارت کے سزاوار ٹھہرائے گئے ہیں۔ وہ سب کو معلوم ہے۔ اس ملک میں ان لوگوں کے زندہ جلائے جانے کی بیسیوں نظائر پائی جاتی ہیں۔ یہ قانونی سزا اس لئے ملتی ہے کہ وہ کالی رنگت کے ہیں۔

انگریزوں کی معاشرت پر نگاہ ڈالو! دولت و منصب نے ایک ہی ملک، ایک ہی قوم کے اشخاص میں کتنا امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ ایک انگریز افسر، ایک انگریز کارک کے ساتھ ایک مینر پکھانا نہیں کھاتا۔ افسروں کے کلب الگ، کارکوں کے الگ، افسروں کے گرجا الگ، چھوٹی ہستی والوں کے الگ۔ یہ وہ حالات ہیں۔ جو کھلے طور پر واضح ہیں۔

ایسا اسلام کا فرمان سنو! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
الَّذِينَ هُمْ بِرِزْقِهِمْ يَتَوَفَّوْنَ  
أَنْفُسَهُمْ  
میں بڑھا ہوا ہے۔

دوسرا حکم امتناعی ہے۔

فَلَا تَتَّخِذُوا أَنْفُسَكُمْ  
لُغْوًا لِّأَنْفُسِكُمْ  
لوگو! اپنے آپ کو پاک مت ٹھہراؤ۔

رب العالمین کا رسول صادق الایمن اپنے خطبے میں فرماتا ہے۔ وہ خطبہ جو تسخیر

مکہ کے بعد فاتحانہ شان میں مفتوحین کے سامنے دیا گیا

یامعشر القریبین ان اللہ قد  
 ذہب عنکم نخوة الجاہلیة و  
 تعظہم بالاباء الناس من آدم  
 وادم من نواب (ثم تلا) یا  
 ایہا الناس انما خلقکم من  
 ذکر و انقی الخ  
 اسے سرداران قریش! اللہ تعالیٰ نے تمہارے  
 جاہلانہ غرور کو توڑ دیا اور باپ دادا پر انرا تے  
 کو مٹا دیا۔ سب لوگسے آدم کی اولاد ہیں۔  
 اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ (اس کے  
 بعد آپ نے یہ آیت پڑھی) اسے لوگو! ہم  
 نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔

یہ الفاظ اس روح الصدیق کی زبان پاک کے ہیں۔ جو وہ جاہلیت قومی، اور  
 شرافت خاندانی، فضیلت نسب اور بزرگی حسب میں بین الامم والاقتران بہا  
 ممتاز اور مسلمہ طریق سے سب سے بڑتر و اعلیٰ تھا۔

اگر کوئی گناہم، یا بیچ ذات کا شخص ایسی بات کہتا، ایسا اصول پیش کرتا تو  
 سمجھا جاسکتا تھا کہ وہ خود اپنی پستی کی خندق کو بھرنے کے لیے دوسروں کے خاک  
 نما محل گراتا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی دگر گوں ہے۔  
 تخت چھوڑ کر سجدہ زمین پر نشست اس لئے اختیار کی گئی کہ سب خاک  
 نشینوں کو ہم فرش ہونے کی عزت حاصل ہو جائے۔

گزید فقر کہ فرمانروا سے ملک ابد  
 بمنت خاک نداد و سوائے سلطان  
 تو عید خوانہ شدی و مزدان دانست  
 کہ برتر است عبودیت از سلطانی۔

مسلمانوں کی مساجد میں جا کر دیکھو جہاں شاہ و گدا نشانہ نشانہ ایک صفت میں  
 کھڑے ہیں۔ ایک ہی چٹائی پر بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر کا فرزند، دکن کا فرمانروا مسجد میں آتا  
 ہے۔ اس کی رعیت کا ایک شخص بھی اس کے لئے کھڑا نہیں ہوتا۔ دطفت مزید یہ ہے

کہ شاہ اس سلوک پر خوش ہے۔ اور اس کے خلافتِ تعظیم بجالانے والوں سے ناخوش  
یہ تمام نظارت سے صرف اسلام ہی کی تعلیم میں ہیں جس نے تمام جھوٹے امتیازات کو اکٹھا  
دیا ہے۔ اور سب کو زندہ دلوانا خداحی اقصیوم کا یکساں بندہ بنا دیا ہے

## اصولِ پنجم

”اسلام ایک سادہ مذہب ہے“

بائبل میں جن لوگوں نے اسرائیلیوں کے طریقہ عبادت کو معلوم کیا ہے۔  
چشمہ عبادت کے پیروں کی رنگتیں، چاندی، سونے کے برتن، خدام کی وردی،  
امام کا لباس، بخور کی مقدار، خطا کی قربانی، نذر کی قربانی، تقرب کی قربانی کے طویل  
و پیچیدہ احکام پر اطلاع حاصل کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان احکام کی تعمیل کس قدر  
دشوار ہے۔

مخوس میں مقدس آگ کے زندہ رکھنے کے احکام، اور ان کی تعمیل میں مصافحہ  
اور غور و پرداخت کی دشواری بتا رہی ہے کہ سلسلہ کس قدر طویل ہے۔  
ویدانسا رسدھیا کرنے والا اگر ٹھیک طور پر ہون کرنا چاہے۔ تو اسے ایک  
دن میں تین بار ہون کرنا چاہیے۔

ایک ہون میں گھی کے سولہ چمچے (آہوتی) ضروری ہیں۔ ایک دن میں سترھیا  
کے لئے چوبیس تولہ گھی کی ضرورت ہر شخص یا ہر کنبہ کو ضروری ہے۔ چوبیس تولہ  
گھی کی جو آج قیمت ہے۔ اس کا اندازہ سامعین خود لگالیں۔

ہمارے سیاسی لیڈر ہندوستان کا افلاس ثابت کرنے کے لئے ہر ایک  
ہندوستانی شخص کی آمدنی کی اوسط نو پائی بتایا کرتے ہیں۔

اب ہون پر خیال کرو۔ کہ صرف ہوا کو خوشبودار بنانے کے لئے چھ آنہ یومیہ گھی کی ضرورت ہے۔

یہ گھی ہون کی ۳۵، ۳۶ چیزوں میں سے ایک چیز تھا۔ ہون میں تو کستوری، مشک خالص بھی درکار ہے۔

کیا ایسے احکام ایسے غریب ملک کے لیے موزوں ہیں۔

لاشہ سوخت کرنے کے لیے گھی کی ضرورت کبھی پیس سیر اور کبھی لاشہ کی ہون بتائی گئی ہے۔ غالباً امیر و غریب کا لحاظ کر لیا گیا۔ مگر حالت موجودہ میں کیا پیس سیر گھی فی لاشہ مہیرا سکتا ہے۔ شرح اموات کے نقشوں سے تعداد اموات معلوم کر لو اور اس تعداد میں پیس سیر کو ضرب دو۔ یہ احکام ظاہر کرتے ہیں کہ مذہب کی پابندی کو کتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ مذہب خود مذہب والوں کی دسترس سے کتنا بلند، کتنا دور ہے۔

اسلام میں بھی روزانہ عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی پر زور بھی بہت دیا گیا ہے حتیٰ کہ اسے کفر و ایمان میں ماہ الامتیاز بنا لیا گیا ہے۔ اس عبادت کا نام نماز ہے۔ نماز کی تیاری کے لئے صرف ایک لوٹا پانی کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ملے، تو ملے ورنہ وضو کی قائم مقامی کے لیے نیم موجود ہے۔

اسرائیلیوں اور ہندیوں کے تکلفات اور اسلام کی سادگی کا موازنہ نہایت عجیب ہوگا۔

اسلام کا ایک رکن صوم (رمضان) ہے روزہ کی ابتداء و انتہاء، طلوع فجر اور غروب شمس کو کٹھنرایا گیا۔ یہ ایسی بین علامتیں ہیں کہ ہر ایک شخص ان کو کھلی آنکھ سے

دیکھ سکتا ہے۔ نہ پتہ نہ بین گھڑی پل دیکھنے کی ضرورت اور نہ کسی گزینج سے گھڑی گھنٹے کا وقت درست کرنے کے لیے وقت منگانے کی حاجت۔

اس سے بڑھ کر خوبی دیکھیے کہ رمضان کے دن کس طرح ہیر پھیر کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے اور شمسی حساب پر کسی مہینہ کا روہ مہینہ کے لحاظ موسم ہر ماہ کا کوئی مہینہ ہوتا یا گرما کا مقرر فرما دیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ نصف کو ارض کے باشندے دائمی راحت و آسائش ہیں اور نصف کو ارض کے باشندے دائمی امتحان و تکلیف میں پڑ جاتے۔

اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ گورنمنٹ بھی اپنی رعایا پر "انکم ٹیکس" لگاتی ہے اور اس امر کا بھی لحاظ رکھتی ہے کہ ٹیکس کی شرح گراں نہ ہو۔ مگر زکوٰۃ کی شرح تو اس سے بھی کم ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ صرف اموال نامیہ پر ہے اور وہ بھی جملہ مصارف کے بعد اصلی بقایا پر اجرام مالک کے قبضہ میں موجود ہو۔

اسلام کا ایک رکن حج ہے۔ اس کی فرضیت میں شرط استطاعت لگی ہوئی ہے۔ سفر بگرد بر کو ضروری ٹھہرانا ان جملہ مقاصد کا جامع ہے جو حصول نتائج دانش و عبرت کے لیے مسلمہ ہیں۔ یا اس ہمت استطاعت سبیل کی شرط دال ہے کہ اسلام کتنا سادہ مذہب ہے اور اس کے ارکان کی پابندی شاہ و گدا اور غنی و بے نواسیب کو کیسی آسان ہے۔

## اصول ششم

”اسلام تبلیغی مذہب ہے“

یہودیوں، پارسیوں، سناٹن دہرمیوں اور چین امت والوں کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ دوسری قوم کا شخص ان میں شامل نہیں ہو سکتا۔



اب مشہور اقوام میں سے صرف عیسائی رہ جاتے ہیں۔ جو تبلیغ کا کام صدیوں سے کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس جناب مسیحؑ کی اجازت ہے؟  
 موجودہ اناجیل اربعہ کے مطالعہ سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب مسیح اپنے مذہب کو تبلیغی نہیں سمجھتے تھے۔

انجیل متی میں نہایت وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ کہ ایک عورت اپنی بیمار لڑکی کو لائی۔ تاکہ جناب ممدوح اسے اپنی روحانیت سے چنگا کر دیں۔ مسیح نے عورت کے چلنے پر توجہ نہ کی۔ جب شاگردوں نے اس بارہ میں عرض کی۔ تب مسیح نے فرمایا کہ جو روٹی پھول کے لئے اٹھا کر رکھی گئی ہو۔ کون اسے کتوں کے سامنے پھینک دیا کرتا ہے۔ اس مثال کے بعد انہوں نے بنایا کہ مسیح تو صرف بنی اسرائیل کے لئے ہے اور یہ عورت غیر قوم کی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ تو صرف بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھینٹوں کے لئے ہیں۔

یہ تو مسیح کے اقوال تھے۔ اب ان کی زندگی کا عمل بھی ملاحظہ ہو۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لیے اپنے شاگرد بھی بارہ ہی بنا لئے اور یہ بھی سب کے سب اسرائیلی فرقوں میں سے تھے۔ غیر قوم کا ان میں کوئی نہ تھا۔ مسیح نے جب ان کو تبلیغ کے لیے روانہ کیے تب بھی یہی فرمایا کہ ”غیر قوموں کی طرف نہ جائیں۔“

حضرت مسیح کا قول و فعل اس مسلمہ میں یقیناً قول فصل ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ مسیحی مذہب خود اپنے ہادی کے فتویٰ سے غیر تبلیغی مذہب ہے۔

حواریوں کے بعد یا ان کے علی الرغم جو غیر اتنا اس مذہب میں ہوئے، ان سے مسیح کی پاک تعلیم کی صورت بدل گئی ہے۔ اعتقاد کفارہ و تثلیث کے مسائل تیسری صدی کے پیداوار ہیں اور رُھبَانِيَّةً اَيْتَدَا عَوْھَامَا كَتَبْنَهَا عَلَیْہِم۔ کن فیل میں داخل ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے چھ لاکھ بہادروں کو دیکھو! جو سمندر چیر کر مصر سے فلسطین کو آ رہے ہیں۔ ان میں کوئی ایک بھی کسی دوسری قوم کا ہے۔

ان ستر بزرگوں کے نام معلوم کرو، جن کا انتخاب حضرت کلیم اللہ نے میقات الہیہ کے لئے فرمایا تھا۔ ان میں کوئی ایک بھی غیر اسرائیلی ہے۔

داؤد علیہ السلام کے سب سرداروں کے نام بائبل سے مل سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اسباط دروازہ سے باہر کا ہے۔

مسیح علیہ السلام کے بارہ شاگرد یا زیادہ سے ۱۲ کس ان سے اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ ان میں اولاد یقویہ کے سوا کوئی اور بھی ہے۔

شری کرشن جی ہمارا ج کی گیتا کو دیکھو! ان کے مخاطب ارجن پوجی ہی ہیں۔ ہاتھ باندھ کے چھ شاگرد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے ملک یا زبان کا ہے۔ زرتشت فرخ نہاد کا پیر و دربار گشتا سے ہے یا ہر بھی کوئی پایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان مایوں نے ان کیاریوں میں سب ایک ہی قسم کے پھول لگائے تھے۔

صاحبان! یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کا تبلیغی مذہب ہونا صرف دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔

طریقے اول :- بانی مذہب کا تبلیغ کا مدعی ہونا۔

طریقے دوم :- خود بانی مذہب نے تبلیغ کا کام عملاً سرانجام دیا ہو۔

یعنی خود بانی مذہب کا قول اور فعل اس مسئلہ کا ثبوت بن سکتا ہے۔ اور پس

اسلام کے متعلق بھی ہم اس کسوٹی سے آزمائش کرتا چاہتے ہیں۔

طریق اول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس فرمان کی اشاعت علی الاعلان فرمائی ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

کہہ دیجئے کہ اسے نورا انسان کے بچو! میں

تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ

جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اس کے

لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

سوا اور کوئی بھی معبود نہیں۔

آیت بالا میں يَا أَيُّهَا النَّاسُ اور جِبِيْعًا کے الفاظ کو دیکھو! کتنے وسیع

ہیں۔ پھر قرآن مجید کے طرز خطاب پر غور کرو۔

وہ کسی جگہ یا ایہا الذین امنوا کہتا ہے۔ اس جگہ صرف وہی مخاطب ہوتے

ہیں جو داخل اسلام ہو چکے ہیں۔

وہ کسی جگہ یا اهل الكتاب کہتا ہے۔ اس جگہ یہود و عیسائی ہی کی طرف

خطاب ہوتا ہے۔

وہ کسی جگہ یا ایہا الکافرون فرماتا ہے۔ اس وقت اس کے مخاطب صرف

وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام سے انکار کرتے ہوئے خود اپنا یہ نام تجویز کر

لیا ہے۔

الغرض خطابات بالاسے مخاطب خاص خاص فرقے ہوا کرتے ہیں، مگر آیت بالا کا طریق خطاب بالکل برالہ ہے۔ اور ایسی عمومی مہیتنا لیے ہوئے ہے جس سے نسل انسان کا کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں رہ سکتا

اول تو اسم تاس موجود ہے۔ یہ ایسا اسم جنس ہے جس کے احاطہ سے وہی باہر رہ سکتا ہے جو انسان کہلاتے کا روادار نہ ہو۔

دوم۔ اس پر بھی الف، لام، ہو موجود ہے۔ جو اسم کو لغوی معنی میں محکم بنا دیتا ہے۔ سوم۔ جمیعاً کا لفظ ہے جو معنی بالا کا اثبات کرتا ہے۔ اور اس کے سوا باقی ہر ایک تاویل کو غلط ٹھہراتا ہے۔

طریق دوم کے ثبوت کو دیکھو کہ حکم بالا کی تہمیل کیونکر کی گئی۔

شاہان عالم کے نام فرمان لکھے گئے۔ سفیر بھیجے گئے۔ سفیر بھی وہ جو اس ملک کی زبان میں گفتگو کر سکتے تھے۔ ہر ایک بادشاہ کو اس کے ممالک مفتوحہ مقبوضہ کی جملہ اقوام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ہر ایک کو انجام اطاعت اور فرجام طغیان کھول کر سمجھایا گیا۔ کاروائی کا آغاز رب العالمین کے حکم سے ہوا۔ ایسی کاروائی کو کوئی پہلی نظیر بھی دنیا میں موجود نہ تھی۔ اب دیکھو کہ رب العالمین ہی نے جو دلوں کا مالک ہے جو ارواح پر حکم چلاتا ہے۔ اس کام میں کیا برکت ڈالی۔

ایک زمیندار کا کام ہے۔ زمین کو قابل کاشت بنانے۔ اس میں اچھا بیج گولٹے۔ مگر یہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ کہ وہ دانہ زمین سے سرسبز ہو کر بھی نکلے۔ اس میں سی بالیں لگیں۔ ہر ایک بال میں ان گنت دانے بھی ہوں۔

یہ مثال سمجھ کر دعوت محمدی میں نصرت ربانی اور برکت سبحانی کا نظارہ کروا دیا

محمدی پر نگاہ تحقیق ڈالو! اور دیدہ حق ہیں سے دیکھو کہ ملک ملک کے رتن، قوم قوم کے جو اہر ریزے، ہر ایک مذہب کا پیشوا، ہر ایک فرقہ کا راہنما کیونکر اس دربار ہر پانچا انوار میں حاضر ہو گیا ہے۔

### یہود

یہود میں سے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے یہ یہودیوں کے ربی اعظم ہیں اور سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نژاد سے ہیں قوم میں امام ابن امام کے نام سے مشہور تھے۔ اور سیدنا داؤد ابن سیدنا کے لقب سے ملقب تھے۔ سب امتیازات کو چھوڑ چھاڑ کر دربار محمدی میں بزمہ تھام بیٹھے ہوئے ہیں نصرت و جہ اور تازگی رخسار سے آشکار ہے کہ اس ترقی منسوب پرشادان فرہان ہیں۔ رفاعہ بن سمویل رضی اللہ عنہ کو بھی برابر میں دیکھ لو! یہ سرداران خیبر میں سے ہیں حضور کی خدمت میں پہنچ جانے کو امرائیل کی اصلی کھوئی ہوئی حشمت کائل جانا سمجھتے ہیں۔

### عیسائی

عیسائیوں میں سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاضر ہیں۔ مشہور سنی حاتم طائی کے کھوتے فرزند ہیں۔ فرقہ رکوسیہ کے لارڈ لٹنٹپ، قوم ان کو پیداوار کا ایک چہارم نذرانہ دیا کرتی ہے۔ اب ساری جاہ و نمکنت سے دست بردار ہو کر حضور کے قدائیوں میں جاگزیں ہیں۔

### نیمہ داری

عرب کے مشہور قبیلہ لخم کے پادری، جہانگیر بھرو برآزمودہ ہیں۔ عجائبات عالم میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اب حضور کے رخ انور پر ناک لگائے بیٹھے ہیں۔ اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں۔

بسیا خوبان دیدہ ام بہر تباہ زبیدہ ام آقا کہا کر دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری  
 ابو اسر ایل لیسیر رضی اللہ عنہ، مشہور منک سخت راہب تھے عرب کا گرم آفتاب  
 ان کا ظلم تھا۔ اور زبیدہ اجماران کا فرزند، اب دین القدرت کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں  
 مجوس

مجوس میں سے سلمان پارسی حاضر ہیں۔ بڑے زبندار کے لادے فرزند تھے، بنی  
 موخورد کی تلاش میں عراق و عجم اور شام و فلسطین گھومتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ آقائے دو  
 جہاں کے انتظار میں ایک یہودی کے غلام بن کر زبیدت بسر کر رہے ہیں۔ اسلام کے بعد  
 حسب و نسب کی بزرگی کا زبان پر لانا حرام سمجھتے ہیں۔ اور سلمان بن اسلام بن اسلام کے  
 سبعین مرۃ کہہ کر سامعہ تو از سائل ہیں۔

جو بانی حقیقت کو اگر ابھی اور بھی مختلف ممالک کے اشخاص کی تلاش ہے تو  
 اسے دیکھ لینا چاہیے کہ

جس کا بلال، روم کا صہیب، ایشیائے کوچک کا عداس، افریقہ کا باقوم بھی کر  
 بستہ حاضر ہیں۔

کیا منتش کی نگاہ مختلف طبقات کی طلب میں ہے آؤ! بادشاہوں کا نظارہ  
 مطلوب ہے تو وہ بھی موجود ہیں۔

شاہ دومۃ الجندل	اکیدہ
شاہ بحرین	جینرہ
شاہ ابی سینا	اصمہ
شاہ حمیر	ذوالکلارہ

یہ لوگ عبداللہ ذوالسجاد، اور ابو ذر، و مقفاد کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے  
ان مالکان تخت و تاج نے ان دلق پوشوں میں کیا بات دیکھ لی ہے۔ کہ ان کے آگے بڑھ  
کر بیٹھنا خلافت ادب سمجھ رہے ہیں۔

ہاں!

یاذان کو دیکھو! یہ ملک یمن کا وائسرائے ہے اور سلطنت ایران کی طرف سے  
مختار کل ہے۔

فرورہ خزاہی کو بھی برابر میں دیکھ لو! یہ ملک شام کا وائسرائے اور سلطنت روما کی  
جانب سے حکمران مطلق ہے۔

دونوں کے دونوں دور ہی سے حفظ غلامی پیش کر رہے ہیں۔ ان کو نہ زوال حکومت  
کا ڈر ہے۔ اور نہ پچانسی کی پرواہ۔

اس دربار کے جو یاٹے اسرار کی نگاہ شوق ابھی بہت کچھ دیکھ سکتی ہے۔

ابن زہیر جیسا سخن گستر، اور نابغہ جیسا زبان آور، کعب جیسا زمر مہ سنج

اور حسان جیسا حقیقت پرداز

بھی موجود ہیں۔ انہیں لوگوں کے دعوے سننے کہ وہ ایک قصیدہ پڑھ کر قوم کو قوم

سے لڑا سکتے ہیں۔ یا قبیلہ کو قبیلہ سے ملا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سب کی زبان لال ہے۔

سب کا ناطقہ بند ہے۔ دعویٰ فصاحت و بلاغت بھول گئے۔ چپ چاپ زانوئے

ادب تڑکیے بیٹھے ہیں۔

ہاں! انہیں کسے پہلو ہیں

فاتح عراق

خالد بن ولید

ابو عبیدہ عامر  
فتح شام  
سعد بن ابی وقاص  
فتح ایران  
عمر بن العاص  
فتح مصر

کو بھی دیکھ لو! مالکان اور نگ و دیہیم تو ان کے نام سے لوزہ برانداز ہیں۔ مگر یہ سب یہاں  
تو نظر بر قدم، ہر برب لب، ہمتن گوش بیٹھے ہوئے ہیں۔

ذرا دوسری طرف بھی دیکھنا نجران کے عیسائی عالم اور تیمار کے یہودی امام موٹی  
موٹی کتابیں لا کر، اور بڑی بڑی دستار ہائے فضیلت سر پر سجا کر آئے تھے۔ دل میں یہ  
گھنٹ کہ ایک اسی کالا جواب کر دینا بھی کچھ مشکل ہے؟ ثبوت دعویٰ میں نورات سامنے  
لائی جاتی ہے۔

اب آفتاب علم باری کی نور باری شروع ہوئی تو سب کے سب بہت بڑھاموش  
ساکتے و خود فراموش ہیں۔ زبان پر کنت ہے اور اپنی ہی کتاب پڑھنے کی جرات نہ رہی۔  
صاحبان! کیا کوئی مورخ، کوئی محقق، کوئی ہمہ دان، کوئی جہانیاں جہاں گشت اس  
جامعیت کا دربار، کسی دوسرے دربار میں بھی دکھلا سکتا ہے؟  
اگر نہیں! اور مجھے تو بحتی یقین معلوم ہے کہ ہرگز نہیں۔

تب یہ صداقت نور شید جہاں افروزین جاتی ہے۔ کہ اسلام ہی واحد تبلیغی مذہب ہے  
معتز مسلمان! اسلام کے تبلیغی مذہب ہونے کا ثبوت اس کی قوت انجذاب  
سے بھی ملتا ہے۔ حقیقت صادقہ یہ ہے کہ اسلام اپنے اندر ایک ایسی کشش رکھتا ہے  
جو دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب میں سے کسی میں نہیں۔

حاسدین اسلام چاہتے ہیں کہ اس کی اس طاقت کا علم دوسروں کو نہ ہونے پائے



اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ "اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا۔"

اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار تھی۔

لیکن وہ کیا چیز تھی، جس نے ایسے ایسے شمشیر زدن اپنے قبضہ میں کر لیے تھے۔ ہاں وہ

اس کی دوسری طاقت تھی۔ روحانیت اور صداقت

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر جو گھر سے مسلح ہو کر اس لیے نکلا تھا کہ

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اپنی شمشیر کی کاٹ دکھلائے۔ وہ کیوں کر چند ہی

ساعات کے بعد مرجع بکاٹے شمشیر بگردن کھڑا ہے۔

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ خالد بن ولید جس نے غزوہ احد میں اسلامی لشکر کے

نظم و نسق کو تہ و بالا کر دیا تھا اور سکندر رومی کی سی شان کے ساتھ وطن پہنچا تھا پھر

وطن سے کس طاقت سے مغلوب ہو کر آبلہ در قدم، تفسیرہ لب، فدایانہ رنگ اور

عاشقانہ روپ میں مدینہ جا حاضر ہوا تھا؟

کوزل بن جابر القہری

عین بن حسین الفزاری

سہیل بن عمرو قرظی

ثمامہ بن اثال نجدی

ابوسفیان بن حزامی وغیرہ وغیرہ

بہت ایسے لشکر کش، سپہ سالار، اور سرداران قبائل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی فوجی

طاقت کو کبھی اپنی نگاہ میں وقعت نہیں دی لیکن یہی لوگ تھے کہ اسلام نے اپنی

روحانی کشش سے ان کو اپنی طرف ذرا کھینچا۔ تو یہ بے اختیار ہو کر اسلام میں منجذب

ہو گئے

یہ ذکر تو ان سرداروں کا ہوا جو کسی نہ کسی سر یہ یا غزوہ میں اسلام کے سامنے مفاہم  
آرا بھی ہوئے تھے۔

آپ کو اسلام کی طاقت، انجذابی کا حال دیگر ممالک سے معلوم کرنا چاہیے۔  
میں حضرت جبر، اطسا، بحرین، حبشہ، وہ اقطاع عالم ہیں جہاں اسلام کا ایک  
سپاہی بھی نہیں گیا تھا۔ اور یہ ممالک بجائے خود ایسی زبردست حکومتوں کے تحت تھے  
جنہوں نے کبھی قریش کی طاقت یا حجاز کی حکومت کو تسلیم بھی نہ کیا تھا۔

مگر حضور ہی کے عہد ہمایوں میں یہاں کے بادشاہوں، فرمانرواؤں، حکمرانوں نے  
اپنے اپنے مستقران سلطنت سے عراق، غلامی، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا  
ومولینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں روانہ کر دی تھیں۔  
معشر مسلمین! اسلام کے منجانبی القیوم ہونے کا ثبوت۔

اسلام کے زندہ رہنے والے مذہب ہونے کا ثبوت یہی ہے۔ کہ وہ طاقت  
وہ کشش، وہ جذبیت، وہ دل ربانی جو اسلام میں بعد مصطفوی موجود تھی۔ اس کی  
تاثر اس کا اثر، اس کا نمونہ بعد میں بھی موجود پایا گیا۔

ترکوں کی تاریخ پڑھو! انہیں نے ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں خلافت  
عباسیہ کو بے نام و نشان بنایا تھا۔ اس روز عروس البلاد کے گلی کوچے، اپنی آنکھ  
کے تاروں مظلوموں کے خون سے سراپا شفق تھے۔ اور دریائے دجلہ قلبی کتابوں  
کی روشنائی سے سیاہ پوش تھا۔

ایسی جبار اور دشمن اسلام قوم کو حکومت کرتے ہوئے پچاس سال بھی گزرے

تھے کہ مفتوحین کے دین نے فاتحین کے دل کو فتح کر لیا۔ اور ساری ترک قوم  
یکبارگی مسلمان ہو گئی۔

کیا اس قوم کا داخل اسلام ہو جانا اسلام کی روحانی طاقت کی دلیل نہیں۔  
اسبیہ وہی ترک قوم ہے کہ سائنس صدیوں سے یورپ میں بھیٹی ہوئی ہے۔  
یورپین تمدن، یورپین عیش و عشرت کے سارے نمونے اس کی آنکھ کے سامنے ہیں۔ مگر  
عیسائیت ان کے دل کو ذرا بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکی۔

ایک ایسا سلطان جو ایک ہی سفر میں ایران کو نیچا دکھاتا ہے، مصر کو داخل ممالک  
مخروسہ بناتا۔ یورپ سے خراج لیتا ہے وہ اپنے القاب سلطان ابن سلطان اور خاقان  
ابن خاقان، مالک البرین و البحرین کے ساتھ ساتھ اگر کسی لقب کو اپنے تمام کے ساتھ شامل  
کرتا ہے۔ تو وہ خادم الحرمین ہے۔

سلطان اس لقب کی تعظیم میں پہلے کھڑا ہو جاتا اور پھر جلدی سے رب العالمین کے  
حضور میں پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ سچ ہے، دنیا اپنی قدر و قیمت میں دنیا واپس  
سے گواں تر ہے۔

سرخدی اقوام اور افغان اقوام کے اسلام کا حال معلوم ہے۔ کہ ایک ہی ہفتہ کے  
اندرا سلام نے سارے ملک کے دلوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ اور اپنا نبایا تھا۔

اگر تلوار کسی قوم سے اس کا مذہب چھین سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ برطانیہ کی توپیں  
اور ہوائی جہاز کیوں ان لوگوں کو کم از کم آئین پسند نہیں بنا سکے۔

لوگ اور رنگ زیب کے تعصب کی کہانیاں کہا کرتے ہیں۔ مجھے ان کی اصلیت  
پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر کسی نے کبھی یہی خیال کیا کہ یہ شخص تو قوم کا مغل

تھا۔ اس کی قوم برسوں تک اسلام کے مٹانے، اور بے نام و نشان بنانے میں سعی  
رہی۔

اب اس قوم میں اسلام کی نسبت یہ توغل، یہ عصبیت، یہ جنیہ داری کیوں کر پیدا  
ہو گئی۔ اور کیوں کر عصبیت فی الدین کا خیال محبت پدر و برادر سے بھی بالاتر ہو گیا۔  
میرا مضمون طویل ہو رہا ہے۔ اس لیے مجھے رک جانا چاہیے۔

یہ جملہ نظائر ہی بتلاتی ہیں کہ صرف "اسلام ہی میں وہ واحد قوت اور کشش ہے۔ جو  
ملک کے ملک، اور قوموں پر قوموں کو اپنے اندر منجذب کر سکتا ہے۔  
اسلام آج کل بھی افریقہ کو فتح کر رہا ہے۔ اور مشن کا سارا زور اس کی فتوحات کو نہیں  
روک سکتا۔

اسلام آج کل یورپ میں بھی اڈکٹوریڈ آٹانائی اکادریس ننقصہا من  
آظرا خیرھا کا جلوہ دکھا رہا ہے اور چرچ کوئی روک نہ سکتا۔  
یا دیکھیے! کہ

اسلام ہی ہے جو مشرق سے مغرب کو ملا سکتا ہے۔ اور  
اسلام ہی ہے جو یورپ کی دہریہ پر روحانی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ یہ  
اسلام ہی ہے، جسے بے دھڑک ایک دہری، ایک فلسفی، ایک متدین، ایک  
متشکک کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔

یہ اسلام ہی ہے جس نے فلسفہ قدیم و جدید کے حملوں کو برداشت کیا اور پھر حملہ  
آوروں کو اپنے سایہ عاطفت میں آسودگی سے رہنے کے لیے جگہ دی۔

## اصول ہفتم

”اسلام مذہب کامل ہے“

موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو پڑھو! وہ خدا کی برگزیدہ قوم کو وعدہ کی زمین پر پہنچانے سے پیشتر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔

ان کی پانچویں آخری کتاب کے آخری باب میں لوگوں کو شعیر و فاران کے انوار کا منتظر بنایا گیا ہے۔

پرانا عہد نامہ میں انجیل یوحنا کا خاص درجہ ہے۔ وہ مسیح کے لاہوت کی کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ اس میں روح الحق کے قدوم کی خبر اور اس کے وقت میں تعلیم کے کامل ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔

ان سب مبشرات کو پورا کرنے والا اسلام ہی ہے۔ اسلام کے سوا کسی آسمانی کتاب میں آگمڈت تکدر دینکدر کا اعلان کسی مذہب نے نہیں سنایا۔ اسلام کے سوا کسی تعلیم نے ترقیات روحی کو رضوان الہی تک نہیں پہنچایا۔

اسلام بلا امانت دیگر سے مکمل ہے۔ اور اسلام جملہ ادیان صادقہ کی تعلیم کی تکمیل کرتا ہے۔ اس لیے کمال دین اور اتنام نعمت یہ دو ایسے فضائل ہیں جن میں اسلام کا کوئی بھی سہیم نہیں۔

صاحبان اہل دین وہ سائنس زدہ اصول جو اسلام کی زندگی اور ترقی، فراخی اور زینتگی کا سبب ہیں۔ اسی لئے اسلام نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم اور ہر ایک براعظم میں قدم جما لیا ہے اور یٰظہر کما علی السببین کلمہ کا نور پھیلا رہا ہے۔ مبارک ہیں جو اس زندہ اور پائندہ مذہب کے سانچے اپنی زندگی کو وابستہ کر رہے ہیں۔

معشر مسلمین! اسلام کے متعلق جو خدا کا فرمودہ ہے۔ وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔  
 مالک کو امن بسبب اور قلوب کو اطمینان کلی اسلام ہی سے ملے گا لیکن کیا میں یہ دریافت  
 کرنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ آپ خود بھی کچھ خدمت اس دین پاک کی سرانجام دے  
 رہے ہیں۔

اسلام کی تاریخ پر غصو!

ایک وہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے جانیں قربان کیں۔

ایک وہ تھے جنہوں نے اسلام پر خزانے تیار کیے۔

ایک وہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے وطن چھوڑا، خویشی و اقارب سے منہ

موڑا، صدق کیا یا دین بچایا اور مالک کی کھلی سرزمین پر پھیل گئے۔

ایک وہ تھے جنہوں نے صادقین کے سامنے دل و دہیدہ کو فرش راہ بنایا۔ ان کی

راحت و آرام کے لئے خود گونا گوں مصائب کو برداشت کیا۔

ایک وہ تھے جنہوں نے نشر علوم پر کمر باندھی، اور ان کی سیاہی نے خون شہداء کے

برابر ترانہ دئے عمل میں جگہ حاصل کی۔

ایک وہ تھے جنہوں نے اعلائے کلمۃ الحق کو زبان میں کھولا۔ اور لاکھوں خواب

غفلت میں سونے والوں کو جگا جگا کر اپنا ہم آواز وہم نوا بنالیا۔

ایک وہ تھے جنہوں نے دل و ہوش اور دہیدہ گوش کو صداقت پر لگایا اور اسی

صداقت کو اپنے لیے زاد آخرت بنایا۔

کیا اب آپ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا شمار کس جماعت میں ہے؟

نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ آپ کا حصہ ان میں سے کسی میں بھی نہ ہو!

پیارے مسلمانو!

اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔

سرور کائنات کو منہ دکھانا ہے۔

فرقان حمید کے مواجہہ میں جواب دعویٰ پیش کرنا ہے

اسلام کی سند دکھلا کر رہائی حاصل کرنا ہے

كُنْتُمْ لِيَوْمِئِذٍ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّبِيِّينَ ۝

ان سب باتوں کی فکر آج کر لیجیے

مرد باید کہ گیر داند رگوشش در نوشتن است پسند برد و پوار

خاکسار

محمد سلیمان سلیمان منصور پوری

## خطبہ صدارت

(یہ قاضی صاحب مرحوم کا وہ خطبہ صدارت ہے جو آپ نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پندرہویں سالانہ جلسہ آگرہ میں ۳۰ مارچ ۱۹۲۵ء کو پڑھا۔ اور حاضرین نے نہایت توجہ سے سنا، اور جماعت میں نہایت قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔)

(خادم)

الحمد لله نحمدك وتستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ  
بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهتدا الله فلا مضل  
له ومن يضل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان  
محمد عبدا ورسوله بالحق بشيرا ورتنا بين يديك الساعة  
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصم امانته لا يضرك  
ولا يضرك الله شيئا له

اما بعد فان خيرا الحديث كتاب الله وخيرا الهدي هدي محمد <sup>صلى</sup>  
الله عليه وسلم وشرا الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة  
ضلالة له وكل ضلالة في النار



اٹیھا الساداة المکرامة!

آل انڈیا کانفرنس اہلحدیث کا یہ تیسرا دورہ سالانہ جلسہ ہے۔

اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد استاد الاستاذہ حافظ عبدالمد صاحب غازی لوری

رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ صدارت میں اس کانفرنس میں مندرجہ ذیل بیان فرمائے تھے۔

آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے مقاصد

مقصد اول :- اشاعت و تالیف و تصنیف کتب دینیہ۔

مقصد دوم :- اشاعت اسلام

مقصد سوم :- فرق ضالہ کی تردید اور مناظرہ

مقصد چہارم :- ان بدگمانوں کا ازالہ، جو اہلحدیث کی نسبت پھیلی ہوئی ہیں۔

مقصد پنجم :- اہل حدیث کے باہمی اختلاف کا ازالہ۔

مقصد ششم :- حکومت کی وفاداری کے ساتھ ساتھ اپنی دینی و دنیوی ترقی کا انتظام۔

بس یہی بڑے بڑے مقاصد اس کانفرنس کے قیام کے وقت مد نظر تھے اور

اب تک یہی مقاصد مد نظر ہیں۔

میں اس خطبہ میں کوئی نئی بات بیان نہیں کروں گا۔ بلکہ اپنی مقاصد سننے کے متعلق

گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

مقصد اول

اشاعت کتب و تالیف و تصنیف ہے۔ میں پوچھتی کہہ سکتا ہوں کہ اس مقصد

کے تحت علماء نے کتابیں لکھیں، اور تالیف و تصنیف کی خدمت کو ضرور ادا کیا،

لیکن یہ جملہ مساعی علماء کی طرف سے انفرادی طور پر ہوتی رہی ہیں۔ آئندہ کے لئے مجلس

شورہ می گوید اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ کیونکر کافر سے ہذا سے وابستہ ہو سکتا ہے

### مقصد دوم

کافر سے کامقصد دوم اشاعت اسلام ہے یہی سب سے بڑا کام ہے یہی دشمن  
تربین فرض ہے

اس سطح عالم پر (جہاں ہم اشاعت اسلام کرنا چاہتے ہیں) نظر ڈالنے سے معلوم  
ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مذہب و ادیان کی تقسیم و اصناف پر کی جا سکتی ہے

(ا) تبلیغی مذہب

(ب) غیر تبلیغی مذہب

### تبلیغی و غیر تبلیغی مذہب

غیر تبلیغی مذہب کے تحت یہودی، پارسی، مورنی پوجنے والے، سنان دھرمی، آدھندو  
قبطی، ہنٹی، امریکہ کے باشندگان قدیم چین مت شامل ہیں۔  
تبلیغی مذہب مورخین نے تین ادیان کو قرار دیا ہے۔

(۱) بدھ ازم (۲) عیسائیت (۳) اسلام

### بدھ ازم

بدھ ازم کو تبلیغی مذہب قرار دینے میں مورخین کو مغالطہ ہوا۔ یعنی انہوں نے جہاں  
گوتم بدھ جو ہندوستان میں پیدا ہوئے اور اسی جگہ ناآخروم رہے (کو ہندوستان میں اور  
ان کے ماتھے والوں کو ہندوستان سے باہر یعنی مشرقی سرحد، برہما، سیام،  
ملا یا اور چین میں موجود دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی بات بدھ ازم کے تبلیغی ہونے  
کی دلیل ہے۔

لیکن میں جرات سے عرض کروں گا کہ یہ سب لوگ، تو اپنی ہندی اشخاص کی اولاد ہیں جو اپنے دشمنوں سے شکست کھا کر اور اپنی جانیں بچا کر ان مشرقی ممالک میں پہنچ گئے۔ گو بیان لوگوں نے بد بھازم کو وراثتہ حاصل کیا ہے۔ اور اس میں تبلیغ کا دخل کچھ بھی نہیں۔

مزید برآں یہ بھی دیکھئے کہ قابل ہے کہ جب بد بھازم کی نصابت میں اتنی وصفات باری تعالیٰ کے متعلق کوئی غلطی نہ ہو تو یہ سچ و نہیں۔ تو کیا اندر میں سمجھتا ہوں کہ لفظ مذہب کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں؟

میرے نزدیک اسے ایک سو سائٹی کہا جاسکتا ہے اور اگر اس کے ٹکڑے کوئی صنفی نام اضافہ کرنا چاہیں تو اسے اخلاقی سو سائٹی کہہ دینا کافی ہوگا خود جہاننا بدھ کی سیرت ظاہر کر دے گی کہ یہ مذہب تبلیغی اور صاف سے بہت دور ہے۔

### جہاننا گوتم کی سیرت

جہاننا گوتم کا جوان پوری اور شہر خوارا بچہ کو چھوڑ دینا کیا دنیا کے سامنے بطور تبلیغی اصول کے پیش کیا جاسکتا ہے۔

جہاننا گوتم کا اپنے انتہائی کمال میں ایام میں روزانہ کشکول ہانڈے میں سے کراہی دنیا کے دروازے پر ننگے سر چپ چپ کمر سے ہو جانا اور اس طرح روزانہ کھوجن کا انتظام کرنا کیا تبلیغی اصول قرار دیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں، تو ہم الہی سیرت پر مدد کر اور کس کی سیرت کو بطور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔

## عیسائیت

اب عیسائیت کو یحییٰ جو عیسیٰ مسیح کے مبارک نام کی طرف منسوب ہے، کہا  
یہ تبلیغی مذہب ہے۔

تمام دنیا کے عقلا کے نزدیک مسلمہ قانونی مسلمہ یہ ہے کہ بیان مدعی کے بغیر  
کوئی دعویٰ نہیں چل سکتا۔

ن تلاش کرو، کہ حضرت مسیح نے کبھی اپنے آپ کو یا اپنی ہدایات کو بطور تبلیغ عالم یا  
تبلیغ عام پیش کیا۔ اس کا جواب ہم کو انا جیل سے بھی مل جاتا ہے۔ اور قرآن جلیل سے بھی  
مسیح کی تعلیم پارہ شاگردوں کو

متی، ۱۰، باب ۵، درس پڑھو! مسیح نے اپنے بارہ شاگردوں کو تبلیغ کے لیے روانہ  
کرتے وقت فرمایا تھا

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا“

اس حکم کے بعد عیسائیت کو تبلیغی مذہب کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

میں متی، ۱۰، باب ۵ کے درس ۲ پر توجہ دلاؤں گا۔ اس میں ان شاگردوں کے نام درج

ہیں جن کو مسیح نے اپنی تعلیم کے لیے برگزیدہ کیا تھا۔ کیا ان بارہ کے اندر کوئی ایک غیر  
اسرائیلی بھی ہے؟

اس سے نتیجہ نکلے گا کہ مسیح نے کس طرح اپنی تعلیم کو بنی اسرائیل کے لئے حاصل و محدود

فرمایا تھا۔

مسیح اور اس پر ایمان لانے والے

کتاب اعمال کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ اس میں مسیح کی زندگی میں مسیح پر ایمان لانے والوں

کی تعداد کا اندازہ ۲۴۷ کس کیا گیا ہے۔ کیا ان میں کوئی بھی غیر اسرائیلی شامل ہے  
 ہیں کہتا ہوں کہ اس نتیجہ سے بھی زیادہ صاف حضرت مسیح کا یہ ارشاد موجود ہے  
 ”میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھٹیروں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا  
 گیا“  
 (متی، ۱۵، باب ۲۴، درس)

### ارشاد مسیح

حضرت مسیح کی حیات طیبہ میں معلوم نہیں کہ ان کھوئی ہوئی بھٹیروں میں سے کتنی  
 بھٹیروں حضور کو مل گئی تھیں۔ مگر اب تو بنی اسرائیل کے بارہ اسباط میں سے صرف ڈہائی  
 اسباط کا نشان دہیا گیا ہے۔ اور باقی بھٹیروں بالکل گم ہیں۔ کہ سچنبیلٹی کے فدائی  
 اگر حضرت مسیح کے مشن کی تائید کرتے۔ تو ان گم شدہ بھٹیروں کو تلاش کرنے میں  
 اپنی کوششیں صرف کرتے۔ مگر انہوں نے تو ادھر توجہ ہی نہیں کی۔

### مسیح اور غیر قوم

ہاں مذکورہ بالا ارشاد مسیح کے علاوہ اس واقعہ کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جو متی،  
 ۱۵ باب میں ۲۱ سے ۲۶ درس تک مذکور ہے۔ واقعہ یہ ہے۔ کہ ایک کنعانی عورت  
 کی بیٹی دیوڑوہ تھی۔ اس نے مسیح سے درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو شفا مل جائے،  
 شاگردوں نے بھی مسیح سے اس کی بابت کہا۔ اب مسیح کا جواب جو صداقت کے  
 ساتھ خود کو صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا جانتے ہیں۔ سنو!

”مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو پھینک دیوں۔“

مسیح جیسا نیک دل اس فقرہ میں صرف اسرائیلیوں کو فرزند اور باقی سب کو  
 کلاب سے تشبیہ دینے پر اس لئے مجبور ہو گیا ہے۔ کہ آئندہ اسے مقررہ رقبہ اور مقررہ

حدود سے باہر کام کرنے کو بالکل نہ کہا جائے۔  
ان تمام نظائر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسائیت کبھی حضرت مسیح کے علم میں  
تبلیغی مذہب نہ تھا۔

## ڈین انگت

عہد حاضرہ میں انگلستان کے مشہور پادری ڈین انگت نے اس سے بھی زیادہ  
وزن دار سوال کلیسا کے سامنے پیش کر رکھا ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ کیا موجودہ  
عیسائیت حضرت مسیح کا مذہب ہے۔

اس سوال کا جواب مثبت دینے کی ابھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔

ہر روز مذہب بد مذہب اور عیسائیت کے بعد صرف اسلام رہ جاتا ہے۔ جسے  
خود مورخین عالم نے بھی تبلیغی مذہب تسلیم کیا۔ اور اس کا تبلیغی مذہب ہونا علم اور عمل  
سے بھی ثابت ہے۔

## اسلام

سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقبہ تبلیغ کی وسعت و مسالت  
عامہ کی مسحت، مخاطبین و مندرین کی عمومیت ایک ہی آیت فرقانہ سے بخوبی واضح  
ہے۔

## وسعت و اثر رسالت

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي	اسے نبی! کہہ دیجئے کہ اے نسل انسان کے بچو!
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِيئَانِ	میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں۔ وہ
أَنزِلَنِي لَكُمْ مَلَكًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ	اسد جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔

اب میدان عمل کی سیر کو تشریح کے لیے چلیے

کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی صرف اہل مکہ ہی ہیں۔ یہاں حضور تھے دس سال رسالت احکام ریائی فرمائی۔

کیا حضور پر ایمان لانے والے صرف حضور ہی کے خویش و اقارب کے لوگ ہیں۔ یا گروہ مومنین ہیں صرف حضور ہی کے وطن و دیار کے باشندے شامل ہیں۔

دین الہی نہیں فوج و رفق و اہل

یا ان سب سے بڑھ کر علی طور پر بھی جمیعت کا فہم جامعیت مرافقہ، جمیع کثیرہ

اور جماعات متکاثرہ، جنود و ناصب و وکلاء و جوہد اس میدان میں موجود پایا جاتا ہے۔ اور حیطہ

اسلام میں داخل ہونے والوں ہی پر اسم "الناس" جو جمیع اصناف اور جملہ انواع پر شامل

وہادی، عجیب و مختوی ہے، صادق آتا ہے۔

ہیں ہر ایک جو تشریح صداقت اور طالب حقانیت سے درخواست کروں گا۔

کہ وہ ہاجرین و انصار کے گروہ ابرار کو دیکھتے ہوئے اپنی نظر کو ان اقوام منعدومہ

تک بلند کرے جو انجذاب ایمانی سے کچھ کچھ کرشمس منیر ہدایت اور خورشید درخشاں

رسالت تک پہنچے اور پھر کا نجوم ہو کر فلک تبلیغ و ارشاد پر ضیا بخش ہوئے۔

نمونہ کے طور پر چند ممالک کے چند سابقین اولین سے اسمائے مبارکہ درج

کرتا ہوں۔

مختلف ممالک کے ثمرات اولین اسلام

سلمان فارسی، سالم مولیٰ ابی حذیفہ سفینہ

فارس سے

مولیٰ ام سلمہ (رضی اللہ عنہم)

بلبل، اسود

جیش سے

صہیب، باقوم

روم سے

فیروز دیلی

خراسان سے

عداس بنیوائی۔

ایشیائے کوچک سے

ابوعامر، ابو موسیٰ اشعری، ابو سمریہ

یمن سے

اب مختلف مدارج و طبقات کے لحاظ سے بھی چند نام آوروں کے گرامی نام

سن لیجئے۔ بادشاہوں میں سے

## بادشاہان

احمد نجاشی شاہ ابی سینیا

اکبر شاہ دوم مزاجندل

جعفر شاہ عمان

ذوالکلاع حمیری، شاہ حمیر

عبدیالیل تقفی، حکمران طائف

وائسرائران اول عظام

تائبان سلطنت

فردۃ الخداعی، سلطنت روما کا وائسرائے ملک شام

بازان سلطنت ایران کا وائسرائے یمن

حکمران قبائل

زبد الخلیل



(۳) طفیل دوسی

(۱۳) ثمامہ بن اثال

(۱۲) حصین بن یحییٰ

کشور کشتیان نام آمد

فاتیحین ممالک

(۳۱) شمس بن فیس کنی

(۲) مثنیٰ بن حارثہ الثنیاتی

(۱۱) فحمان بن مفرن

آئندہ مہر

آئندہ مہر

(۱) خیر العین سلام، عالم الکتاب، از نسلی پندرہ سو سالہ صلوات علیہ الصلوٰۃ والسلام

(۱۳) سہیل خمیری رض

(۱۲) ابو امراہیل بسیر

عیسائی کے مہیا ثانی اور پشپ

(۱۲) تمیم داری

(۱) ابو ضرہ قیس بن مالک المازنی

(۱۳) طلح بن علی

(۱۳) عدی بن حاتم طائی

(۱۴) عباس بن مروان الشاعر السلمی

(۱۵) عمرو بن یحییٰ بن کعب وغیر ہم

کلید پر وار کعبہ

عثمان بن طلحہ

غزوہ ہند کا ذکر حسب ترتیب میں

ہندوستان کو اگر آپ سچے سچے نہ چھوڑنا چاہیں تو اس امر پر غور کر سکتے ہیں کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بھی بشارت فرمائی تھی یعنی عن ابی ہریرۃ وخصم اللہ لکبریٰ جلد

دوم ص ۱۱) اور یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ سندھ اور سواحل الہند پر اسلام تاجرانِ حجازی

کی تبلیغ سے قائم ہوا تھا۔

## انفردون وید اور الواب نشد

ہاں انفردون وید کا الواب نشد بھی ملاحظہ طلب ہے جس میں کلمہ طیبہ موجود ہے  
عہرشی دیاتندہ سرتی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور وہ اس کے اہامی ہونے کا ثبوت  
پیش کرنے سے بھی سکتا ہے۔

معشر مسلمین تفصیل بالا سے واضح و ثابت ہو جاتا ہے کہ تبلیغ صرف اسلام  
ہی کی خصوصیات ہیں سے ہے

## خصائص اسلام

اسلام ہی نے بد و ایام سے خود کو تبلیغی مذہب بنایا۔

اسلام ہی نے اس میدان میں اولین کام اٹھایا۔

اسلام ہی مختلف قوموں کے بتائیں مختلف ملکوں کی دوری مختلف اصناف  
مردم کے جدا گانہ رسوم و رواج، مختلف الاوان انسانوں کے اختلافات، مختلف  
آئینہ کی بیگانگی کو دور کرنے والا ہے

یہ اسلام ہی کی وحدت و دعوت ہے جس نے توحید کا سبق سب کو پڑھایا۔

جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے بحری و بری باشندوں کو ایسا متحد فریگانہ

بنایا کہ سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ سب کے دلوں میں ایک ہی ولولہ سب کے

دماغوں میں ایک ہی فہم و اندیشہ سب کی ارواح میں ایک ہی میلان سب کی طبائع

میں وحدت کی جانب رجحان پیدا کر دیا یہ اسلام ہی ہے جو فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

کا نظارہ عالم کو دکھلاتا، شاہ کو گدا کا اور آقا کو مولیٰ کا بھائی بنا دیتا ہے۔

بیشک تبلیغ ہر مسلمان کا فرض ہے یعنی فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین کے کلمہ

کلام کا ارشاد نبوی اسی کی سند ہے

مبطلین کیلئے چند اصول

تبلیغ کا کام کرنے والوں کو لازم ہے کہ وہ خالص اسلامی اصول کی تبلیغ کی تفہیم سے اپنا کام شروع کرے اور جزئیات میں نہ پڑے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوہ پاک سامنے ہے دیکھو اور غور کرو! کہ مکہ معظمہ میں حضور نے تفصیل شرائع کا ذکر کرتے فرمایا۔

صوم و زکوٰۃ و حجاب کا ان اسلام میں اکی فریضت ہے اور نہ ہی شائع کی گئی۔

حرمیت خمر کا اعلان غزوہ احد کے بعد ہوا

حرمیت متعمہ کا اعلان تمام غزوہ خیبر کے بعد ہوا

یہ اس استاد عالم و عالمیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصاب کی ترتیب ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت بصرہ فرورد ہے کہ اگر حضور پہلے ہی دن حرمیت خمر

وزنا کا وعظ فرماتے تو انکار عام کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ پڑتی، الا ماشاء اللہ

معتشر مسلمین اپنی سمجھتا ہوں کہ تبلیغ اسلام کے مراتب ہیں اگر ہم غیر مسلموں میں

تبلیغ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ اول خود ہم کو اس قوم کے معتقدات اور

مسلمات کا علم ہو۔

عیسائیت کا مطالعہ

ہندوستان میں ہم کو بسا اوقات عیسائیت اور ہندو دیت پر گفتگو کا موقع ملا کرتا

(۱) عیسائیت پر گفتگو کرتے وقتے کو بائبل کا علم ہونا چاہیے۔ ضرور ہے کہ وہ

تاریخ کلیسا سے باخبر ہو۔

ضرور ہے کہ وہ عیسائیت موجودہ کے بنیادی اصول یعنی تثلیث و کفارہ  
و ابنیت والوہیت کے مسائل کے تشوونما اور موجودہ ارتقار سے پورا پورا واقف ہو  
ضرور ہے کہ وہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور یوٹیلٹیرین کے ماہر الاہتمام  
سے باخبر ہو۔

ضرور ہے کہ وہ چرچ آف گرینک، چرچ آف ریشیا، چرچ آف انگلینڈ کے  
اختلافات صوری و معنوی کا علم رکھتا ہو۔

پاپا یان روما کے مسیحی اختیارات اور لٹنپ آف کنٹری کے دینی اختیارات  
(بشمولیت کنگ) اس کے پیش نظر ہوں  
ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اتنا جیل ارجہ کے بیانات کے تناقض و  
تضاد کو یاد رکھتا ہو۔ کتاب اعمال میں اور حوالوں کے خطوط میں جو مختلف تعلیم  
دی گئی ہے اسے جانتا ہو۔

یعقوب زاری، برنباس زاری اور پوپوس مبلغ کے جداگانہ طریقوں واقف ہو  
ہندو ازم کا مطالعہ

(ب) ہندو ازم کے متعلق ایک وہ ہیں جو چارویدوں، چھ شاستروں اور منوسمرتی  
کے علاوہ کسی اور کتاب کا حوالہ پسند نہیں کرتے۔

ایک وہ ہیں جو شری بدھ گوت اور ہماچھارت اور اٹھارہ پرتوں کا ڈسٹنٹ  
بھی تسلیم کرتے ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کو ویدوں سے کوئی تعلق نہیں ان کی کتابیں ان کے دیوتا  
بالکل ہی الگ ہیں (جینی، آوہنڈو) ان ہی میں شامل ہیں

میرے نزدیک اس فرق کو یاد رکھنا ضروری ہے۔  
 دیدوں کا مطالعہ نہایت ضروری ہے اگرچہ سخت مشکل یہ ہے کہ دیدوں کے  
 تراجم باقاعدہ موجود نہیں ہرشی دیانند سرتی جی نے دیدوں کا ترجمہ بجا شایہ لکھنا  
 شروع کیا تھا مگر وہ بھی اس کام کو پورا نہ کر سکے اور جس قدر انہوں نے لکھا ہے۔  
 اس کی تائید شارحین قدیم سے نہیں ہوتی اور زمانہ حال کے علمائے سنسکرت بھی ان  
 سے متخیر رائے نہیں۔

### مسلمان فضلاء سنسکرت

مگر مسلمان مبلغ ابوریحان ہارونی، ابومقتدر بلخی فیضی فیاضی اور داراشکوہ کے  
 رشحات قلم سے بہت کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہے  
 بزرگان قوم اشاعت اسلام کا ایک درجہ خود اپنے گھر میں ہے  
 مختلف قیہ مسائل پر گفتگو کرنا ایسے بربد عالم کا کام ہے جو مخاطب کو عزیز و  
 دوست سمجھتا ہو جو شکست و فتح کے لیے نہیں بلکہ محض اخلاص سے گفتگو کرتا ہو۔ جو  
 مناظرہ کے اختتام پر اسی انبساط و جبر کے ساتھ اچھے جس کشادہ پیشانی اور وسعت  
 خاطر کے ساتھ مناظرہ میں آیا تھا۔

### مقصد سوم

کافر کا مقصد سوم فرق ضالہ کی تردید اور مناظرہ ہے جس میں خیال کرتا ہوں کہ  
 مولانا ابوالوفانوار اللہ صاحب فاضل مترسری اور مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب میر  
 سیالکوٹی اس مقصد کے متعلق بہت کچھ کرتے رہے ہیں مولانا مولوی محمد صاحب سیالکوٹی  
 گڈھی بھی مقصد مذکور کی تکمیل کی جانب متوجہ ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ آل انڈیا کانفرنس کی سالانہ رپورٹ میں ان مناظرات کا ذکر بطور خلاصہ و پاداشت ضرور ہو جایا کرے۔

### مقصد چہارم

ان بدگمانیوں کا ازالہ ہے جو اہل حدیث کی نسبت پھیلی ہوئی ہیں۔  
میں کہتا ہوں کہ ہر ایک جماعت، ہر ایک فرقہ ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے متعلق جو بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے ازالہ میں سعی کرے اس سے بدگمانی کا انسداد ہوتا ہے اور اِنَّ الظَّنَّ كَالْبُعْثِ مِنَ الْحَقِّ شَيْدًا كِي حَقِيقَتِ جَلْوَه كَر بُوْتِي ہے۔ بدگمان کو پشیمان ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور جو لوگ نیک نیتی سے بدگمانی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ انتباہ اور صحیح اطلاع کے بعد غیبت و بہتان کے زور سے بچ جاتا ہے۔

### اہل حدیث پر بہتانات

اہل حدیث کی نسبت کچھ بدگمانیاں ایسی ہیں جن کی اشاعت کے ذمہ دار جاہل و بے خبر لوگ ہیں یہ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں:-

۱- اہل حدیث رسول اللہ کا درجہ بڑے بھائی کے برابر جانتے ہیں۔

۲- اہل حدیث اولیاء اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔

۳- اہل حدیث کرامت کے منکر ہیں۔

۴- اہل حدیث امام صاحب کو برا سمجھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ چاروں بائیں قطعی غلط ہیں۔ بہتان عظیم ہیں، اور غرض محض ہیں۔

(۱) اہل حدیث کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ

اہل حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع عالم سید ولد آدم صاحب  
مقام محمود صاحب لوا، الحمد خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین، شفیع المذنبین سمجھتے  
ہیں بڑے بھائی کی حقیقت کیا ہے۔ اہل حدیث تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے  
بھنو، ابو بکر خدائے آباء، نادا و امہاتنا، ہمارے باپ دادا اور ہماری ماںیں اور دادیاں، نائیاں حضور پر  
قربان ہوں، کہا کرتے ہیں۔ اب بھی کوئی نہ مانے تو وہ جانے۔

(۲) اولیاء اللہ سے محبت رکھنا، صالحین کا ذکر خیر کرنا ان کے نام کو محبت اور ادب  
سے تہبان پر لانا، ان کی سیرت کے واقعات صحیحہ کو بیان کرنا ان کے لیے دعائے خیر  
کرنا اہل حدیث میں جاری و رائج ہے

### کرامت اولیاء

۳۔ کرامت کا کوئی منکر نہیں جب کسی بزرگ کی کوئی کرامت بروایت صحیح ثابت ہو  
جاتی ہے تو اسے دلیل صداقت اسلام اور نتیجہ اتباع رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم  
سمجھا جاتا ہے۔

### امام اعظم

۴۔ امام ہمام عالی مقام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث امام  
تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو یکے ازائمہ اربعہ جانتے ہیں فناوی میں ان کے مذہب کو دلیل کہتے ہیں

### تلامذہ امام اور خلافت

کسی مسلمہ میں توافقی کا نہ ہونا اس اصول پر ہوتا ہے جس اصول پر امام ابو یوسف  
رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا خلاف ہے امام زفر اپنے استاد سے خلاف

کرتے ہیں اہل حدیث سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ یا اس ہمہ کوئی صاحب بزرگوار  
کی نسبت یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ امام صاحب کو برا سمجھنے والے ہیں لہذا اہل حدیث پر بھی  
یہ بدگمانی نا درست ہے۔

### اہل سنت و اہل حدیث

ہاں کچھ بدگمانیاں وہ ہیں جن کا ذکر بعض اہل علم کی زبان و قلم پر بھی آجاتا ہے۔  
مثلاً اسم اہل حدیث کی نسبت کبھی کبھی کچھ کچھ سننے میں آجاتا ہے  
میں کہتا ہوں کہ جو اہل علم خود کو اہل سنت و الجماعت کہلاتا صحیح سمجھتے ہیں ان  
کو اسم اہل حدیث پر کوئی اعتراض نہ ہوتا چاہیے کیونکہ سنت اور حدیث دونوں  
معنی ہیں۔

### دائرہ اہل حدیث کی وسعت

اہل حدیث وہ ہے جو حدیث سے استدلال کرتا ہو جو حدیث رسول کو رشد و  
ہدایت سمجھتا ہو جو فرمان رسول کے سامنے رائے اور قیاس کو چھوڑ دیتا ہو اس تعریف  
کے مطابق ائمہ رابعہ اور ائمہ ظوہر یقیناً اہل حدیث ہیں اور مالکیہ و شافعیہ و حنابلہ احناف  
کے وہ سب علمائے کرام بھی اہل حدیث ہیں جو مسائل شرعیہ میں سنت نبویہ کو حجت سمجھتے  
ہیں جو حدیث رسول اکرم سے استنبہاد کرتے ہیں۔

مکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اہل سنت و الجماعت کا لفظ ہی کہاں ثابت  
جسے یہاں اہل حدیث کا مرادف یا مشبہہ بتایا گیا ہے۔

### علی مرتضیٰ و جماعت

میں کہتا ہوں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ارشادات پر صواباً



### سند پر اسے لفظ جماعت

الزُّمُّو السَّوَادَ الْاَكْبَرَ قَانَ يَدُ اللّٰهِ  
سوار اعظم کا لزوم کرو کیونکہ اللہ کا ہاتھ  
علیٰ الجماۃ (نوع البلاغ ص ۱۰)

سند پر اسے لفظ سنت (شلیح تفضلی اور سنت)

واقعہ محکم کے متعلق امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں

وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَا قَانَ تَنَارِ عَنَّمْ  
فِي نَبِيِّ فَرَدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ  
فَرَدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ تَحْكَمْ  
بِكِتَابِهِ وَرَدُّوهُ اِلَى الرَّسُوْلِ  
اِنْ تَاخُذْ بِسُنَّتِهِ -

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہارا آپس کا نزاع  
کسی چیز میں ہو جائے تو جھگڑا کو اللہ اور رسول کی  
طرف لے جاؤ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب ہے  
کہ قرآن کی رو سے فیصلہ کیا جاوے اور رسول کی  
طرف لے جانے کا مطلب ہے کہ حضور کی سنت

(نوع ابلاغ ص ۱۰۲، چاب تبریز ص ۲۲۷)

اہل سنت و الجماعت کے الفاظ کا ثبوت ہو گیا تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ  
تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلام رسول کو بلفظ حدیث بیان فرمایا ہے -

### حدیث قرآن میں

وَلَا تَاَسْرُ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ  
اَزْوَاجِ حَدِيثِنَا سُوْرَةُ تَمْرِيْمِ  
جب نبی نے ایک بیوی سے ایک حدیث  
راز میں کہی -

الفاظ حدیث کو یاد رکھنا، اسے بتوں کا توں ادا کرنا، نبی صلی  
اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور دعائے برکت کی تحت میں ہے

## حافظ الحدیث کے لیے دعا

نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِيحًا      اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جس  
 وَقَالَتْ فَوَعَاها وَ      نے میرا کلام سنا، اسے محفوظ رکھا۔ پھر جیسا سنا تھا  
 آذَاهَا كَمَا تَمِيحًا      اسی طرح ادا بھی کر دیا۔

مجھے امید ہے کہ اب اس بدگمانی سے الحدیث کو مصنون رکھا جائے گا  
 علم الحدیث کے تعلقاً مضمون

ایک اور بدگمانی ہے جو خود و علم الحدیث کی نسبت پھیلائی گئی ہے یہ بدگمانی یورپ  
 کے مستشرقین نے پھیلائی ہے اور بعض مسلمان بھی اس بدگمانی کا شکار بن گئے  
 ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ حدیث ایک عرصہ تک قلمبند نہیں کی گئی اور صرف حافظہ پر  
 اس کا دار و مدار رہا اس لیے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔

یہ لوگ مندرجہ ذیل امور کو کھول جاتے ہیں

۱۔ دنیا بھر کے مورخین کی عادت اور تاریخ نگاری میں ان کا معمول یہ شیوہ  
 مستحکم کیا ہے۔

### شیوہ مصنفین و مؤرخین

کیا ہر ایک مورخ و مصنف نے اپنے ہیرو کے اصلی الفاظ کی تلاش میں  
 محنت شاقہ نہیں اٹھائی، حکماء یونان، فلاسفران یورپ، مورخین ایشیا، داستان  
 طرازان ہند، قسانہ نگاران چین، رہبران دین اور مقتدیایان حکمت سب کے سب اسی بات  
 پر کار بند رہے ہیں کہ اپنے ہیرو کے اصلی الفاظ کو بیان کیا کریں۔

شاعروں کے حالات میں ان کے اشعار کا لیکچر اوروں کے بیان میں ان کی

گفتگو کے فقرات کا، اثنی عشریوں کے حالات میں ان کے متفقہ لائق کا حکم ان کی تاریخوں میں ان کے بیانات کا ذکر کرنا ہر ایک سے لاپرواہ ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ ہر ایک بزرگ سستی کے الفاظ کی حفاظت کرنا اس کے حلقہ اثر میں مسلم رہا ہے اور بالکل فطرت انسانی کے موافق ہے

انجیل منی میں مسیح کا ایک فقرہ

جناب منی کو حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک فقرہ مل گیا تھا اس نے اس فقرہ کو بعینہ اپنی انجیل میں درج کر دیا اور آج تک اس انجیل کے ہر ایک ترجمہ میں انہی الفاظ کو بطور خاص ضرور درج کیا جاتا ہے وہ فقرہ یہ ہے: "ابلی ایلی میا سبتتی"

عربی زبان میں جو عبرانی سے نہایت متقارب ہے اس کا ترجمہ یہ ہے

اللہی الہی لیا سبتتی اے میرے خدایے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا

ب۔ اب اس گمروہ صحابہ پر نظر ڈالیں تب اندازہ ہو سکے گا کہ یہ مقدسین کیونکر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کو محض نظر کر لیتے تھے۔

عربی کی فراہمیت

۱۔ وہ صحابہ جن کا حفظ و ايقان اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ ایک ایک جلسہ میں

ایک ایک سو فیصدہ کا زبانی پڑھ دینا ایک معمولی بات سمجھا جاتا تھا۔

۲۔ وہ صحابہ جن کا فہم و ذکا اتنا بڑا تھا کہ سنسارین بیابانوں میں سینکڑوں

کو سن تکے رشتوں پتھروں اور راہ کی اونچائی نیچائی کی شناخت کرتا ان کو کچھ دشوار نہ

معلوم ہوتا تھا۔

## اوصاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

۱۱) وہ صحابہ جن کو اپنے گھوڑوں اور گھوڑوں تک کے نسب نامے اور کارنامے

ازبر ہوتے تھے۔

۲۔ وہ صحابہ جنہوں نے اسی پاک بنی کی محبت میں گھر بار، خویش و تنہا

یاران و لبند اور زن و فرزند کو بیخدا کیا۔

۳۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضور ہی کے جمال پر جلال کو آئینہ قلب فی ایمان بتا

رکھا تھا۔ فی الحقیقت اس امر عظیم کے اہل تھے کہ جو کچھ حضور سے سینے سے فوراً

محفوظ کریں اور محفوظ کو مکتوب کرنے والوں تک پہنچائیں۔

## مسٹر برگ انگلستان کا پرائیمری سٹر

۳۔ تم کسی انگریز سے مسٹر برگ کی بابت دریافت کرو جو دارن ٹینگنز کے خلافت

پارلیمنٹ میں مقدمہ لڑتا رہا ہر ایک انگریز کو اقرار ہے کہ اس مشہور روکیل کو گورنر جنرل

مذکورہ کے ہفت سالہ حکومت ہند کے تمام بجٹ ہاکی جملہ رقوم ایسی صحیح یاد تھیں کہ

ان ہزاروں لاکھوں رقوم میں کسی جگہ بھی اس کو زبانی دہراتے ہوئے وہائی اکائی یا

آئے پائی کا مغالطہ نہ ہوتا تھا

اگر رقوم کا یاد رہ جاتا ممکن ہے۔ اگر ہزاروں لاکھوں اعداد کا دماغ میں محفوظ

رہ جاتا تجربہ میں آچکا ہے تو پھر کسی کلام بلاغت نظام کا سنتے ہی یاد رہ جاتا ذرا بھی

مستعد نہیں رہ جاتا۔ سخن کہ از دل آید بود دل پذیر

## کلام فصیح

دعا یاد کرو کہ عرب فصاحت کلام کے کس قدر دلدادہ تھے۔ وہ جب

کبھی کوئی فصیح کلام سن لیتے تو بہ اختیار بول اٹھتے

عرب اور مشرقت فصاحت

اُكْتُبُوا هَٰذَا لِحُنَّاجِرٍ ذَكَرُوا اس کلام کو اپنے گلوں پر لکھ لو۔ خواہ تلواروں

یا حُنَّاجِرِ کی دہار ہی سے لکھنا پڑے۔

فصاحت نبوی صلعم

۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کے متعلق مجھے زیادہ لکھنے کی ضرورت

نہیں زبان عرب کا کوئی ادیب خواہ کتنا ہی شغوب بیسانی ہو بلکہ منتشر و پودنی بھی

ہو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کی فصاحت و بلاغت اور جزالت و

رشاقت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

جب آپ صحابہ کے داخل اسلام ہونے کے حالات تفحص کریں گے۔ تو

آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل فضل و کمال پر حضور کے اسی معجزہ نے اثر کیا تھا۔

ضماد ازدی کا ذکر

ضماد ازدی مین کا باشندہ تھا۔ اور عرب کا مشہور کاہن ہزاروں لوگ دور دور سے

پہنچ کر اس کی آستان پر حاضر ہوتے اور اس کے فقرات مسیح و مہر جزہ کو ازالہ مرض کا افسون سمجھا

کرتے تھے۔ وہ ایک بار مکہ میں آیا اہل مکہ نے کہا کہ ہمارے خاندان کا ایک نوجوان ہے اسے

جنات کا سایہ ہو گیا ہے اس کا علاج ہو جائے تو ساری قوم نیری شکر گزار بن جائے گی۔ ضماد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہا محمد! ادھر آؤ میں تمہیں اپنا منتر سنائوں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے سن لو کہ میں کیا کہتا ہوں اس وقت حضور نے

اس طرح کلام کا آغاز فرمایا:-

الْحَبْرُ لِلَّهِ كَحَبْرِهِ وَتَسْتَعِينُهُ  
 مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ  
 لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ  
 لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ  
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

حمد کا مالک اللہ ہے ہم اسی کی حمد کرتے اور  
 اسی سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے  
 اسے گمراہ کرنے والا کون جسے وہ گمراہی سے اس کا  
 ہادی کون میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا  
 کوئی اور معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں  
 میری شہادت ہے کہ محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے

آمَنَّا بِحَدِّ

اما بعد

ضواری نے اسی قدر سنا تھا کہ بول اٹھا کہ ان کلمات کو پھر سنا دیجئے وہ یہی کہتا رہا اور  
 دوقین بار حضور کی زبان سے انہی کلمات کو سنتا رہا اور پھر بے اختیار ہو کر بول اٹھا۔  
 ”واللہ میں نے بہتر سے کاہن دیکھے سوا حمد دیکھے شاعر سے لیکن ایسا کلام تو میں نے  
 کسی سے بھی نہ سنا، وَلَقَدْ كَلَّمْنَا قَامُوسَ لُجَّجٍ كَلِمَاتٍ تُوِّدُهَا سَمْعُ بَنِي حَبْرَةَ كَلِمَاتٍ  
 ہی نہیں لگتا۔

”محمد اللہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ بیعت اسلام کر لوں“ (صحیح مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ)

امام مہود و عبد اللہ بن سلام رضی کا ذکر

عبد اللہ بن سلام بن الحارث الاسراہیلی رضی اللہ عنہ کی سنو یہ مہود کے امام تھے۔

اور سیدنا یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یادگار اور آیت قرآنی من عندہ علم الکتب  
 کے مصداق انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا لیا تھا

آفَشُوا السَّلَامَ وَ أَطْعَمُوا الطَّعَامَ  
 سلام علیک بکثرت کیا کرو مساکین کو کھانا کھلا  
 وَ صَلُّوا أَرْدَحَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ  
 کرو قربت داروں سے مل کر رات کو جب

وَالْمَناسُ بِنِيَامٍ فَنَادُوا خَلُّوا  
الْجَنَّةَ السَّلَامَةَ  
لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھا کرو، جنت  
السلام میں داخل ہو جاؤ گے۔

### حدیث اور طرق حدیث

در حدیث کی صحت و عظمت پر اس وقت دل مطمئن ہو جاتا ہے جب فی یکجا جاتا ہے  
کہ ایک ہی حدیث کو متعدد ائمہ حدیث نے بیان کیا راوی مختلف ہیں مگر الفاظ متحد ہیں۔  
بسا اوقات طالب حقیقہ دیکھ لے گا کہ ایک جامع کتاب کے لئے کئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم تک راوی بالکل نئے ہیں، مگر متن حدیث واحد ہے اگر دیکھنے والا تیز ہوش ہے  
تو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ ایک راوی کس کس استاد سے روایت کرتا ہے اور اس راوی سے  
کتنے شاگرد روایت کرتے ہیں اس کے اساتذہ اور تلامذہ کا یہ سلسلہ سینکڑوں کو سوں  
تک پھیلا ہوا ہے مگر راوی کے سب شاگرد اور سب اساتذہ متن حدیث کے بیان کرنے میں  
کس قدر توافق بہم رکھتے ہیں

کئی بابی القاطع معلوم کرنے کا طریقہ

اگر کسی روایت کے الفاظ متن میں کسی نقطہ کی کویشی ہو جاتی ہے تو فوراً معلوم ہو جاتا  
ہے کہ یہ کی بابی فلاں راوی کی طرف سے ہوئی ہے

### حدیث واحدہ اور راویان عمالک مستحدہ

ہاں جس کو اسماء الرجال پر کامل دسترس ہے تو وہ یہ بھی معلوم کر سکے گا کہ ایک ہی  
حدیث کے راوی کے سب اہل شام بھی ہیں اور اسی حدیث کے سب اہل مصر بھی  
ہیں اور اہل حجاز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ راویوں کے اس یون بائن پر بھی متن حدیث میں توافق  
موجود ہوتا ہے یہ باتیں معمولی نہیں بڑی وقعت کی ہیں۔

## معیار شہادت اور قوانین حاکم یورپ

ہندوستان اور یورپ کی عدالتوں میں جو جو قانون شہادت مروج ہیں۔ اور ان میں شہادت کے پرکھنے کے جو جو قواعد مندرج ہیں ان کا مقابلہ ان شرط سے کیجیے جو آئمہ حدیث نے روایت کے متعلق اختیار کی ہیں۔ ہر ایک قانون و ان کو قرار دینا پڑے گا کہ جو اصول ہمارا آئمہ کرام نے قرار دیے ہیں ان سے بڑھ کر تنقید شہادت کا کوئی معیار ہو ہی نہیں سکتا۔

### شمار صحابہؓ

یہ علم اسماء الرجال ہی کی مین و برکت ہے کہ امام ابن عبد البر کی کتاب الاستعیاب سے ۳۵۸۵ صحابہ رسول پاک کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں اور حافظ شمس الدین ذہبی کی کتاب تجرید سے ۴۲۱۶ کے اسماء مبارکہ مل جاتے ہیں یہ علم اسماء الرجال ہی کی برکت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ہزاروں ہزار تابعین و تبع تابعین اور حفاظ حدیث کے نام متہ ان کی سیرت و حالات کے بہرین و روشن ہیں۔

کیا کوئی قوم کوئی مذہب کوئی ملک کوئی سلطنت اپنی رعایا و برابریا یا امراء و وزراء یا حکماء و علماء کے حالات کا ایسا مکمل سلسلہ پیش کر سکتا ہے جو مسلمانوں کی صحت حدیث کی نگہداشت کے شرف و توفیق میں اس علم کے اندر پیش کر دیا ہے۔

### راوی کا روایت کو یا یقین بیان کرنا

اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اہل اسلام بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں اور تلخ خاطر و اطمینان قلب کے ساتھ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ روایت کر سکتے ہیں۔  
 نہ ہاں علم الحدیث پر اگر مقتضی حقائق بطور فلسفہ اخلاق غور کریں۔



## حدیث اور علوم تمدن

یامور خین مدنیت بطور نازخ تمدن اسے پیش نظر رکھیں تو اسے یہ مجموعہ گنج خداداد کا ذخیرہ نظر آجائے گا اور اسی مجموعہ سے اصول علم جدیدہ کا اتنا بڑا سرمایہ حاصل ہو جائے گا جتنا کہ مسائل فقہی کا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے

## حدیث اور علم اللسان

ح۔ اگر اس مجموعہ پر علم و ادب کے شیدائی اور لسان العرب کے قدائی انہماک اور شوق کے ساتھ متوجہ ہو جائیں تو ادب کی سب کتابیں نظم یا نثر اس خوان نعمت کے سامنے پھینکی وال معلوم ہونے لگیں گی۔

## عجائبات حدیث

ط۔ ہاں! عجائبات علم الحدیث میں سے وہ حصہ بھی ہے جو پیشگوئیوں پر مشتمل ہے یہ مسلمہ ہے کہ علم الغیب کا نالک رب العالمین ہے اب حدیث پاک میں کسی پیشینگوئی کا پایا جانا اور پھر اپنی الفاظ کے مطابق وقوع طہور میں آنا (ابنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کی بھی دلیل ہے اور ۱۲ الفاظ حدیث کی صحت کی بھی برہان ہے۔ لہذا چند احادیث کا اس موقع پر ذکر کرتا ہوں۔

## ۶۵۴ سال پہلے کی پیشین گوئی

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى  
تَخْرُجَ نَادِيَةٌ مِنْ إِيحَازِ تَضِيُّ  
أَعْنَاقِ الْكِلْبِ بِبَصْرَى

قیامت نہیں آئے گی جب تک حجاز  
میں ایسی آگ ظاہر نہ ہو جس کی روشنی  
بصری کے اونٹوں پر روشنی ڈالے گی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ۵۲۵ھ میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ۵۲۶ھ

میں رحلت فرمائی تھی صحیحین ان ائمہ کی زندگی ہی میں جملہ ممالک اسلام میں پہنچ گئی تھیں  
پھر ان کی اشاعت ہر جہد ہر زمانہ میں کثیر و کثیر تعداد تک روز افزوں ہوتی رہی۔ اس  
پیشینگوئی کے مطابق اس ناز کا ظہور جمادی الثانی ۲۵۲ھ میں ہوا۔

یعنی شیخین الحدیث کی وفات سے چار صدیوں کے بعد  
انبیاء کی پیشینگوئیاں اور الفاظ حقیقی

اس واقعہ سے نفس حدیث کی عظمت و وقعت بھی روشن ہو گئی اور ضمنیاً بھی  
ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی پیشینگوئیاں اپنے اصل الفاظ کی صورت میں وقوع پذیر  
ہوا کرتی ہیں۔ نہ ان میں استعارہ مجاز کو دخل ہوتا ہے اور نہ وہ دورانہ کار تاویل سے  
ثابت کی جایا کرتی ہیں

۶۵۶ سال پہلے کی پیشینگوئی

دوم۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے

اے گواہان عینی تے اس آگ کے متعلق یلغورہ کتابیں لکھی ہیں شیخ صفی الدین مدرس مدرسہ بصری نے شہادت  
دی ہے کہ جس روز اس آگ کا ظہور ہوا اسی شب بصرے کے بدوہوں نے آگ کی روشنی میں اپنے اپنے اوتھوں کو  
دیکھا اور شناخت کیا تھا آگ یکم جمادی الثانی کو بھوٹ پڑی تھی دوم کو زلزلہ کی رفتار تیز محسوس ہوتی تھی سوم  
کو زلزلہ کی شدت بڑھ گئی تھی چہارم کو زلزلہ کے ساتھ گرج کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ گہ پارے ذرا کتہہ  
زور سے کڑک رہا ہے۔ پانچویں کو وہ بوئیں نے زمین ادراقت کو چھپا دیا۔ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔  
پتھر گھگھکنے لگے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ سے نہرا حمر بہ رہی ہے اس آگ کا رخ شہر مدینہ کی جانب تھا۔  
شب جمعہ تمام آبادی نے مسجد نبوی میں جمع ہو کر نضرہ و ذاری کے ساتھ پوری کی صبح کو دیکھا کہ آگ کا رخ  
پلٹ گیا ہے تعجب خیز امر یہ تھا کہ مدینہ میں اس شدت ناز کے وقت بھی ٹھنڈی نسیم چل رہی تھی۔

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا  
 الْقُرْبَىٰ صَغَارًا لَا عَيْنَ حَمَدٍ  
 الْوَجُوهَ ذُفَعًا لَا نُوفٍ كَانَ  
 وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَفَةُ

قیامت قائم نہ ہوگی دکئی باتوں کے بعد فرمایا اور جب تک  
 تم ان ترکوں سے جنگ نہ کرو گے جو چھوٹی آنکھوں والے  
 سرخ چہرے والے پست ناک والے ہونگے۔ انکے  
 چہرے ڈھالوں جیسے چوڑے پوڑے ہونگے

یہ فتنہ تتر کی خبر ہے جب کہ بلا کوخاں کی افواج نے خراسان و عراق کو تباہ کیا بغداد  
 کو لوٹا تھا۔ اور بالآخر ان کو بھی ایشیائے کوچک میں شکست عظیم ہوئی تھی۔ یہ واقعہ  
 ساتویں صدی ۵۷۵ء کا ہے اور صحیحین میں پانچ صدی پیشتر سے یہ درج تھا۔  
 سوم۔ سنن نسائی و بیہقی میں غزوہ ہند کی پیشینگوئی درج ہے۔

۹۳۳ سال پہلے کی پیشینگوئی

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دریائے اٹک کا نام ہند ہے اور جو ملک دریائے اٹک سے  
 مشرق کی جانب ہے وہ سب ہند ہی کے نام سے موسوم ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ  
 کا سن وفات ۳۰۳ھ ہے۔

اس پیشینگوئی کا ظہور اس وقت ہوا جب سلطان محمود نے ۳۹۳ھ میں دریائے اٹک  
 کو عبور کر کے پہلا حملہ کیا تھا یعنی اس پیشینگوئی کی اشاعت تو ۹۰ سال پیشتر بخوبی ہو چکی تھی  
 سات صدی پیشتر کی پیشینگوئی

طبرانی والی نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے فرمایا۔

ا تتركوا الترك ما تركوكم ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک روم سے پھر نہ کہیں کہو نہ

۱۰ امام نسائی کی ولادت پر میرا ایک مصرعہ ہے ۶۔ نسائی طبرستان واز جہاں فیروز رفت  
 ۵۲۱۵  
 ۵۳۳۰

فان اول من يسلب امتي یہی وہ قوم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے  
 ملکہ ملک چھین لے گی۔

ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن حطر اللخمی الطبرانی کی ولادت ۲۶۲ھ و وفات ۳۶۰ھ  
 ہے اور ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی کی ولادت رجب ۳۶۶ھ و وفات ۲۱ محرم ۴۲۳ھ  
 ہے حدیث مذکورہ بالا ہر دو ائمہ کی کتابوں میں تین صدی سے مشہور ہو چکی تھی اور بالآخر اسی  
 حدیث کے مطابق ظہور ہوا کہ ساتویں صدی میں اتنی ترکوں نے سلطنت عباسیہ کا خاتمہ  
 کیا معتصم باللہ خلیفہ بغداد قتل ہوا۔

اس وقت ترک مسلمان نہ تھے اور یہ بات بھی پیشینگوئی میں بتادی گئی تھی۔  
 پنجم مستدایام احمد یام اہل السنۃ والجماعۃ میں فتح قسطنطنیہ کی پیشینگوئی درج ہے  
 ۸۵۵۔ سال پیشتر کی پیشینگوئی

صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سنن ابی داؤد میں بروایت معاذ  
 بن جبل رضی اللہ عنہ بھی فتح قسطنطنیہ کا ذکر آیا ہے امام بہام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا  
 انتقال ۲۴۱ھ کو ہوا اور قسطنطنیہ کو محمد فاتح نے ۸۵۵ھ ۲۵۳ھ میں فتح کیا یعنی چھ صدیوں  
 کے بعد مسند کی حدیث کا ظہور دنیائے دیکھا اور نعم الامیر اور نعم الجیش کا نظارہ یورپ  
 کو بھی نظر آیا۔

ششم صحیح مسلم میں ابو مستور و قرشی رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم موجود ہے جو انہوں نے عمرو بن العاص فاتح مصر کو سنائی تھی دین اس وقت  
 جب کہ شہر شہر ملک پر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں یورپین عیسائیوں کا زور ہو جائے گا۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ۳۶۱ھ میں ہوا اور ان کی زندگی میں تصاریف کے غلبہ و کثرت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مگر دنیا اس حدیث کی صداقت کو برائے العین دیکھ

رہی ہے اور گذشتہ ۱۳ صدیاں اس کی صحت پر شاہد ہیں  
۳۶۴ سال پہلے کی پیشینگوئی

ہفتم۔ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ بن عثمان اور عثمان بن طلحہ کو کلید بیت اللہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔

خدا ماخالدة تالدة کایزعا لویا یہ کلید سنبھا لوی ہمیشہ کے لیے تم سے یہ کلید

یابنی ابی طلحة منکم الا ظالم کوئی نہ چھینے گا مگر وہی جو ظالم ہوگا (الاسنیب ۲۹۶)

ایک پیشین گوئی

ان مختصر الفاظ میں تین پیشینگوئیاں مندرج ہیں۔

۱۔ خاندان ابو طلحہ کا باقی رہنا اور اس کی نسل کا منقطع نہ ہونا۔

۲۔ کلید بیت اللہ کا انہی کی حفاظت میں رہنا۔

۳۔ اس شخص کا ظالم ہونا جو ان کے قبضہ سے کلید کو نکالے۔

مورخین کہتے ہیں کہ تیرید پلید نے نبو شیبہ سے یہ کلید چھین لی تھی۔ اس کے بعد

کسی اور حکمران نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظالم کہلانے

کی جرات کا اقدام نہیں کیا۔ آج ۱۳۲۲ سال کا زمانہ امتداد اس پیشینگوئی کی صحت کا شاہد

عادل ہے۔

میں جو الجات کو مختصر کرتا ہوں اور ہر ایک متزور و متشکک اور ہر ایک منکر و تکذیب

سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہوں تاکہ

نہ ہوتے تو سینکڑوں سال کی مدت مدیدان کی صحت و صداقت کا مظہر نہ بن سکتی۔  
**مسلمین کیلئے عملی الحدیث کا سبق**

معشر مسلمین! یہاں سے ایک سبق ان سب لوگوں کو جو اتباع محمدیہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے دعویٰ پر ہیں نیز ان علماء کو جو علت احکام پر بحث کرنے والے اور شرائح الہیہ  
 کے اسرار و حکم پر غور کرنے والے ہیں بطریق احسن حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کسی حکم  
 نبوی کی علت سے درمائدہ ہونا تو ممکن ہے مگر حدیث پر عمل کرنے والے کا ان فوائد  
 سے جن کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے۔ متمتع ہونا یقینی ہے  
**علوم الحدیث**

ہی۔ عجائبات علم الحدیث میں سے ہے کہ اخبار شہداء و معاد، براہین ثبوت ہستی  
 باری تعالیٰ ثبوت نبوت، دلائل ثبوت عذاب و ثواب، مضامین زہد و توکل و تقوا،  
 حقیقت انابت الی اللہ و خشیت من اللہ، براہین نفسی و آفاقی، اسرار آیات کلام اللہ،  
 رموز قصص الانبیاء، اصیلت شفاعت حقہ، حقیقت اخوت ایمانہ، کیفیت محبت  
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہیت محبت الہی بیان مدارج وحی، توضیح و تصحیح واردات  
 قلبی کے جس قدر بھر پور حوزے احادیث رسول رب العالمین میں موجود ہیں وہ یقیناً  
 کسی غیر جگہ میں ہرگز نہ ہرگز نہیں ملتے

### فقہ اور حدیث

۱۔ بایں ہمہ خصوصیات حدیث ان جملہ مسائل حقوق و معاملات پر بھی مشتمل ہے  
 جو علم الفقہ کا خمیر یا بیہ نہیں۔ ائمہ دین اور مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد نبویہ پر ہی استنباط  
 مسائل کی بنیاد کو قائم کیا ہے اور جملہ فتاویٰ میں ان کی اولین سعی یہی ہوتی رہی۔ کہ

رسول پاک کے ارشاد سے رشد و ہدایت حاصل کریں اسی سعی و اجتہاد سے ان کو  
 جلیل القدر اور محترم بالشان بنا دیا ہے ہاں ایہاں مسائل میں بھی احادیث پاک کی یہ  
 امتیازی خصوصیت ہے کہ دلیل و تمثیل کے ساتھ تبیان میں شگفتگی و دل بستگی  
 کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

معشر المسلمین! میرا یہ طویل بیان صرف اس بدگمانی کے ازالہ کے تحت میں

ہے جو عوام میں حدیث کے متعلق پائی جاتی ہے

مقصد پنجم

اب میں کانفرس کے مقصد پنجم کے متعلق عرض کروں گا یہ مقصد ان الفاظ میں

ظاہر فرمایا گیا ہے اہل حدیث کے باہمی اختلاف کا ازالہ ہم ان الفاظ سے یہ سمجھتے ہیں

کہ اہل حدیث میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اس اختلاف کے زائل کرنے میں

سعی و کوشش کرنا کانفرس کے مقصد میں سے ہے

ثنائیہ اور غزلبیہ اختلاف کا ازالہ ضروری ہے

یہ اختلافات اس وقت بھی موجود ہونگے جب مولانا مرحوم حافظ عبداللہ صاحب

غازی پوری بدراس کانفرس میں ان الفاظ کو زبان سے ادا کرے تھے مگر آج ہمارے سامنے

یہ اختلافات شدید افتراق کی صورت میں رونما ہو گئے ہیں میری ہر اور جماعت ثنائیہ اور

جماعت غزلبیہ کے اختلافات سے ہے اور میں اکابر کانفرس سے اور ان سب علماء

سے جو کانفرس میں موجود ہیں یا جو کانفرس کے مقاصد سے متحد ہیں یہ گزارش کرتا ہوں

کہ ان اختلافات کے زائل کرنے میں بھی سعی و کوشش فرمائیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ

ان کی کوششوں کو سعی مشکور کی صورت میں قبول فرمائے۔ آمین۔

## مقصد ششم

اس کانفرس کا حکومت کی وفاداری کے ساتھ ساتھ دینی و دنیوی ترقی کا انتظام کرنا ہے مجھے امید ہے کہ کوئی مسلمان بھی بغاوت یا مجرمانہ سازش یا معاندت سلطنت کا روادار نہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینہی عَنِ الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یاد رہے اور ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔

## دنیوی و دینی ترقی

دینی و دنیوی ترقی کے الفاظ ضرور صراحت طلب ہیں میرے سامنے کانفرس کے گذشتہ پندرہ سالوں کی رپورٹیں موجود نہیں ہیں امید کرتا ہوں کہ اس مقصد کے متعلق بھی عملی طور پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہوگا لیکن آج کل ہم ایسے وقت میں سانس لے رہے ہیں جبکہ اس مقصد عظمیٰ کے انتظام کے متعلق ہم کو ایک ایک سانس قیمتی سمجھنا چاہیے

## بیروزگاری و بے مہتری

مسلمانوں کیلئے دنیا کی تباہی کے اسباب بہت سے ہیں اور میرے خیال میں افلاس قومی ان سب میں سب سے بڑا ہے مسلمانوں کی دین و دنیا کو بیروزگاری اور بے مہتری نے بہت زیادہ تباہ کیا ہے۔ آل انڈیا ایجوکیشن کانفرس کا صدر دفتر دہلی میں ہے۔ اور دہلی تجارت کا مشہور مرکز ہے اگر اسی جگہ سے مسلمان بچوں کو ہنر سکھلانے اور روٹی کمانے کا ذریعہ سکھلانے کی ابتدا ہو جائے تو نہایت موزوں ہے۔

## دہلی کے ادارے دینیہ

دہلی میں جس قدر ادارے ہیں ان سب کے مربی اور معاونین اور اساتذہ مل کر ایسا



طریق اختیار کریں کہ طلباء کو صرف دستخط اور فقہ و حدیث کے اسباق کے ساتھ کمرہ فی ہنر بھی سکھایا جائے۔

امید ہے کہ وہی کی نظیر دوسرے مقامات کیلئے بہترین دلیل بن جائے گی۔

### سودا کا ادا کرنا

ہاں مسلمانوں کی دینی و دنیوی تباہی کا موجب ان کا سودا ادا کرنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو سودا ادا کرنے کی حرمت سے آگاہ کر دیا جائے اس کی برائی ان کے دلوں میں کالتفیش فی البحر بنا دی جائے اور وہ سودا ادا کرنے سے اتنا ہی اجتناب و احتراز کرنے لگیں جتنا اجتناب و احتراز اپنا تک سودا کھانے سے چلا آتا ہے تو امید ہے کہ سینکڑوں خاندان تباہی و ہلاکت سے بچ سکیں۔

### مسلمات و ارتداد

ہاں مسلمانوں کی دینی و دنیوی تباہی کا باعث اپنی ازواج کے ساتھ عدل و انصاف اور سلوک و محبت کا بڑا ذمہ کرتا ہے اگر آپ کسی مسلمہ کے ارتداد کا واقعہ سنیں تو تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ اس کے تحت ہیں مسلمان شوہر کا ظلم ضرور موجود ہوگا۔ تمام خاندانوں کو، اور برادر یوں کو فوراً اس تباہی کے تدارک کی طرف متوجہ ہو جانا ضروری ہے۔

### واعظین کا حیرت و دائرہ

ہاں مسلمانوں کی دینی و دنیوی تباہی کا باعث تبلیغ کا بند ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں اور ان مقامات پر جہاں ریل جاری ہے ہمارے واعظین تہجد اکثر موجود پائے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان مقامات میں بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں یکہ ٹانگہ پہنچ سکتا ہے لگے سینکڑوں دیہات میں جہاں دس، دس، بیس بیس سال میں کوئی واعظ نہیں پہنچتا اس

تباہی کا انسداد بھی ضروری ہے۔

لائحہ عمل جس قدر مختصر ہو اسی قدر اچھا ہے۔ کانفرس امسال اگر اتنی ہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تو بہت کافی بلکہ کافی سے زیادہ ہے۔

### عہدِ پیمان کے لیے التماس

میری دلی تمنا یہ ہے کہ آج اس اجلاس میں رونق افروز ہونے والے مچھائی کسی ایک بات پر عمل کرنے کا عہد کر کے اٹھیں۔

### پہلا عہد

مبارک ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس امر کا عہد کرے کہ وہ خود کما کر کھائے گا۔ بے مہتری اور بیروزگاری سے نفور رہے گا۔ وہ ہر ایک ذریعہ معاش کو جس سے حلال روزی میسر آسکتی ہو اختیار کرنے کے لیے آمادہ رہے گا سوال اور گدگاری کو انسانی لعنت اور محنت اور مشقت کو رحمت اور برکت سمجھا کرے گا۔

### اپنی کمائی کی فضیلت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا

اس سے بہتر اور کسی نے کبھی نہ کھایا ہوگا جیسا

مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَّيْهِ

کہ اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کھانے والا

إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ

کھاتا ہے اللہ کے نبی داود علیہ السلام بھی ہاتھوں

کی محنت کر کے کھاتے تھے۔

يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَّيْهِ  
صحیح بخاری عن مقدم بن بکر

### تجارت

مبارک ہے وہ مسلم جو تجارت سے اپنی معاش حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَتْنَا جِرَّ الْأَمِينِ الصُّدُوقِ مَعَ  
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
وَالْحَبَائِلِ عِينِ (ترمذی عن ابی سعید)

تاجر جو امانت و صدق کے ساتھ تجارت کرے  
وہ انبیاء اور صدیقوں اور شہیدوں اور  
صحابین کے ساتھ ہوگا

### نساء المسلمین

مبارک ہے وہ باایمان جو بیوی کے حقوق کو میچا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ

عورتیں مردوں کا حصہ ہیں۔

(ابوداؤد و ترمذی عن عائشہ)

فَاَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کر سنا۔

(سنجان عن ابی ہریرہ)

بیزارشاد فرمایا۔

أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

وہ چیز جو حلال ہے مگر اللہ کو اس سے بہت

بغض ہے وہ طلاق دینا ہے

(ابوداؤد عن ابن عمر)

بیز فرمایا

خَيْرٌ لَّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَلَا هَلِيهِ

تم میں سے اچھا وہ ہے نیک۔ وہ ہے جو اپنی

(ابوداؤد و ترمذی عن ابی ہریرہ)

ووسر اس پر قرض نہ لینا

مبارک ہے وہ باایمان جو قرض سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:-

يُغْفَرُ لِشَهِيدٍ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا  
 الدَّيْنُ (مسلم عن ابن عمرو بن العاص)  
 شہید کا ہر ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے  
 مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تھی کہ جب کوئی جنازہ حضور کے سامنے  
 نماز کے لیے لایا جاتا تو حضور دریاقت کر لیتے کہ یہ مقروض ہو کہ تو نہیں مرا اگر معلوم ہوتا  
 کہ اس کے مرقض ہے تو اس کے جنازے کی نماز خود نہیں پڑھا کرتے تھے اس واقعہ  
 سے مسلمان بعثت حاصل کریں جو قرض بھی لیتے ہیں اور سورت پر لیتے ہیں آعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا

عہد سوم سو واد اگر نے سے بچنا

میں اپنے خبط میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں کہاں تک سمع تراشی کروں گا  
 یہیں صحبتنا الیاب والشم کہ ورد و قیقہ ہائے سخن پر اشارہ میگرد

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خاتمہ

تَمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ قَائِدُ  
 بِيَدَايِ بِهِ الدُّرُ الْجَبِيلُ وَجِيْمُ

۲۳ رمضان المبارک ۱۳۲۷ھ

القاضي محمد سليمان سليمان

منصور پوری (پٹنالاہ)

## تعارف اسلام

یہ مضمون بھی درحقیقت قاضی صاحب مرحوم کا خطبہ صدارتی ہی ہے۔

آپ نے انجمن خادوم المسلمین راہنوردین بٹالہ کے محلے ساڈانہ چھٹے جلسہ

۷ دسمبر ۱۹۲۸ء میں بیان فرمایا تھا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْحَيِّ وَالنُّوْمِ، وَبَاهِدِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِي خَلَقَ الْعَالَمِينَ  
بِقُدْرَتِهِ وَأَتَمَّكُمْ بِأَحْكَامِهِ وَأَكْرَمَكُمْ بِبَيْتِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ  
ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَالْوَسْطِيِّ وَالْعَدْلِ وَأَعْطَاهُ مَقَرَاتِنِي  
الْكِرَامَةِ وَأَنْزَلَ الْعَلَىٰ فِي شَأْنِهِ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَخَشَنَّا لَكُمْ اللَّهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ  
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ  
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ط اما بعد

اسے با تیان جاسد اور اسے ہزرگان بٹالہ میں آپ کو مبارکباد دینا ہوں کہ آپ نے  
اپنی سعی جمیلہ سے اس انجمن کو قائم فرمایا اور تمہیں دینا ہوں کہ انجمن کے اولین جلسہ کا  
انتظام مکمل کیا اور پیر و نجابت سے آنے والے اکابر کو اپنی ملاقات کا موقع دیا۔

آپ کی پیاری انجمن کا نام "خادوم المسلمین" ہے۔ یہ نام ہی آپ کے جذبات محبت کی  
ترجمانی کر رہا ہے۔

پیارے دوستو! میں چاہتا ہوں کہ لفظ "خادوم" اور "الاسلم" کے معانی کی نسبت

آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔

خدمت اپنے بھائی کی اس اعانت و امداد کو کہتے ہیں جو اس کے کام کو ہلکا۔  
اس کی دشواری کو آسان اور اس کی گمراہی کو سبک بنا دے۔

ہر ایک وہ حرکت یا فعل جس کا نتیجہ مندرجہ بالا صورت ہو داخل خدمت سے خدمت  
کا معاوضہ بھی روپیہ کی شکل میں کبھی تحسین و آفرین کی شکل میں اور کبھی مستر و عانی کی شکل  
میں حاصل کیا جاتا ہے۔

انجمن کے نام میں لفظ "خادم" کو "المسلمین" کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ ہذا بالابتداء  
ہویدا ہے کہ انجمن ہذا کے بانی اور اراکین اپنی خدمت کا معاوضہ روپیہ یا تعریف کی شکل  
میں حاصل کرنے کے خواستگار نہیں

یاد رکھیے! جب ایسا ہو تب لفظ خدمت اپنے مفہوم میں ایک خاص عزت اور  
متزلزلت پر محتوی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ آخِيَهُ      جو کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے  
كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ      اللہ تعالیٰ خود اس کی ضروریات کے انصرام پر توجہ فرماتا ہے

فارسی کا مشہور مصرعہ ہے

ہر کہ خدمت او مخدوم شد

یہ مصرعہ خدمت کا نتیجہ یہ بتلاتا ہے کہ خادم بھی حسن خدمت کے طفیل مخدوم کے  
درجہ پر فائز ہو جاتا ہے بیشک تازنخ ایسے نظائر پیش کر سکتی ہے

اپنی خدمت کرتے کرتے بادشاہ ہو گیا اور سبگتگین اس کی خدمت کرتے  
بادشاہ کا داماد و جانشین بٹھرا۔

قطب الدین ایک اپنے آقا شہاب الدین غوری کا خادم ہی تھا حسن خدمت  
نے اسے ہندوستان کا پہلا بادشاہ بنایا۔

مگر کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام شاعرین زمین و آسمان کا فرق ہے شاعر  
کا تخیل اسے صرف اس قدر بلند رکھتا تھا کہ خادم بھی مخدوم ہو جایا کرتا ہے

لیکن ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حقیقت عالیہ کا بروز ہوتا ہے۔ اور  
منصب برترین کا اعلام تم اپنے بھائی کے کام کرو اللہ عزوجل تمہارے کام بنا دیگا۔

ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا کام اپنی منشاء اور اس کے مقصود کے موافق

سہرا انجام نہ دے سکیں اور باوجود تمہاری حسن نیت اور صحت عمل کے بھی بعض ایسے

بیرونی مواقع اور علل سامنے آجائیں کہ تمہارا کیا کرایا کام ذرا بھی مفید نہ ہو سکے مگر یہ نہیں

ہو سکتا کہ ایک شخص کی حاجت و مرام کا انجام رب الارض و السموات فرمانا چاہتا ہے۔

وہ رب جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ رب جس کے افعال سلسلہ اسباب و مسببات

سے بالاتر ہیں وہ رب جس کے دو حروف کُن کا نتیجہ بہر دو عالم و نافیہن ہے مجھلا اس

کی ضرورت کیوں پوری نہ ہو اور اس کا مدعا کیوں نہ برائے اس کے شجر تمنا کو کیوں نہ ثمر

آرزو لگے۔ الغرض یہی ایک حدیث کا شرف حقیقت بھی ہے اور مبلغ بشارت بھی۔

طوبی لمن ہی۔ مبارک ہے وہ جس کا عمل اس حدیث کے مطابق ہو اور مبارک

ہے وہ جس پر اس بشارت کا اطلاق ہو۔

صاحبان! المسلم کے معنی حدیث پاک میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی اور ہر

دو جگہ ایک جگہ کہ حقیقت کا انکشاف فرمایا گیا ہے صحیحین میں ہے۔

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِيَ الْمُسْلِمُونَ      مسلم وہ ہے جس کے دست و زبان سے

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِيهِ

سے مسلمان بچے رہیں

حدیث بالابین لفظ بالاکہ یہ تعریف بلحاظ اس تعلق کے بتلائی گئی ہے جو ایک مسلم کو سب مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ہونا چاہیے

مسلمان نہ مسلمان کو گالی دے نہ بولے کہے نہ اس پر تھوڑا باندھے نہ بہتان لگائے نہ غیبت کرے اور مظلوم کے سوا ہر شخص جبراً بالسوء سے رکاوٹ ہے اور کسی کے عیوب و نقائص کو بیان میں اپنی زبان کو جلیش نہ دے مسلم مسلمان پر جملہ نہ کرے۔  
تحریر و تقریر میں اس کی حرمت کو ملحوظ رکھے

ابن قمران عجیبہ کی طرف آجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۗ

اس جگہ مسلمان کے لیے دو اور صفات کا لزوم بیان فرمایا گیا ہے

اعمال میں سچہ کہ اپنا چہرہ اپنا رخ اللہ ہی کی جانب کر لے اپنی نیت اور مقصد کو اسی کے لیے خالص بنائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت پر لیٹ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَأْسِكَ وَوَجْهِكَ  
وَجْهِكَ إِلَيْكَ وَوَجْهِكَ إِلَيْكَ وَ  
أَجْنَاتِ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةً  
وَرَهْبَةً إِلَيْكَ كَمَا مَدَجَا وَكَأ  
مَدَجَا مِنْكَ إِذَا إِلَيْكَ أَمَدْتُ  
بِكِتَابِكَ الْبِنْتِ أَنْزَلْتَ وَ

میں اپنی جان تجھے سپرد کرتا ہوں۔ اور اپنا رخ  
تیری ہی جانب سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ  
تجھے ہی سونپتا ہوں اپنی پیٹھ تیرے ہی اعتماد  
پر لگاتا ہوں رغبت بھی ہے اور دہشت بھی  
یہ تجھ سے تیرے سوا اور ٹھکانہ کہاں؟ دوسرا  
اسرا کہ صحر میرا اس کتاب پر ایمان ہے۔ جو تو



وَبَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ أُرْسِلَتْ  
نے نازل فرمائی اور اس نبی پر بھی جسے تو نے رسول بنا دیا

معشر مسلمین لفظ احسان جو آیت بالا میں ہے معمولی لفظ نہیں لغت عربی اس  
کا مفہوم شمرعی نہیں بتا سکتا اور کوئی شخص یہاں قرینہ صماہ فر سے بھی کام نہیں لے سکتا۔  
صحیحین کی حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نیز اسے امام مسلم  
رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اور  
یہ حدیث غایت شہرت اور رفعت صحت کے اعتبار سے ممتاز ترین میں عدد دو ہے۔  
بیان ہوا ہے کہ سردار ملائک جبریل ابن علیہ السلام نے لفظ احسان کے معنی سید  
المسلمین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تھے۔ اور اس  
کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اَحْسَنُ

اَحْسَنُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ  
اِحسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس یقین کے  
کَانَكَ تَرَاهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ  
ساختہ کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے لیکن اگر یہ کیفیت نہ  
تَرَاهُ فَاِنَّهَا بَرَآءٌ  
ہو تو اس یقین سے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔

معشر مسلمین! یہ مختصر خطبہ اس حدیث کے اصرار و رموز کا مختصر نہیں اس لیے  
اس کی شرح چھوڑ دیتا ہوں۔

آپ لفظ مسلمان کا مفہوم سمجھنے کیلئے ذرا آیت ذیل پر توجہ فرمائیے۔

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ  
کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری بدنی عبادتیں  
مَجِيَايَ وَصَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ  
اور مالی نذر، میرا جینا، میرا امرنا سب اللہ کیلئے ہے  
الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيكَ لَنَا  
جو سب جہانوں کا پروردگار ہے جس کی نعمت و صفات  
وَبِنَا لِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَكْوَلُ  
میں کوئی بھی شریک نہیں و سائیکہ نہیں کہہ دے کہ مجھے

یہی حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

مسلمانوں اور غور بخنی فرمایا یہ سب سے آخری بات ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بلاس  
آخری جملہ کہنے سے پیشتر کس طرح پر جملہ اعمال و افعال میں خلوص کا ہونا اور زندگی و موت  
کا کلیتہً صدق پر مبنی ہونا اور اس حالت کے لیے اپنا نام اور یہ ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے آیت  
بالا سے مستفاد یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دو تو اپنی زندگی کو فرما کر دینا و خلوص  
کو یہ فیتی راہ پکڑو اور صدق کو مشعل طریق سمجھو!

ہاں! اسے بزرگانِ بٹالہ! آپ نے انجمنِ خادوم المسلمین کے ساتھ لقب اہل حدیث  
جی نشان کیا ہے اور یہ مبارک لفظ بتاتا ہے کہ کہ آپ کے اپنی دنیاوی معیشت اور آخری  
معاشرت کیلئے اس طریق ہدای کو پسند کر لیا ہے جو جمعیہ اہل علمین کا ہے۔  
وہ پیارا جس کے فامتت نہ پیار نشناعت گہری کا لباس ہو زوں ہے۔  
وہ ہادی اہم جس کے فرقہ انڈس پر ختم نبوت کا تاج نہ بیا ہے۔  
وہ معلم جس کی تعلیم پیار نقشہ ہے  
وہ استاد کل جس کی تدریس نے عالمِ ظلمات کو کیڑھا کر رکھا ہے تبسیریں  
شہر باد یا مکتا۔

وہ نبی جس کا امتی بننے کی آمد و موسیٰ علیہ السلام نے کی۔

وہ رسول جس کے منہ میں اللہ کا کلام رکھا گیا۔

وہ مصطفیٰ جس کی بلند شان پر ہر صر عہ عہ زوں ہے

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“

صاحبان! جب آپ کی انجمن ایسے مبارک نام سے اور ایسے پسندیدہ مرام سے

منعقد ہو رہی ہے تو کچھ شک نہیں کہ اس کی بنیادیں مستحکم ہوں گی اور اس کا فیض عام ہوگا

مَثَلٌ كَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

پاک تعلیم کی مثال اس زناور درخت کی سی ہے جس کی جڑ پائال میں ہے اور تن

کی شاخیں ساری فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔

وہ زہین کے پتوں سے بھی خوراک لیتا ہے اور آسمان کی نورورش سے بھی شادابی

پاتا ہے اور ہیرو سیمادری برکات سے مستحکم کرتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اس کا سایہ مسافروں

کے لیے جو دریا کی پیش میں جل گئے ہوں اور تھکے ہیں اور اس کا پھل ان مجبوروں کے

لیے جو آج تک شیریں ثمر کی تلاش میں تھے بے سرت و زہن سارے ہیں۔

پیارو! کام کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر کام کرو۔ ہمارا کام نہ کسی سے

جھگڑنا ہے اور نہ شورش کرنا ہے بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت کا دسترخوان عام بچھا دینا ہے

بھوکے پیاسے کی امداد کرنا ہے وہ مجبور کے اور پیاسے جن کو مرغوب غذاؤں کی ہوس نہیں

جن کو نیل اور گنگا کے پانی کی تلاش نہیں۔

ان کی روح بچھو کی ہے ان کا قلب شیشے سے ہے اللہ ہی کا ذکر کروں میں طمہ پیمان بخش سکتا

ہے اور اللہ ہی کی یاد روح کے لئے روح و ریحان بن سکتی ہے۔

لازم ہے کہ اسلام اسی رنگ میں ظاہر کر دینا ہے جس رنگ میں اس سے ہادی اسلام کی

اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا تھا۔ پیٹھ کے رنگین پانی میں شہ دلہ لگانا ختم ہو چکا ہے اور تہ

رسوم کا نہ سبب یاد ہر دم ہونا اب عقائد کے نزدیک بالکل کھیل زنا بنتا آد گیا ہے۔

اسلام رسوم سے بلند ہے اور قیود و بھی سے زائد ہے۔ اسلام کا پیغام ہر ایک کے

والے کے لیے ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ وَّلٰكِنْ

اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تو تمہارے

يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ

دلوں کو دیکھ رہا ہے

دوسری آیت میں فرمایا:-

لَنْ يَنْتَالِ اللّٰهُ لِحُومِهَا وَّلَا دِمَآءِهَا

اللہ کے ہاں قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا وہاں تمہاری

وَلٰكِنْ يَنْتَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

اطاعت پہنچتی ہے

ایک تیسری آیت ہے:-

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ

اللہ کی آیتیں اور اللہ کی آیتوں سے بڑھ کر اور کہاں

اللّٰهِ صِبْغَةً ط

اچھا رنگ ہوگا

آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کہ تبلیغ اور اسلام دونوں ہی لیکن معتابہ دونوں ایک ہیں اسلام ہی دنیا کا واحد تبلیغی مذہب ہے اور اسلام ہی ہر ایک قمرندہ اسلام کو تبلیغ کا ذمہ دار کھڑا کرتا ہے۔

تبلیغ کی ابتدا خود اپنے نفس سے کرو۔ نو اہی سے کلیتہً اجتناب کرو اور اوامر ربانی پر بقدر استطاعت کار بند رہو۔

پھر اس سلسلہ کو اپنی بیوی اپنے بچوں اور اپنے بزرگ و اقارب تک وسیع کرو۔ حقوقی ہمسایہ سمجھو اور اپنے حقوق میں سے تعلیم اسلام کو بھی جبر و لایبقک قرار دو۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج متیر فرمایا ہے اس آفتاب عالمیت کی روشنی سب جگہ پہنچاؤ۔ دریافت سے معلوم ہو جائے گا کہ بعض گھراؤ تک بالکل نبرد تار یک ہیں۔ ان میں نہ کوئی روشندان ہے اور نہ دریچہ ہے اس لئے وہاں آفتاب نہ پہنچتا کی روشنی پہنچتی ہی نہیں۔ وہاں جہلک جراثیم کا زور ہے اور ابو البشر کی نسل جہل و غفلت

کی ظلمات میں ہلاک ہو رہی ہے۔

اسلام کی اشاعت صرف اُس سادہ رنگ میں ہو سکتی ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور ائمۃ العظام کی تعلیم کا تحفہ۔ اگر اسلام کا مبلغ فلسفہ قدیم و حال سے بے خبر ہے اگر وہ سائنس کی سحر کاریوں سے ناآگاہ ہے اگر وہ مصطلحات منطق کا استعمال اپنی گفتگو میں نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی تقریر میں نظائر و امثال بیان نہیں کر سکتا تب بھی وہ صحیح طور پر مبلغ اسلام بن سکتا ہے بشرطیکہ صحیح اسلام کی تبلیغ کرے

اسلام کا اولین مسئلہ سب سے بلند تر مسئلہ توحید ہے اور شکر ہے کہ مسلمانوں کی چودہ صدیوں کی لگاتار کوششوں نے اب اس مسئلہ کی اہمیت اور صداقت کو اتنا منور و باہر ہے کہ بزواں اور برہمن کو برابر ماننے والے، خدا، روح القدس اور بیٹیا کو اقاہیم ثلاثہ بتانے والے پھر ایک اقنوم کو مستقل خدا کہنے والے اور ہزاروں لاکھوں نبیوں میں بشر کی شکتی تسلیم کرنے والے اور اسی اصول پر ان کی پوجا کرتے والے بھی اب توحید کے مخالف نہیں رہے بلکہ اب ان کے براہین و دلائل کا زور وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت ثابت کرنے میں صرف ہو رہا ہے۔

جب حالات اس قدر موافق ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ وحدت عدوی سے آگے بڑھ کر دنیا کو توحید فی الذات و فی الصفات کا سبق پڑھائیں اور توحید فی العبادت و استعانت کا بھی ان کو راز دار بنائیں۔ دنیا کی حالت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے اعمال ایسا کعبہ سے کتنے دور ہیں اور ان کے احوال ایسا کتنے عجیب سے کس فلسفہ مذاق میں ہیں۔ ہماری تبلیغ کا پہلا مرحلہ اسی آیت کی تفسیر ہے اس سے آگے بڑھ کر تبلیغ کا بہتر دوم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت

کا قائم کر لینا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت فرض عین ہے اور اتباع اور اطاعت بتوہر و حائیت میں معتبر اور ایمانیات میں مسلم ہے وہ وہی اتباع و اطاعت ہے جس کی بنیاد محبت پر ہے۔

برکات و کرامات کے خزانے کی کنجی محبت ہے اور اگر یہ کنجی تمہارے پاس نہیں تو جو افعال قلوب پر پڑے ہوئے ہیں ان کا کھلنا و شوار ہے

معتشر مسلمین ایہ بات میں نہیں کہتا اور مجھے اتنی اونچی بات کے کہنے کا کوئی اختیار بھی نہیں۔ یہ بات وہی کہتا ہے جو محبوب قلب اور جس کی محبت کا دعویٰ ہر ایک کلمہ خواں اسلام کو ہے

رَأَيْتُمْ أَهْلَ كَهْمٍ مِّنَّا حَتَّى  
أَكُونُوا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ دَلِيهِ  
وَدَالِيهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ط

تم میں سے کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے محمد صلی علیہ وسلم اپنے باپ بیٹے اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب بنا نہ ہو جائیں

یہ حدیث سے بلکہ سب اہل اسلام سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا ان کی دعاؤں اور تمنائوں میں یہ فقرہ بھی شامل ہے یا نہیں

وَمَرَّ أَفْقًا بَيْنَكَ فِي الْجَنَّةِ جنت میں تیرے نبی کی رفاقت حاصل ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہر ایک مسلم میں ہو گا۔ ہاں ہاں ضرور ضرور ہے پس اگر ان کی یہی تمنا ہے یہی آرزو ہے اور یہی دعا ہے تو آؤ کہ میں تمہیں

اس کامیابی کی نشاہت راہ بتا دوں۔

استغفر اللہ! میں تمہارے والا کون؟ اس راہ میں تو گمراہ چھری پر رکھی جاتی

سے یہاں اتانیت کا وجود نہیں رہتا۔

آؤ! تمہیں تمہارے پادری عالم کی بتائی ہوئی اور بنائی ہوئی شاہراہ کا نشان دکھا دوں۔

حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی حضور ہیں آئے اور حضور کے رخ پر نور پر نظر پڑا جس کے اس قدر غم ہو جاتے کہ ہلکوں کا جھپکنا بھی بند ہو جاتا یہ نظارہ حیرت کا نظارہ نہ تھا کیونکہ حیرت تو درک باہمت سے فاصلہ ہے بلکہ یہ نظارہ اقتباس الودار کا تھا۔ اجتماع اسرار کا تھا یہ نظارہ بصارتتہ افروز اور بصیرت افزا تھا۔ ایک بار اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اور دریافت فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے عرض کیا کہ میں حسب یاد کرتا ہوں کہ حضور فرمودیں ہر جس کے بلند مقام میں ہوں گے جہاں چھ جیسے حقیر کی رسائی نہ ہو گی تب یقیناً ہم دیدار الودار سے محروم رہ جائیں گے میں اپنے دل کو کھتا اور اپنی آنکھوں کو تپاتا ہوں کہ جہاں باکمال کا نظارہ اسی عالم میں جس قدر کیا جاسکتا ہے کہ لو! یہاں الودار لو! پھر تم کہاں؟ اور یہ ہو فقہ کیا؟

تدتم بشتبیر عوار نجداً فبا بعد العشیة من سراج

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: اور! تم کیا سمجھتے ہو! میں تمہیں ایک

راز بتاتا ہوں۔

الکبرۃ مع عنی احبب انسان اسی کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت کرے گا۔

یہ ارشاد نبوی سن کر یہ خستہ جان جانتا نازہ سے پہرہ بابا ہوا۔ دربار سے نکلا۔

تو یہی ارشاد زبان پر تھا صحابہ سنتے تھے اور شادیاں ہونے لگتی تھیں۔ اس میں مسعودی نے

یہ ایک وہ مسرت تھی جو داخل اسلام کے وقت ہوئی تھی یا آج یہ ایک مسرت

ہے جو اس کے برابر ملی ہے

برادرانِ دین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے مقدم تر حبِ النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی وہ چیز ہے جو اہل حدیث و اہل ایمان کا طغرائے امتیاز ہونا چاہیے۔

مجھے یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کی طرف سے حبِ النبی کی دعوت دی جائے تو آپ کو کس قدر کامیابی حاصل ہو سکے جو مناظرات و مجادلات سے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی

صاحبان! مجھے اس قدر کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ کی انجمن ابھی قائم ہوئی ہے اور اس کے قیام کے پہلے یا دوسرے عہدے کے بعد ہی یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ انجمن کی عمارت کو صحیح بنیادوں پر بلند کیا جائے۔ کیا عجیب شعر ہے ۵

خشتِ اول چوں نہد معمار کج      تاثرِ پامے رود دیوار کج  
اب میں آپ سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے خطبہ افتتاحیہ کو ختم کر دوں گا۔  
دو سنوارات دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے کم از کم ایک گھنٹہ ایسا نکالو!  
جب کہ تم اپنے احساسات کو مادیات سے بلند کر سکو جب کہ روحانیت کا دروازہ کھٹکھٹا سکو!

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ ط      کارِ شادِ پچ ہے مگر ساٹھ ساٹھ یہ فرمان واجب  
الاذعان بھی موجود ہے



سب سے توڑو اللہ سے جوڑو۔

وَتَبَيَّنَ الْآيَةَ تَبَيَّنًا

آپ پوچھیں گے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے ؟

ہیں کہتا ہوں کہ سوال میری حیثیت سے بہ نسبت بڑھ کر ہے۔ مجھ جیسا ایسے کارہ

دنیادار، گنہگار جسے اپنے ذنوب پر سو سو اعتراف واقف ہے۔ اس کا جواب کیا

دے گا۔

اس کا جواب تو وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا

اور پیارے رسول نے اسے اللہ ہی کے الفاظ میں ہم کو پہنچا دیا

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

اسے رسول ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو

اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

اللہ آگے بڑھو میری راہ پر چلو میرے نقش قدم کو ہادی راہ

بتاؤ ایسا کرو گے تو تمہارا زہر بڑھ جائے گا اب تم محبوب

اللہ اب

تو پھر محبوب بن جاؤ گے

(آل عمران)

کہ ما نر سیدیم تو شاید برسی

وادیم تراز گنج توفیق نشان

ابھی قرآن پر ہمارا ایمان ہے ابھی تیرے رسول کی پیروی

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

ہمارا نشان ہے اب ہمارا نام تیری تیرے پاک کلمات میں

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

لکھ لیا جائے۔

ثم الصلوة على النبي فانه يبداى به ان كرا الحبيب بخانه

محمد بن عبدالمطلب

۶ دسمبر ۱۹۲۸ء (پٹیا لہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الحمد لله رب العالمین  
والصلاة والسلام على  
محمد وآله الطیبین الطاهرین  
الطاهرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الحمد لله رب العالمین  
والصلاة والسلام على  
محمد وآله الطیبین الطاهرین  
الطاهرات